



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# حیاتِ امیرِ شریعت

و عیسیٰ

تألیف جناب از مرزا

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کی کوئی عبارت بغیر ناشر اور مصنف کی اجازت کے نقل کر کے شائع نہ کی جائے۔

|                     |       |
|---------------------|-------|
| خالد سعید جانا آباد | ناشر  |
| مکتبہ تبصرہ لاہور   | پبلشر |
| چٹائی پریس لاہور    | طابع  |
| مقصود احمد          | کتابت |
| ایک ہزار            | تعداد |

حکومت تعلیم مغربی پاکستان سے سکولوں اور کالجوں کی لائبریریوں کے لئے منظور شدہ


نمبر سی ڈی / ایجوکیشن / ۱۲ — ۲۸ / ۶۷

مورخہ ۷ جنوری ۱۹۷۰ء

قیمت ۱۰۰ روپے

# اِس عظیم ماں کے نام

جس کی کوکھ نے ایشیا میں ایک ایسے  
 پست کو جنم دیا، جس کی لٹکار سے برطانوی  
 سلطنت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا



# فہرست

| صفحہ   | عنوان                             | صفحہ  | عنوان                   |
|--------|-----------------------------------|-------|-------------------------|
| ۲۲     | جلیا نوالہ باغ                    | ۱۶    | تصاویر                  |
| ۲۵     | احساسِ اُجڑا ہوا                  | ۲۲-۴۵ | باب اول                 |
| ۲۵     | آغازِ سفر                         |       | ۱۸۹۱ء تا ۱۹۲۱ء          |
| ۲۶     | پہلی سیاسی تقریر                  | ۲۲    | امیر شریعت              |
| ۲۷     | ترکِ موالات                       | ۲۶    | گھرانہ                  |
| ۲۷     | لاہور خلافت کمیٹی                 | ۲۹    | ننہاں                   |
| ۲۹     | مرزا بشیر الدین محمود سے پہلی وکٹ | ۲۹    | سید ضیاء الدین          |
| ۵۱     | آزاد ہائی سکول بکرات              | ۳۰    | شادی                    |
| ۵۲     | تخریبِ ہجرت                       | ۳۱    | ذامہ اندرابی            |
| ۵۶     | پہلی گرفتاری اور سزا              | ۳۱    | والدہ کی وفات           |
| ۶۱     | امرتسر میں ہسپتال                 | ۳۲    | بچپن                    |
| ۶۲     | مقدمہ کی ساعت                     | ۳۲    | قرأت                    |
| ۶۵     | فردِ جسم                          | ۳۵    | امرتسر میں              |
| ۶۵     | فیصلہ مقدمہ                       | ۳۶    | ناگڑیاں                 |
| ۶۶     | امرتسر جیل سے روانگی              | ۳۶    | شادی                    |
| ۶۶-۱۲۲ | باب دوم                           | ۳۶    | دوبارہ امرتسر میں       |
|        | ۱۹۲۱ء تا ۱۹۳۰ء                    | ۳۸    | امامت                   |
| ۶۶     | لاہور سنٹرل جیل                   | ۳۹    | غیر اسلامی رہیں         |
| ۶۷     | سٹانی کی درخواست                  | ۴۱    | جلیا نوالہ باغ کا حادثہ |
| ۶۹     | آزاد ہائی سکول کا خاتمہ           | ۴۳    | خدمتِ خلق               |
| ۶۹     | تخریبِ ترکِ موالات کا خاتمہ       | ۴۴    | مارشل لاء               |



|                |                                |     |                              |
|----------------|--------------------------------|-----|------------------------------|
| ۱۳۵            | — کا اجلاس                     | ۸۰  | تحریک خلافت کا سفر           |
| ۱۳۸            | وارنٹ گرفتاری                  | ۸۱  | تحریک ہندو                   |
| ۱۴۰            | قاغذہ حملہ                     | ۸۱  | سلاہتو مسلم فساد             |
| ۱۴۲            | گرفتاری                        | ۸۲  | جیل سے رائی                  |
| ۱۴۳            | باب سوم                        | ۸۳  | شہادی کا عملی پہلو           |
| ۱۹۳۰ء تا ۱۹۳۰ء |                                | ۸۶  | تحریک قہر                    |
| ۱۴۳            | ڈم ڈم جیل                      | ۸۸  | ایک سوال                     |
| ۱۴۴            | رستم زماں سے ملاقات            | ۸۸  | جواب                         |
| ۱۴۵            | رائی                           | ۹۰  | مرزاہیت کے خلاف فتویٰ        |
| ۱۴۶            | جلسہ اجراء کی تشکیل نو         | ۹۱  | پنجاب کے پیروں سے نکل        |
| ۱۴۶            | گاندھی جی سے ملاقات            | ۹۲  | سیاسنامہ                     |
| ۱۴۶            | میٹنگوں کا سلسلہ کا حادثہ      | ۱۰۰ | تحریک شاتم رسول              |
| ۱۴۶            | تحریک کشمیر                    | ۱۰۲ | شاتم رسولی واجب قتل ہے       |
| ۱۴۹            | دفتر کی روانگی                 | ۱۰۳ | شاہ جی کا موثق               |
| ۱۴۹            | شاہ جی کی گرفتاری              | ۱۰۵ | تیسری گرفتاری                |
| ۱۵۱            | بورشل جیل لاہور                | ۱۰۶ | سوامی شردھانند کا قتل        |
| ۱۵۲            | ایک ماں کا ایثار               | ۱۰۶ | تعمیرات ہند میں ترمیم        |
| ۱۵۳            | جیل سے رائی اور سکھوں سے ٹکراؤ | ۱۰۶ | شہر و پورٹ                   |
| ۱۵۵            | امیر شریعت کو زہر دیا گیا      | ۱۰۹ | چیدر پہلوئی کا مقدمہ         |
| ۱۵۶            | پنڈت کپرا رام برہمچاری         | ۱۱۲ | پیرکرم شاہ                   |
| ۱۵۹            | قادیان کانفرنس                 | ۱۱۶ | ۱۹۲۹ء                        |
| ۱۶۲            | گرفتاری                        | ۱۱۶ | شاتم رسولی کا قتل عام        |
| ۱۶۳            | ایک دلچسپ واقعہ                | ۱۱۹ | ایک خوفناک دھماکہ            |
| ۱۶۵            | مجذوب کی دعا                   | ۱۲۰ | فیلڈف قادیان کا خطبہ         |
| ۱۶۵            | مقدمہ کی روئیداد               | ۱۲۳ | ڈیرہ غازی خان                |
| ۱۶۶            | جمعہ الوداع                    | ۱۲۵ | ایک واقعہ                    |
| ۱۶۷            | فرد جرم                        | ۱۲۶ | ہتھکڑی                       |
| ۱۶۸            | تحریری بیان                    | ۱۲۶ | مٹان کا عزم                  |
| ۱۶۴            | فیصلہ                          | ۱۲۹ | شہزاد اہل                    |
| ۱۶۴            | سیشن کورٹ میں اپیل             | ۱۳۱ | جلسہ احسار کی صدارت          |
| ۱۶۵            | اپیل کا فیصلہ                  | ۱۳۲ | نیکس ستیہ گرہ                |
| ۱۶۵            | نظریہ امرتہ                    | ۱۳۳ | امیر شریعت کا اعزاز          |
|                |                                | ۱۳۵ | اردو برہمن جمعیت کے جلسے ہند |

|         |                               |         |                             |
|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------|
| ۲۶۱     | رہائی کے بعد                  | ۱۸۶     | زلزلہ کوئٹہ                 |
| ۲۶۲     | حضرت یحییٰ نوری سے وابستگی    | ۱۸۸     | مسجد شاہ چراغ               |
| ۲۶۳     | قانون کی شکست                 | ۱۹۱     | قتل کی سازش                 |
| ۲۶۴     | حکومت الہیہ                   | ۱۹۲     | قاتل سے ملاقات              |
| ۲۶۸     | مولانا گل شیر کی شہادت        | ۱۹۴     | تحریک مدح صحابہ کی ابتدا    |
| ۲۸۱     | تحریک پاکستان                 | ۱۹۸     | قادیان میں نماز جمعہ        |
| ۲۸۲     | قائد اعظم سے ملاقات کی خواہش  | ۱۹۹     | سینما کی تعمیر              |
| ۲۸۳     | قرار داد مجلس احرار           | ۲۰۲     | تبلیغ اسلام                 |
| ۲۸۹     | دہلی کا آخری اجلاس            | ۲۰۶     | ڈسکہ میں انتہائی معرکہ      |
| ۲۹۵     | امیر شریعت کشمیر میں          | ۲۱۰     | حضرت مدنی سے اختلاف         |
| ۲۹۶     | جہوری حکومت میں احرار کو      | ۲۱۳     | تحریک مدح صحابہ کا دوڑ ثانی |
| ۲۹۸     | شمولیت کی دعوت                | ۲۱۶     | قتل کی سازش کا الزام        |
| ۳۰۱     | کشمیر سے واپسی                | ۲۱۸     | ضلع میانوالی کا دورہ        |
| ۳۰۲     | ۱۹۳۵ء                         | ۲۱۹     | گرفتاری                     |
| ۳۰۶     | تقسیم پنجاب کی مخالفت         | ۲۱۹     | مجلس احرار کی قرار داد      |
| ۳۱۰     | عطاء اللہ شاہ شہید کر دیے گئے |         | باب چہارم                   |
| ۳۱۲     | خان گڑھ میں قیام              | ۲۲۲-۲۲۳ | ۱۹۳۰ء تا ۱۹۵۰ء              |
| ۳۱۴     | بچگی کی وفات                  | ۲۲۲     | ابتدائی کارروائی            |
| ۳۱۸     | پاکستان ۱۹۴۸ء                 | ۲۲۵     | لدھارام کی تلاش             |
| ۳۱۹     | نفاذ شریعت کا نفرین           | ۲۲۵     | ہائی کورٹ میں               |
| ۳۲۰     | ملتان میں قیام                | ۲۲۶     | لدھارام                     |
| ۳۲۶     | ۱۹۳۹ء                         | ۲۲۶     | عدالت میں                   |
|         | مجلس احرار کا آخری اجلاس      | ۲۳۸     | لدھارام کا بیان             |
|         | سیاسات سے علیحدگی             | ۲۴۲     | جرح کی اجازت                |
|         | باب پنجم                      | ۲۴۴     | نوٹ بک جلا دی گئی           |
| ۳۳۱-۳۳۱ | ۱۹۵۰ء تا ۱۹۶۱ء                | ۲۴۶     | عدالت سے تحفظ کی درخواست    |
| ۳۳۲     | استحکام پاکستان               | ۲۴۹     | تخصیص جہاز                  |
| ۳۳۵     | مسلم لیگ کی غلطی              | ۲۵۰     | لکڑی کا بکس                 |
| ۳۳۹     | والد صاحب کا انتقال           | ۲۵۱     | نصیہ جھوٹ                   |
| ۳۴۱     | ایک اہم انکشاف                | ۲۵۸     | خودکشی کا ارادہ             |
| ۳۴۱     | بیٹی کی شادی                  | ۲۶۳     | گرفتاری اور رہائی           |
| ۳۴۱     | جہیز                          | ۲۶۶     | دوسرا مقدمہ                 |

۴۱۶  
۴۱۷  
۴۱۸  
۴۲۰  
۴۲۳  
۴۲۴  
۴۲۷  
۴۳۰  
۴۳۱  
۴۳۱  
۴۳۲  
۴۳۳  
۴۳۴  
۴۴۱  
۴۴۲  
۴۴۳  
۴۴۴  
۴۴۶  
۴۴۷  
۴۴۸  
۴۴۹  
۴۵۰  
۴۵۲  
۴۵۷  
۴۵۸  
۴۵۹  
۴۶۰  
۴۶۰  
۴۶۱  
۴۶۴  
۴۶۹  
۴۷۷

ایک غلط خبر  
مقدمات کی واپسی  
مولانا ظفر علی خاں  
حضرت لاہوری کا فتویٰ  
پولیس کی نگرانی  
شیخ النسب  
شیعہ سنی فساد  
ڈاک پرسنر  
جلسہ اجراء کا اہتمام  
صدر سکندر مرزا کی خواہش  
جلسہ اجراء کا اجلاس  
فوجی انقلاب  
اجاب کی عقلیں  
لندن آنے کی دعوت  
اراضی کی پیشکش  
دعاے صحت کے لیے  
شعروشاعری  
ایک نامہ نگار سے  
خانج کا دوسرا بڑا حملہ  
خانج کا آخری حملہ  
ماہنامہ تبصرہ کا سنہاری نمبر  
نشر ہسپتال  
دعاے صحت  
پھر لاہور میں  
نماز  
انتقال  
موت کی خبر  
جنازہ  
آخری آرام گاہ  
اخبارات  
تقریرت  
لباس، خوراک اور عادات

۳۴۳  
۳۴۸  
۳۵۲  
۳۵۶  
۳۶۶  
۳۶۴  
۳۶۵  
۳۶۶  
۳۶۸  
۳۶۹  
۳۷۰  
۳۷۷  
۳۷۳  
۳۷۶  
۳۷۸  
۳۸۴  
۳۸۶  
۳۸۸  
۳۸۹  
۳۹۰  
۳۹۱  
۳۹۲  
۳۹۴  
۳۹۵  
۳۹۶  
۴۰۵  
۴۰۵  
۴۰۷  
۴۰۹  
۴۱۰  
۴۱۴  
۴۱۵

تخریب ختم نبوت  
جلسہ عمل کا قیام  
راست اقدام  
گرفاری  
کراچی جیل  
حکام کے بیانات  
سکھر جیل  
خوراک  
محمد علی بوگرہ کی آمد  
بھوپت ڈاکو  
لاہور سنٹرل جیل  
موقوف اور اعتماد  
سکھر جیل کا تذکرہ  
اسیران مارشل لا  
داستان پارینہ  
آخری سازش  
نئے سفر کا آغاز  
جلسہ تحفظ ختم نبوت کی صدارت  
سلبتیں کو وصیت  
ذیابیطس اور فلاح  
حج بیت اللہ کی دعوت  
روحانی صدمہ  
۱۹۵۵ء  
ڈسٹرکٹ جج کیسبل پور  
رہائی کے بعد جلی تقریر  
وصیت  
سیاسی انتقام  
رہائی  
غلط انتخاب  
لاہور میں آمد  
حیضہ جالندھری  
مولانا حبیب الرحمن کا انتقال

# ۱۹۶۹ء

میں جب پہلی باز حیات امیر شریعت، منظر عام پر آئی۔ تو مجھے یقین نہیں تھا کہ لوگ میری طرز تحریر کو پسند کریں گے۔ اس پر بھی شہ جی در رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے کتاب بڑا کو ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ آخر جب نگہت باد بھاری کا صحن چمن سے گذر ہوا تو گل بوٹوں سمیت باغ کی ہر شاخ گلِ نضا سے مہک اٹھی۔ پتے پتے کی زبان پر بہا رہا تو کا تذکرہ تھا۔ صیاد بھی داد دیے بغیر نہ سکا اور خزاں نے بھی بادلِ سخاوتہ سکر تکی نظروں سے دیکھا۔

مجھ سے پیشتر متعدد دانشوروں نے امیر شریعت کی سوانح حیات پر قلم اٹھایا۔ مگر یہ

نہ ہوا، پر نہ ہوا میت کا انداز نصیب

ذوق! یاروں نے بہت زور غزل میں مارا

الحمد للہ کہ خونِ جگر کی آیترش سے میں نے جو اشکِ پیازی کیے تھے وہی لالہ دگل کچھے کا غازہ قرار دیے گئے اور اس طرح ”حیات امیر شریعت“ کو عوام میں خاص اہمیت حاصل ہوئی۔

جنوری ۱۹۶۰ء کو پاکستان کے حکمہ تعلیم نے حیات امیر شریعت کو کالج اور سکولوں کی لائبریریوں کے لیے منظور کر لیا تو کتاب نئی فصل کے مطالعہ میں آئی۔ اس سے پیشتر اساتذہ سے طلبا تک کے دل اور ذہن حیات امیر شریعت سے بیگانہ تھے۔ وہ اس مردِ دیدار کی آبِ بیتی کو اپنی سمجھتے رہے جس نے برصغیر کی آزادی کے لیے نصف صدی غیر ملکی سامراج سے لڑائی لڑی اور اس جرم کی پاداش میں اسے جیل خانوں سے دہروں تک پہنچنا پڑا۔ جیسے جیسے وہ کتاب کے اوراق پلٹنے لگے حقیقت نکھر کر سامنے آتی گئی۔ اور قارئین کا ذوق تجسس بڑھتا گیا۔ لیکن کتاب بازار میں ختم ہو چکی تھی۔

قریباً پچھ سال گزرنے پر حالات نے ذرا سنبھال لیا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو حیات امیر شریعت کا با تصویر ایڈیشن جو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت، کتابت کی غلطیوں سے پاک قارئین کے سامنے ہے اس پر بھی اگر کہیں جھول محسوس ہو تو بلا حجاب مطلع کریں تاکہ اس پر آئندہ غور ہو سکے۔

آپ کا جانا باز مرزا

فاسلام :-

## ابتداء

۱۹۳۰ء کا زمانہ ہندوستان میں اُن سیاسی سرگرمیوں کے سوجھ بوجھ کا سال تھا جو آگے چل کر غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف پُر امن بغاوت کے حالات کو جنم دینے کا باعث بنیں۔ اس سے پہلے ۱۹۲۵ء کے ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں کے جلو میں دریائے راوی کے کنارے آل انڈیا کانگریس نے برطانوی سامراج سے مکمل گھوٹو خلاصی کے لئے اپنی تاریخی قرارداد منظور کی۔ ورنہ پیشتر ازیں ورجو نہ آبادیات کی خواہش تک تمام جدوجہد مرکوز تھی، شہید اشفاق اللہ بسمل کا یہ شعر اُس دور کی نشاندہی کرتا ہے

مجھ کو بل جائے چھیننے کے لئے شاخ میری  
 کون کہتا ہے کہ گلشن میں نہ صیت اور ہے

تحریکِ خلافت و تزکِ ممالک کے بعد ہاتھ باندھی کی قیادت میں غنیمت علی حکومت کے خلاف حصولِ آزادی کے لئے برصغیر کی یہ دوسری بڑی تحریکوں کی تیاری تھی۔ غلاموں کے جذبات اُبھر کر بغاوت کے موڑ پر اُن پہنچے تھے۔ ہندوستان کا ہر مرکزی شہر اس تحریک کا کیمپ قرار دیا جا چکا تھا، یہ نکلین ستیگرہ کی تحریک تھی۔ اسی سلسلے میں

گوجرانوالہ میں مولانا ظفر علی خاں کی صدارت میں ستیہ گرہ کانفرنس منعقد ہوئی، ان دنوں میری عمر اٹھارہ اُنیس سال کے آس پاس تھی۔ گوجرام دلیس کے نوجوان کے لیے زندگی کا یہ سن عقل و شعور سے عاری ہوتا ہے، تاہم فرنگی حکمرانوں کے خلاف میرے جذبات اس سال جوان اور بالغ ہو چکے تھے، اور انہیں تین ماؤں کے سہارے میں امرتسر سے سپیل گوجرانوالہ پہنچا۔

اس کانفرنس کا آخری دن می تھا کہ برشام پنڈال میں خاص قسم کی بہامی، چپڑوں پر رونق، دلوں میں مستوں کا طوفان موجزن تھا کہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری تقریر کیلئے آئے۔ خوبصورت خدو خال کے ساتھ مرنخ و سپید چہرے پر سیاہ داڑھی، گھٹیلہ جسم، بوناساقد، نیم آستین والا گاڑھے کا کرتہ، ٹخنوں سے اُونچا شترعی قسم کا کھدر کا پاجما، سر پر گول دیوبند طرز کی ٹوپی، پاؤں میں دسی ساخت کا چپل، یہ تھے سید عطاء اللہ شاہ بخاری پنڈال سے باہر کثیر جموں نے ان کا استقبال کیا، گوجرانوالہ کی زمین نے ان کے قدم چومے، آسمان نے بلائیں لیں، فضاؤں نے بہاروں کی بارش کر دی، جو ام کی نگاہیں فرش راہ ہوئیں، دل و دماغ نے ہم آہنگ ہو کر ہندوستان کے بہادر سپوت کا خیر مقدم کیا، وہ جیسے جیسے اپنی قیام گاہ کے قریب پہنچتے گئے، چاند۔ تاروں کا، جو ام اُن کی رہنمائی کرتا رہا۔ میں اُس اچھوت کی طرح جسے مندر کے دروازے پر رکھ کر بھگوان کی مورتی دیکھنے کی اجازت تو ہے لیکن قریب جا کر اُن کے چرن نہیں چھوس سکتا، دُور سے شاہ جی کو دیکھتا رہا۔

یہ تھی حضرت امیر شریعتؒ سے میری پہلی ملاقات!

اوسے ایسے کالا کلوٹرا کتھوں نے آندا ای حاجز؟



یہ کالا سیاہ کہاں سے لے آئے عاجز!)

آے کالا لڑے گاتے آپے ای پتر لگ جائے گا۔

یہ کالا جب ڈسے گا تو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔

امرتسر دیوے ایشی کے مسافر خانے میں بیٹھے خواجہ عبد الرحیم عاجز اور  
حضرت امیر شریعتؒ کے درمیان میرے متعلق یہ عشاء گفتگو تھی۔

مولانا عبد الرحمن نکودری کا سالانہ اجتماع تھا، یہ حضرات اس میں شمولیت کیے  
لیے نکودری صلیح جاندر جا رہے تھے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ میں حضرت امیر شریعتؒ کو  
قریب سے دیکھ رہا تھا، اس سفر میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی سے بھی ملنے کا موقع  
پلا۔ چار دن کی یہ ہمراہی زندگی بھر کا ساتھ بن گئی۔

اخلاص و محبت کا پیکر، زندہ دلی کا جسم، مسکراہٹوں کا انبار، انجمن ہزار  
دستخان خب وہ حلقہ احباب میں رونق افروز ہوا، تو میرے مستقبل کی ساری  
کائنات اُس کے تابع ہو کر رہ گئی۔ اس طرح دلوں سے ہنستے، مہینے اور سال گزارنے  
لگے۔ پھر جنابیں بھی گواہ ہیں کہ وفاؤں میں کبھی دوا نہیں آئی۔ ان راستوں میں  
پھول اور کانٹے ایک ساتھ بیٹے، اندھیرے اُجالوں سے بھی گذر ہوا، تو ایک دوسرے  
کا ہاتھ نہیں چھوٹا۔ جیل اور ریل کے طویل سفر مشترک اثاثہ نجات بنے رہے۔ مقاصد  
کی ہم آہنگی نے ان واقعات پر سے تیس سال گزار دیے۔

اس وادی پُر خار سے جب پہلے پہل میرا گزار ہوا، تو بچپنا جوانی کی ابتدا تھی  
سردوں پر چھوڑ کر جا چکا تھا، اور اگست ۱۹۶۱ء میں حضرت امیر شریعتؒ (رحمۃ اللہ علیہ)  
جب اس جہان سے رخصت ہوئے، تو میرا قدم بڑھاپے کی دہلیز پر تھا۔ حالات کی

ایک لمبی لکیر گزار کر جب رہنما کے بغیر مقاصد حیات کی راہوں سے گزرنا پڑا، تو اس بازار میں میرا قلم میرے ساتھ تھا۔ یہ ستمبر ۱۹۶۱ء کا ذکر ہے کہ حضرت امیر شریعتؒ کی سوانح حیات تا تاریخ کے دامن میں محفوظ کرنے کی سعی کی۔

یہ دستاویز مکمل کرنے میں آٹھ سال بیت گئے، تلاش و تجسس، جھٹائے و واقعات میں کن لوگوں سے راہ و رسم بڑھانے پڑے، یہ کہانی اس قدر طویل ہے کہ اس کے لیے پھر ایک کہانی کی ضرورت ہے۔

ستمبر ۱۹۶۱ء میں جب کتاب ہذا کا آغاز کیا، اور بہت سی منزلیں طے کر لیں تو فروری ۱۹۶۲ء میں دفتر تحفظ ختم نبوت لاہور سے تمام مسودہ چوری کر لیا گیا۔

بیسپ ایک دفعہ موتی اگھنے کے بعد بازیکو اطفال بن جاتا ہے۔ اسی طرح قلم سے ایک باز بگلی ہوئی عبارت اگھائی ہو جائے، تو دوبارہ اس میں وہ حبان نہیں آتی۔ مسودہ کیا کھویا، میرا دل کھوہ گیا۔ ہمارے ہوتے جواریے کی طرح

بیکار ہو کر بیٹھ گیا، خیالات کی متبع عمارت ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ عازم و ارادت کی پامالی چور کو دعائیں دینے لگی۔ بس طرح ایک سال بیت گیا، کہ میرے عزیز دوست ملک محمد رفیق مالک مکتبہ ادبستان نجب روزنامہ کوہستان لاہور کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے تو انہیں اپنے پرانے دھندے کو ازبر نو شروع کرنے کا خیال آیا، اور انہوں نے مجھے حضرت امیر شریعتؒ کی سوانح حیات مرتب کرنے کی دعوت دی، جسے میں نے بغیر کسی کاواری معاہدے کے قبول کر لیا۔ گری ہوئی عمارت کی نیو پھر سے اٹھانی پڑی، اور نیا تا تاریخ کے اوقات کھٹکانے میں مصروف ہو گیا۔

قریباً دو سو صفحات کی کتاب ہو چکی تھی کہ اچانک ایک روز ملک محمد رفیق نے

صعزت کے ساتھ کتاب کی اشاعتی ذمہ داریوں سے انکار کر دیا، اس کے لیے انہوں نے خانگی پریشانیوں کا غم تراشا۔ حقیقت اور افسانے کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے، یہ اندازہ میں نہیں کر سکا، بہر حال مسودہ چوری ہونے کے بعد یہ دوسرا موڈ آیا کہ بحیثیت مصنف مجھے پھر مایوسی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا۔

جاسوسی اور دوسرے فحاشی لٹریچر کی بہتات نے صاف ذہنوں کے مصنفین اور پبلشرز کو اپنی راہوں سے دُور کر دیا ہے، اور اس پر کاغذ کی گرانی کوہ ہمالیہ سے کہیں زیادہ بوجھل ہو کر گری ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایسی کتب کا فقدان ہوتا جا رہا ہے جس کی انسانیت کو خواہش ہے۔

ایسے وقت میں رفیق ملک کا "نجات امیر شریعت" کی اشاعت سے انکار میرے ارادوں کی نوت کے ہموزن تھا، لیکن اس تلاش پر ماتم کرنے کی بجائے میں نے کشتی کو اپنے آنسوؤں کے طوفان میں پھوڑ دیا، اور کرنروں کی تلاش میں ایک پتوار کے سہارے چلتا رہا، اور اکثر دفعہ ساحل پر پہنچ کر بھی مایوسی ہوئی۔

اقتدار و انسان کے دل و دماغ پر جب قابض ہو جاتا ہے تو اصولِ آدمیت ریت کے گھر وندے کی طرح گر جاتے ہیں۔ میں نے اس کتاب کی اشاعت کے لیے ایسے دو اوزاروں پر دستک دی، جہاں دولت کی حسدانی سے انسان اڑیس کے بھی پر کھڑتا ہے، لیکن میری صدا، صدا بصر ثابت ہوئی۔ اور انہیں دنوں

۵ باغبان نے آگ دی جب آئینانے کو میرے

جن پر تکبیر تھا وہی پتے ہوا وینے لگے

یہ آگ پھر ایسی بھڑکی کہ سارا گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔

انہیں حالات میں آٹھ برس گزر گئے، اور اُس مرودرویش کی کہانی جس نے  
 برصغیر کے کروڑوں انسانوں کی کہانی کو جلا بخشی تھی، بے رنگ و روغن پڑی رہی، آخر  
 بہار آئی اور نخلِ زمیدی سے ایسے پھول نکلے، کہ بے آب و گیاہ سرزمین کے کانٹوں  
 نے لالہ زار کو شرمندہ کر دیا۔

یہ درست ہے کہ اکثر دانشوروں نے حضرت امیرِ شریعت کو حَسْرَاجِ تَحْمِیْن  
 پیش کیا۔ ملکِ بھر کے اخبارات و رسائل نے اُن کی سیاسی اور مذہبی زندگی پر مسلم  
 اُختیابا۔ تاہم اُن کی مکمل زندگی کے ادھورے نقشِ مستقبل کے مؤرخ کو بیدار یا اُوَس  
 کرتے رہے۔

برطانیہ ایسی سلطنت کے چرچے، اُجھیاں بکھیرنے والے انسان کی زندگی کے حالات  
 واقعت کو اُس کی بعض طبعی کمزوریوں تک محدود کر دینا اُس کی کروٹوں ٹوٹیوں سے  
 ناانصافی ہے۔ اگرچہ زندگی میں اُس کے سیاسی اور مذہبی حریفوں نے اُس کے دل سے  
 میں کاٹے بکھیرے، اور اُس کی راہیں مسدود کرنے سے گریز نہیں کیا، تو بعد از مرگ  
 دوستِ نادرِ دشمنوں نے بھی کمی نہیں کی۔

لاریب کتاب ہذا میں مجھ سے امیرِ شریعت کی تمام زندگی کا احاطہ نہیں ہو سکا  
 اُن کی داستانِ حیات صحراؤں سے صحراؤں تک بکھری پڑی ہے، بُلْبُل سے کرگسوں  
 تک کو اُن کی کہانی یاد ہے، شمشیر و سناں کے تیز دھاروں سے چل کر غنڈل کے  
 مطلع و مقطع تک کے اصول و ضوابط ان سے آشنا ہیں۔ ایسے انسان کی کہانی  
 کاغذ کے دامن میں کیوں کر محیط ہو سکتی ہے۔ اور پھر ماضیِ قریب کے معماروں نے  
 اس راہ کے تمام مسافروں کے نقوش اس بُری طرح مٹائے ہیں کہ بادِ سوسم کو بھی

ہدایت کر دی کہ ایسے کسی نشان کو باقی نہ رہنے دے جس سے ماضی کے واقعات  
 نمایاں ہو سکیں۔ ایسے میں حقیقت اور افسانے کے باہم امتیاز کے لیے جن دو سس  
 رنگا ہوں کی ضرورت تھی، میرا وجود ہمیشہ اُس سے ہی رہا۔ اس کے باوجود ایئر لینیٹ کی  
 بہتر سالہ زندگی کے تاریک اور روشن پہلو اُجاگر کرنے میں میری عمر کے آٹھ برس صرف  
 ہوئے ہیں، اس راستے میں میں نے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی ہے، اُس کی نشاندہی کے  
 لیے میں تاریخ کا نمونہ ہوں گا، تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اس کی تصحیح ہو سکے۔

یہ حقیقت ہے، کہ کتاب ہذا کی ترتیب میں میری یادداشتوں نے میرا بڑی حد تک  
 ساتھ دیا۔ تاہم میں اُن مصنفوں کا شکر گزار ہوں جن کی تصانیف نے میری اکثر رہنمائی کی۔

ان میں

”زمین الاحسار“ — کے مصنف مولانا عزیز الرحمن لدھیانوی


”تحریک مدح صحابہ“ — کے مصنف مولانا مظہر علی اظہر

”مارشل لاء سے مارشل لاء تک“ — کے مصنف سید نور احمد

”رپورٹ تحقیقاتی عدالت“ — از مسٹر جسٹس محمد منیر

فسادات ۱۹۵۳ء“ { مسٹر جسٹس ایم آر کیانی

(جانناز مرزا)



غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا  
 قدا عمر رفتہ کو آواز دینا






ایمیر شریعت ۱۹۳۰ء کی ایک یادگار تصویر۔ ع  
ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا



۱۹۴۲ء کے تاریخی مقدمہ کے تین اہم کردار



سر سکندر حیات خاں وزیر اعلیٰ پنجاب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مہر ڈگلس نیگ




سرکاری رپورٹر مہر لدھارام






امیر شہزادیت ۱۹۴۲ء میں اپنے تاریخی مقدمہ سے رہائی کے لیے ایک گورٹ  
سے باہر تشریف لارہے ہیں۔





ثلاثة حبات






بلد مرنے کے میرے گھر سے یہ سماں نکلا




طاهر



کتابت و تصنیف  
مصنف



## ایمیر شریعت کی آخری آرام گاہ



برمزار ماغریباں نے پیرانے کے گلے

## امیر شریعت

خالق کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ انسانی وجود ہو یا حیوانی ڈھانچہ بکار خاند فطرت کے یہ حسین شاہکار کائنات کے یل دہنار میں آرائش کیے ہوئے ہیں۔

ایک گریم سہری اہد باوسوم کے درمیان پیکہ پھیلا کر اپنی زندگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو دوسرا نیکر محاش، عشق بتاں اور غم روزگار کے تاریک بکسوت میں الجھا ہوا ہے اور یہی اس کی زندگی ہے موت دونوں کی منزل ہے۔ کچھ فاصلے پر چل کر دونوں دم توڑ دیں گے۔ زندگی دونوں سے وفا نہیں کرتی۔ لیکن حواس خمسہ کی سرحدوں سے آگے دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم ہو جاتی ہیں۔

اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے اور اس کا تینہ فطرت ٹوٹ نہیں گیا، تو لمحہ سے مہمت تک کی تمام ذمہ داریوں کی تصویر صاف دکھائی دے گی۔ اسے اپنے راستے کے پھول اور کانٹوں میں کوئی الجھاؤ نظر نہیں آئے گا۔ وہ مستقبل پر اپنے کھن پاموجود پائے گا۔

سید عطا اللہ شاہ بخاری ایسے ہی زندہ جاوید لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ آرائش کائنات میں ایسے چوان کی طرح روشن رہے جس کی تو میں آسمان کے ستاروں نے اپنی راہیں تلاش کیں اور گم کردہ راہ انسانوں نے انہیں راہ انسانیت کا سنگ میل جانا۔

وہ حریت و مساوات کی جنس گراں بار اٹھائے زندگی کے بازاروں میں ربیع صدی تک لوگوں کو ہر موڑ پر بلاتے رہے۔ انہوں نے گورستانوں میں برسوں اذانیں دیں لیکن غلام رگوں کے بجمخون کو اپنی گرم گفتاری سے حرکت میں ترلا سکے۔

اگر وہ پہاڑوں کو پکارتے تو شاید وہ خاک راہ بن کر ان کے دامن سے پھٹ جاتے۔ اگر

تاروں کو آواز دیتے تو یقیناً وہ اپنی تہذیبیں زمین کے حوالے کر دیتے۔ مگر آہ! بخاری نے ان دونوں پر دھک دی جن کے دل خون سے تھی، آنکھیں بنیانی سے محروم اور کان صدائے حق سے نا آشنا۔

فرنگی قمارخانوں کی دیواروں پر کھڑے ہو کر اس نے حجازی نے میں وہ گیت چھیڑا کہ صراحی و جام مٹکا کر رہ گئے اور ساتی لپٹے حواس کھو بیٹھا۔ وہ ایک ایسا قافلہ سالار تھا کہ راستے کا گردغبار بھی اس کی منزل اور جیل نہ کر سکا۔ وہ اپنے پیچھے جو نقش پا کر گیا ہے، مستقبل کے مسافروں کے لیے ان میں کئی منزلیں پوشیدہ ہیں۔

زندگی اور موت کے درمیان جب تک کشمکش جاری ہے، نظام کائنات جب تک متحرک ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جب تک بہار و خزاں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔

سال ۱۸۹۱ء کے ییل دنہار پر فرنگی حکمرانوں کی جلوہ آفرینیاں ہنوز جہنم لے رہی تھیں ہندوستان کے دو دیوار ۱۸۵ء کے غیر ملکی تشدد کی صدائے بازگشت سے کبھی کبھار کچھ پی محسوس کرنے لگتے تھے۔ غلامی کی زنجیریں سارے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ ہندوستان کا بخت اقتدار فرنگی کے روبرو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔

وقت نے ہمیشہ بخت کا ساتھ دیا ہے۔ زمانہ شاہی عروج کے جلو میں چلنے کا حادی ہے۔ غلام ہندوستان سے وقت اور بخت دونوں روٹھ چکے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے آفتاب کو غروب ہونے ۳۲ برس بیت چکے تھے کہ پٹنہ ضلع ہمارے سر زمین پر ریح الاول ۱۳۱۰ھ بمطابق ۱۸۹۱ء) چاند رات جمعہ کے دن نور کے تلے کے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ودھیال کی طرف سے عطاء اللہ اور نہال کی جانب سے شرف الدین احمد رکھا گیا۔

خدا کے سوا اس راز سے کون آشنا تھا کہ آج ایک ماں اپنی کوکھ سے جس بچے کو جنم دے رہی ہے وہ خون اور گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ مستقبل کے ہندوستان کی پیشانی کا ایک جھومر ہے جس کی روشنی سے حکمرانوں کی آنکھیں پندھیا جائیں گی اور دنیا نئے انسانیت میں وہ وقت

کا عظیم خطیب ہوگا۔

سیاسی لحاظ سے ۹۱ ماہ کا سال بڑا اہم سال تھا۔ جس سن میں بعض اور لوگ بھی عدم سے وجود میں آئے، جنہوں نے آگے چل کر تاریخ آدمیت کو اپنے خون سے جلا بخشی۔ جنون شوق سے عقل و خود کی راہیں ہموار کیں تاکہ ان کے دلوں کے پھم راہتے کے نشیب و فراز پر ان کا ہر نقش پانسنگ میل بن کر رہ جائے۔

اس سلسلے میں یوگو سلاویہ کے صدر جوزف بروز ٹیٹو، فرانس کے جنرل چارلس ڈیگال، جاپان کے شاہی خاندان کے خنزادہ گینونی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

نظام فطرت کی پوئلہوئیاں دیکھنے کے ایک ہی وقت، ایک ہی موسم اور ایک ہی سال میں ماں کی کوکھ سے دھرتی کی پیٹھ پر آنے والے یہ چاروں بچے کائنات کے بناؤ سنگاریں کس طرح مصروف رہے۔

آخر انڈیا کی یورپ میں پیدا ہوئے۔ راج سنگھ سن پر پیٹھ کر لوگوں پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن اول انڈیا کے ایشیا کی گود میں جنم لے کر حلام کے دلوں پر سکرانی کی۔

تاریخ جن لوگوں کو اپنی تکمیل کے لیے منتخب کرتی ہے۔ لازم نہیں کہ ان کی نسبت گھٹانا کسی اونچے اور اعلیٰ خاندان سے ہو۔ بلکہ ماضی بعید میں جن لوگوں نے تاریخ کے صفحات پر اپنے نقش چھوڑے ان کے آباؤ اجداد کو وقت کے حاکمانہ وقار نے کبھی نظر اتفات سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ لیکن جھونپڑیوں میں پرورش پانے والوں نے جب عملات پر کندیں ڈالیں تو شاہی تلج ان کے قدم چومنے لگا۔ اور فرماں روائی ان کی جہائیں اٹھائے پھری۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک ایسے گھرنے میں جنم لیا جو روحانی دنیا میں رشد و ہدایت کا صدیوں عمود رہا۔ انسانی زیست نے فرد و مباحات کے سینکڑوں صنم خانے ویران کر کے انہی مے خانوں سے اپنی آنکھوں کے ڈورے سرخ کیے۔ ان کے لڑکھاتے قدم انہیں آستانہ مراکز لے آئے۔ یہیں سے انسانیت اپنی منزل کے لیے سفر شروع کرتی ہے۔

اس صدی کے مشہور کشمیری مؤرخ منشی محمد الدین فوق اپنی تصنیف "تاریخ کشمیر" کے دوسرے حصہ میں رقم طراز ہیں کہ:-

"حضرت امام حسن مجتبیٰ کی چوبیسویں اور حضرت سید محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کی تیرہویں پشت سے ایک بزرگ سید عبدالغفار بخاری المشہور قاضی خانقاہی بخارا سے اپنے والد سید محمد بخاری کے ہمراہ کشمیر تشریف لائے یہ اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ عہدہ دس وقت پرفائز ہوئے۔ سرینگر میں اب بھی آپ کی قبر مزار بڑہ شاہؒ میں دیوار سے متصل شمال کی جانب موجود ہے۔

سید عبدالغفارؒ کی اولاد کشمیر کے علاوہ پنجاب کے اضلاع گجرات اور امرتسر میں اکثر پھیلی اور اب بھی موجود ہے۔ انہی کی اولاد سے ساتویں پشت میں سید عبدالرسولؒ جو کہ سید رحمت اللہ کے بیٹے تھے ایک خدا رسیدہ بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا تقویٰ میاں تک تھا کہ مرغی کا انڈہ اور مرغ صرف اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ یہ دانہ دیکھا لوگوں کے گھروں میں بھی جا کر کھایا کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں شاہ عبدالرحمان دجور خان شاہ کے نام سے ایک مشہور مجدد بگزرے ہیں، کے اشارے سے سید عبدالرسول نے اپنے دونوں بیٹوں سید حضور اللہ اور سید ولی اللہ کو دستکاری اور علوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔"

اس سلسلے میں آگے چل کر تاریخ اقوام کشمیر کے مصنف شجرہ نسب کو یوں ترتیب

حضرت امام حسن مجتبیٰ

دیتے ہیں۔

سید محمد بخاری دچوبیسویں پشت حضرت محی الدین سید عبدالقادر جیلانیؒ

سید عبدالغفار بخاری تیرہویں پشت

سید عطا اللہ شاہ اول چوتھی پشت





سید امان اللہ کے چھ بیٹے ہیں، جن میں دو اولاد زینب سے محروم رہے۔ چار اولاد زینب سے سرفراز کیے گئے۔ سید محمد شاہ کے پانچ لڑکے تھے۔ سید پیر شاہ لا ولد تھے اور سید حسام الدین کے ہاں عمر بھر اولاد نہ ہوئی، باقی تین صاحب اولاد تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری سید نور شاہ کے پوتے اور سید ضیاء الدین کے فرزند تھے۔

اس طرح سے یہ خاندان اب تک پاکستان کے اکثر علاقوں میں پھیل پھول رہا ہے۔ لوگ انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

لا ریب آدمی کا سلسلہ نسب دوھیال سے شروع ہوتا ہے، لیکن عالی نسب **نہال** ہونے کے لیے اس قدر سدا دھوری معلوم ہوتی ہے۔

ماں کی کوکھ میں اولاد بھی تبھی صالح پرورش پائے گی، جب ماں کا اپنا خون شریعت النفس والدین کی بنیاد پر ہوگا۔ سونہرے ایک طرف نیکی کے نتائج اکثر نیر صالح رہے ہیں۔

بلاشبہ سید عطا اللہ شاہ کی عالی لیبی جس کے باعث ان کے دوھیال کی قبائے زندگی ہمیشہ روشن رہی، قدرے ادھوری معلوم ہوتی اگر اس میں نہال کا پیوند برابر کا نہ ہوتا۔ چنانچہ سید عطا اللہ شاہ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ اندرابی بنت مولانا سکیم حافظ سید احمد اندرابی کا نسب نامہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ کو روحانی دنیا میں بلند مقام حاصل ہے۔ ان کی نواسی سید عطا اللہ کی نانی اماں تھیں۔

سید ضیاء الدین ہنوز غیر ملکی اقتدار کا سورج طلوع ہونے سے چند ساعتیں گزری تھیں، ابھی حالاً نے وفا کے دامن کو گرہ نہیں دی تھی، دلوں کے تالے چابی کھوجانے پر

بھی زنگ آلود نہیں ہوئے تھے کہ سید عطا اللہ شاہ کے والد سید ضیاء الدین اپنے تایا سید پیر شاہ صاحب بخاری اور چچا حافظ سید محمد شاہ صاحب بخاری کے ساتھ لپٹینے کی سوداگری کرنے اپنے گاؤں ناگڑیاں ضلع گجرات سے بہار کے مشہور شہر پٹنہ میں اکثر جایا کرتے تھے۔

ان دنوں یا مشارہ انیس سال کے پیٹھے میں تھے۔ انہیں قرآن کریم پڑھنے اور سنانے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک دفعہ محلہ چوک بازار (پٹنہ) میں ملک جنرل کی مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں شبینہ کے روز نماز عشاء کے وقت پتر چلا کر آج تین حافظ باہم مل کر قرآن کریم ختم کریں گے تو خاصہ میں کہا

”یہ کیا حرکت ہے، ایک ہی آدمی کو قرآن کریم ختم کرنا چاہیے؟“  
اس پر دوسرے حافظ نے طنزاً کہا، ”تو پھر یہ کام آپ ہی کریں“  
”بہت اچھا۔“ یہ کہہ کر مسجد سے چلے آئے۔

گھر آئے تو چہرے پر تغیر کے آثار دیکھ کر سید جید شاہ نے فرمایا۔  
”کیا بات ہے حافظ جی۔؟ کچھ کھوٹے کھوٹے سے دکھائی دیتے ہو؟“  
اس پر مسجد کا سارا واقعہ کہہ دیا۔ جید شاہ نے فرمایا۔

”اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کر دینا“

چنانچہ رات جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت میں چھبیس پارے ختم کر دیے۔ اسی طرح مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مولانا محمد رحمت اللہ کا بیان ہے کہ:-

”۱۸۵۷ء کے بعد ایک مدت میں نے پٹنہ (گنگا کے کنارے) مسجد میں گزاری  
ان دنوں حافظ ضیاء الدین کی عمر اسی سال تھی، اور انہوں نے ایک رات مجھے  
ایک ہی رکعت میں سارا قرآن کریم سنا دیا تھا“

**شادی** نیک سیدوں کا یہ خاندان ایک عرصہ پٹنہ میں رہ کر اس قدر مقبول ہوا کہ نہ صرف کاہنہ بار  
میں برکت اور رحمت ہوتی، دنیوی قرابت داری کی خواہشیں بھی پروان چڑھنے  
لگیں۔ پٹنہ کے متول اور دین دار صاحب فکر حکیم حافظ سید احمد اندرابی نے جن سے اکثر خاندانی  
تحفقات، استوار ہو چکے تھے اپنی دفتر نیک اختر حضرت حافظ سیدہ طاہرہ اندرابی کی شادی

حافظ سید ضیاء الدین سے کر دی۔

فاطمہ اندرابی | صدہا میں فرنگی سامراج کے ہاتھوں دلی کا جو مساک اُڑا اگر جنکا کمر میں آج

تاریخ کے اوراق اگل دیں اور لال تلے کی دیواریں ان خونخوار حادثات کی گوشتاکی  
کریں تو ماضی کی ایک ایک کیرا بھر کر سامنے آجائے۔ شرافت اور تمدن کی برہنہ لاشیں دہلی  
کی تباہیوں پر شرم و حیا کی بھیک مانگ رہی تھیں، آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی عمارات  
غیر ملکی حکمرانوں کے ظلم و جبر میں رنگ بھر رہی تھیں، گلیاں اور بازار خانہ خانوں کے بے خانماں  
ہونے پر ماتم کناں تھے۔

اس پورا ثوب دور میں اُڑے ہوئے گھروں میں ایک گھرانا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ  
جلیلکے نواسی کا بھی تھا، جو دہلی سے صوبہ بہار کے شہر ٹنڈہ میں جا کر آباد ہوا۔ سیدہ فاطمہ اندرابی  
اسی گھر کی نیک بیٹی تھیں۔

والدہ کی وفات | انسانی ارادے دلوں میں جنم لیتے ہیں، ذہنوں میں پرورش پاتے ہیں اور  
عمل کی دنیا میں اکثر و بیشتر مات کھا جاتے ہیں۔ یہیں سے قدرت اور

انسان کے درمیان مفاد فاصل قائم ہوتی ہے۔ اگر عزم انسانی کائنات کی تسخیر کے نقشے سوچتا  
ہے تو خالق کائنات ہر نقشے کو نقش فریادی بنا دیتے ہیں کہ آدمی کے تصورات کا ہیوٹی پانی پانی  
ہو کر رہ جاتا ہے۔ والدین اولاد کے مستقبل کے لیے جو خاکے ترتیب دیتے ہیں۔ کبھی توڑ  
ریت کے گھر وندے ثابت ہوتے ہیں اور کبھی ان پر تاج شاہی کے گل بوٹے کھلتے ہیں۔

سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کی چوتھی بہار میں سے گزر رہے تھے کہ ان کی والدہ محترمہ  
کو داعی اجل کا پیام آگیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ گو آنحضرتؐ پوری میں ماں کا پیار جلوہ نگین  
نہیں تھا تاہم شفقت والد نے انہیں اس احساس سے دور رکھا۔

بغیر ماں کے بچے کی زندگی اس پتے کی طرح ہوتی ہے جو شاخ سے ٹوٹ کر کبھی تو  
بادِ موسم کی جھولی میں جا کر تباہ ہے اور کبھی نیم سوگاہی اسے اپنے پالنے میں سنبھال لیتی ہے

تاہم شاخ سے محروم زندگی تلخ کامیوں میں بسر ہوتی ہے۔

بن ماں کے سچے باپ کی تربیت کے سہارے پروان چڑھنے لگا۔ ۱۸۵۷ء کی صدائے بازگشت سے کبھی کبھار فضا میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوتا لیکن شاد عظیم آبادی کے لگنے فضا کا رخ موڑ دیتے۔ ان دنوں پٹنہ میں حضرت شاد عظیم آبادی کا چراغ جل رہا تھا۔ شعروادب کی ساری رونقیں ان کے وجود کے گرد سمٹ کر رہ گئی تھیں۔

سید علی محمد شاد جو آگے چل کر شاد عظیم آبادی کے نام سے معروف ہوئے جنوری ۱۸۴۳ء کو پٹنہ کے محلہ پورب دروازہ میں پیدا ہوئے اور جنوری ۱۹۲۷ء کو انتقال کر گئے۔

محلہ پورب دروازہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے محلہ کے برابر میں تھا۔ پڑوسی اور سید ہونے کے باعث شاد عظیم آبادی کا بچپن اکثر شاہ جی کی ثانی اماں کے ہاں گزارتا۔ پٹنہ میں یہ گھرانہ بھی علم و ادب کا مرکز تھا اس لیے شاد عظیم آبادی نے بھی اس صحبت سے کافی فیض پایا۔ پشاور زبان کی نوک پلک اور شعر کہنے کا سلیقہ اسی گھر کا مہربان منت ہے۔

شاد عظیم آبادی کی عمر اور شاعری اپنی جوانی کی سرحدیں عبور کر چکی تھیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کو جھولنے سے نکال کر ان کی گود میں ڈال دیا اور مستقبل کا خطیب اعظم وقت کے عظیم شاعر کی جھولی میں شعروادب کے کھلونوں سے کھیلنے لگا۔

بچہ خواہ انسان کا ہو یا حیوان کا عادات و خصائل میں ترازو کے ایک ہی تول تقنا بچپن ہے۔ امتیاز جس دوسری بات ہے مگر فحشی دونوں کے خمیر میں ایک سی ہے۔ شرارت دونوں کی گھٹی میں ہے اور پھر جو بچہ یتیم ہو، عزیز و اقارب کا پیار اس کے بگاڑ میں خاصا معاون ہوتا ہے۔

والدہ کی موت کے بعد شاہ جی گوماں کا پیار اور ان کی ذمہ داریاں صرف والد کے پید میں تلاش کرنی پڑیں۔ پشاور باپ نے فرزند کے گرد پیار و محبت کا ایک ایسا حصار تعمیر کیا جس میں علم دین کی تکمیل ہو سکے۔ یہ دور تھا کہ اس میں انگریزی تعلیم مذہب سے لگاؤ رکھنے

دائے لوگوں کے نزدیک اخلاقی طور پر جرم سمجھی جاتی تھی۔ نیز شرفا کے ہاں بچوں کی ابتدائی تعلیم گھروں میں تکمیل پاتی تھی۔ چونکہ عربی اور فارسی خود شاہ جی کے اپنے گھر کی تعلیم تھی۔ نانا اور نانی مسلم بنے، باپ نے نگرانی کی اور پھر شاد کی ادبی محفلوں نے اس سونے کے نکھار میں سہاگے کا کام کیا۔

والد صاحب کا شوق تھا کہ بیٹان کی طرح حافظ قرآن ہو۔ چنانچہ کاروبار کے علاوہ وقت کا اکثر حصہ شاہ جی کو قرآن پڑھانے میں صرف کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ جی کو قرآن سے عشق ہو گیا اور ہر وقت کتاب اللہ کو سینے سے لگائے رکھتے۔

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت جلالی تھی۔ لہذا ان کے خوف اور قرآن سے لگاؤ کے درمیان کھیل کود کے ایسے وقت مکان کار سے وارد تھا، تاہم گھر میں ماموں ہم عمر تھے۔ دونوں کی مٹی بھگت سے پریشانی بھی جاری رہتا۔ شاہ صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ:

”مجھے پتنگ اڑانے کا بہت شوق تھا۔ قرآن کریم اور دوسری تعلیم سے ذرا فرصت ملتی اور والد صاحب کہیں کام کے لیے گھر سے نکلے تو ماموں کو ساتھ لیا اور بھٹ سے پھٹت پر جا چڑھے۔ پتنگ کا شغل شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ آمنے سامنے بیچ لڑ رہے ہیں اور دونوں طرف سے ڈور پٹائی جارہی ہے کہ اتنے میں والد صاحب تشریف لے آئے بس پور کیا تھا وہیں ہاتھ سے ڈور توڑ کر نیچے بھاگ آئے۔ اب ایک طرف پتنگ کٹی جارہی ہے اور دوسری طرف بڑے مقابل شکست کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ مگر ہو بھی کیا سکتا تھا۔ انکھیں پتنگ کی طرف، کان دشمنوں کی آوازوں پر اور دل میں خوف کہ کہیں آنے دیکھ پایا ہو اور اگر کہیں پتہ چل گیا تو پھر چوٹائی ہوئی وہ خدا ہی جانتا ہے“

بہر حال تعلیم کے ساتھ ساتھ چھپنے کی روانتی شونیاں بھی اپنا کام کرتی رہیں۔

## قرأت

جنون شوق اگر خود کا پاسان ہو تو ناخن تدبیر دل کی گرہ کشائی میں رہنمائی کرتے ہیں۔ شاہ جی کو کتاب اللہ درانت میں ملی تھی۔ ننہال کا گھرانہ ادین مبین سے نا آشنا نہیں تھا۔ والدہ محترمہ قرآن کی حافظہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ بھی اس نوزینے سے مالامال تو پھر بیٹا اس دولت سے کیوں کرتی دامن رہ سکتا تھا۔ دو سال میں قرآن کریم ازبر کر لیا۔ خود شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

• میں اکثر فجر آمد ظہر کے درمیان قرآن کریم ختم کر لیا کرتا تھا۔

ان دنوں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھارہ سال کے بیٹے میں تھے۔ محمد عمر عاصم نامی کویت کا ایک شخص جو سلطان عبدالحمید والئے ترکیہ کے پھول کو قرآن کریم پڑھانے پر مامور تھا۔ سلطان کی اس سے قدرے ناراضگی ہو گئی اور وہ ترکیہ چھوڑ کر ہندوستان کی سیاحت کے لیے نکل آیا۔ میر و تفریح کے دوران جب وہ پٹنہ آیا تو یہاں کی آب و ہوا نے اسے متاثر کیا اور ایک مدت وہ یہیں رہا۔ قدرت نے اس کے گلے میں رس اور آواز میں نمودار بنا دیا تھا۔ وہ جب کبھی موح میں آکر قرآن کریم پڑھتا تو غیر مسلم بھی مسجد کے گرد جمع ہو جاتے۔ شاہ جی کو اخذ فن میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ اکثر محمد عمر عاصم کے لہجہ میں قرآن کریم پڑھتے اور پھر گھر میں اس کی مشق کرتے۔ چنانچہ ایک دن شاہ جی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ محمد عمر عاصم کا گزر اس راستے سے ہوا تو وہ شاہ جی کی آواز اور اپنا ہی لہجہ سن کر بہت متاثر ہوا۔ اسی شام محمد عمر عاصم نے حضرت شاہ جی کے والد سے درخواست کی کہ آپ اس بچے کو میرے پاس بھیج دیا کریں۔

فن قرأت میں عربی زبان کے تلفظ اور آواز کے زیر و بم کو ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے لیکن اکثر قاری قرأت کے سفر پر ایک کوچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ شاہ جی کو فن قرأت کی یہ مہارت حاصل رہی کہ قرآن کریم تلاوت کرتے وقت ان راہوں سے ہم و احتیاط سے گزرتے۔ ججائی نے میں ان کے گلے کی حلاوت ان کا پورا ساتھ دینی اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ قرآن کریم پڑھتے

تویوں معلوم دیتا ہے جیسے آسمان سے ابھی نازل ہو رہا ہے۔ پچاسچھ اکثر واقعات ہیں کہ غیر مسلم ان کے جلسے میں صرف قرآن حکیم سننے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کئی خاندان مسلمان ہوئے۔

سال ۱۹۱۲ء یورپ اور ایشیائی قوموں کی ہلاکت آفرینیوں کی تیاریوں میں مصروف

امرتسر میں تھا۔ بنی نوع انسان کی تباہی کے نشانات ابھر رہے تھے۔ یورپ کے سیاسی دانشوروں کے غلط فیصلوں نے براعظم کو مرگ و زلیست کے دوراہے پر لاکھڑا کیا تھا۔ بریٹنی اور برطانیہ کی جنگ ایک تہذیب اور ضرورت کی لڑائی تھی۔ آگ اور موت کے اس کھیل میں برطانوی استعمار ایشیا کو استحلال کرنے کے نقشے بنا چکا تھا۔ غلام قوموں کے مردہ ضمیر پر کھڑے ہو کر پہلی جنگ عظیم لڑنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ شاہ جیؒ والد صاحب کی اجازت ایسے نیچر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔

سر پر بھاری قسم کی ریشمی سمبرنگڑھی، ریشمی اچکن، تنگ پانچھے کی شلوار اور بھاری طرز کی سرخ رنگ کی جوتی پہنے چھوٹا سا لوہے کا ٹرنک اٹھائے دن کے چار بجے ہال بازار امرتسر میں سید اسد اللہ شاہ بخاری کی دکان پر پہنچے۔ یہ بزرگ شاہ جی کے قرابت داروں میں سے تھے۔ ان دنوں شاہ جی کی عمر قریباً اکیس برس کے پیٹھے میں تھی۔

”میرا نام عطا اللہ ہے۔ میں حافظ ضیاء الدین کا بیٹا ہوں اور پٹنہ سے ان کی اجازت کے بغیر آیا ہوں“

اس سفر کی کہانی شاہ جی یوں بیان کرتے ہیں۔

”میں گھر سے نکل کر کچھ مدت بنارس پہنچنے والی مسجد کے زیر سایہ میاں شکر اللہ کے پاس ٹھہرا۔ یہ صاحب چاندی کے ورق کوٹنے کا دھند کرتے تھے اور پہلوانی بھی۔ ان کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے ورزش کرنی اور ڈھنگ سے پلینے شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں جاری رہا۔“

میرا اسد اللہ بخاری کے برادر نسبتی مید پیر شاہ بخاری جو رشتہ میں شاہ جی کے والد کے چچا

تھے، انہیں دینی تعلیم کے لیے حضرت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ کے ہاں چھوڑ آئے مفتی غلام مصطفیٰ ان دنوں کٹھاکھاراں کی مسجد کے خطیب اور مدرسہ نصرت الحق میں مدرس تھے۔ ان کا شمار اپنے علم اور تقویٰ کے اعتبار سے اس دور کے ممتاز علماء میں تھا۔

شاہ جی نے ۱۹۱۴ء تک اس درس گاہ میں "صرف و نحو" اور فقہ کی کتابوں کی تعلیم مکمل کی تاگرہات سے قریباً پندرہ میل کٹھیر سے ملحق پھاڑ کے دامن میں یہ مختصر سی تاریخی بستی مہاراجہ اشوک کے دور میں "ناگنی" کے نام سے مشہور تھی۔ تاریخ کا دامن اس سے آگے

ناگرہیاں

تہی ہے کہ یہ بستی کس نے آباد کی اور اس کا نام کیوں کر بٹھا؟ ہاں اس قدر پتہ چلتا ہے کہ مہاراجہ ۱۸۴۴ء میں جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے انگریزوں سے کشمیر کا سودا کیا تو کشمیر کے چند مسلمان گھرنے یہاں آکر آباد ہو گئے۔ سیدوں کا یہ گھرانہ بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ جن کے ہاں آگے چل کر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جنم لیا۔ یہ لوگ ہنوز اس گاؤں کی سرزمین کو اپنے نیک اور پاک وجود سے قبروں میں آرام کرنے کے باوجود منور کیے ہوئے ہیں۔

شفقتِ پدری بیٹے کی جدائی کو زیادہ دیر گوارا نہ کر سکی اور ۱۹۱۴ء کو حافظ ضیاء الدین اپنے بیٹے کو امرتسر سے ناگرہیاں لے گئے۔

یہ سال پہلی جنگ عظیم کا ابتدائی سال ہے۔ اس سن میں یورپ کی مذہب تو موں نے ایک دوسرے کے گریبانوں سے کھیلنے کی مشق ایجاد کی تھی اور انہی دنوں تہذیب مغرب عرباں ہو کر ایشیا اور وسط ایشیا کے آزاد رسم و رواج کے گرد غلامی کا حصار تعمیر کرنے کو سامنے آکھڑی ہوئی تھی۔

۱۸۵ء کے بعد گو غلام ہندوستان کا نہ تو کوئی تمدن رہا تھا اور نہ تہذیب کے پاس ایسا کوئی پیر بن تھا جس کی گرہ کشائی سے گمشدہ تہذیب کی نشان دہی ہوتی۔ لیکن بھگتی ہوئی تہذیبیں ابھی ایسی روشنی دے رہی تھیں جن کے جلو میں چند صدی خواں دکھائی دیتے تھے، جو دوران صحراؤں میں مجازی لے پر تہذیب کُنہ کے گیت الاپ رہے تھے۔ اسی دور میں شاہ جی کی



شادی کی رسم سید میر تقی شاہ صاحب کی دسترنیک اختر سے ہوئی۔ سید میر تقی شاہ صاحب سید ضیاء الدین کے عم زاد بھائی تھے۔

لمہاتے کھیتوں کے کنارے قدیم وضع کے دیہاتی کنوؤں نے سید زادے کی تقریباً سید پرغوشی سے دفین بجائیں۔ گاؤں کے پٹر باریتوں پر اپنے دامن سے ہوا کر رہے تھے۔ بڑی بوڑھیوں نے دُعاؤں کے ساتھ سہاگ کے گیت گائے۔ دیہات کی لہڑ دو شیرا نہیں اس آئینے میں اپنے مستقبل کی تصویریں دیکھنے لگیں۔ گاؤں کے گھٹیلے جوان جذبات کی پگڈنڈیوں پر سفر کرتے ہوئے اس شادی میں شریک ہوئے۔ ان سادہ اور اسلامی رسم و رواج کو دیہات کی سادگی نے اور جلا بخش دی، جسے دیکھ کر تہذیب مشرق دور کھڑی مسکراتی رہی۔

دوبارہ امرتسر میں | ۱۹۱۵ء گزشتہ سال کی طرح یورپ کی لڑائی کا دوسرا سال تھا۔ محکوم تو ہیں یورپ کی ہاتھ پائی میں اپنی غلامی کی زنجیریں پختہ ہوتی دیکھ رہی تھیں۔ اسی سن میں شاہ جی شادی کی رسم سے فارغ ہو کر نصاب تعلیم مکمل کرنے پھر امرتسر آن پہنچے۔ یاد رہے اسی زمانے میں شاہ جی نے اپنی روحانی تربیت کے لیے حضرت پیر مر علی شاہ صاحب گورہ شریف کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔

قیاب کے دن اور جوانی کی بہاریں — آدمی کی عمر جب ان دنوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو راستے کی ہر شے دعوت دیتی ہے۔ نیکی اپنی طرف کھینچتی ہے تو برائی اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اس کھینچا تانی میں کبھی برائی کا دامن تار تار ہو جاتا ہے اور کبھی نیکی اپنی کم ہانگی کا ماتم کرتی ہے، لیکن جسم میں اگر روح سید ہو تو برائی کو شکست دینا بڑی بات نہیں ہوتی مگر نیکی کے حصول میں عمر کے اس موڑ سے گزرنا بڑا کڑوا گھونٹ ہے جسے بہت کم حلق قبول کرتے ہیں۔

یہی کشمکش کے دن تھے جب شاہ جی کو اندوہی بندھنوں میں باندھ دیا گیا نیز حالات نے تاکید بھی کر دی کہ ”دامن ترکمن ہشیار باش“۔ لہذا اس سال جب دوبارہ شاہ جی امرتسر آئے

تو پھرے پر بزنرے کا آغاز تھا۔ جسم اگرچہ اکبر تھا مگر مضبوط، رنگ گندمی، کشادہ پیشانی، بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اور پانچ فٹ چھ انچ قد نے اس پر وہ بہار لگا رکھی تھی کہ حسن و شباب کا یہ خوبصورت گلہ منتر جن رہوں سے گزرتا اپنی نمک چھوڑتا چلا جاتا شہر کے لوگ انہیں "حافظ جی" کہہ کر پکارتے۔

حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کے درس میں دوبارہ شامل ہو کر دھورے سبق کی تکمیل شروع کر دی گئی۔ استاد اور شاگرد کے مابین محبت کا ایسا رشتہ قائم ہوا کہ اعتماد نے دونوں کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔ مولانا قاسمی مجبور شاہ جی سے پڑھوایا کرتے تاکہ انہیں تقریر کے ایچ بیچ سے آگاہی ہوتی رہے۔ درحقیقت یہی وہ دن ہیں جب مستقبل کا خطیب اعظم فنِ خطابت کی ابتدائی منزلوں میں داخل ہوا۔

جب کلی پھول بن کر اپنی پتیاں بکھرتی ہے تو باغ کے گل بوٹے ہی اس کی نمک سے معطر نہیں ہوتے بلکہ نسیمِ سحر ہی اپنی جھولیاں بھر کر اڑوس پڑوس میں اپنا رنگ جاتی پھرتی ہے۔ شاہ جی کے قرآن کریم پڑھنے کا انداز جب عام ہوا تو شہر کے گلی عملوں میں ان کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ انہیں شبینوں پر بلانے لگے۔ گھروں سے نکل کر یہ آواز گلی کوچوں اور پھر بازار تک آن پہنچی۔ ع۔ دل سے نکلی درجاناں تک پہنچی۔

ہو وقت آیا کہ مسجد کے ارد گرد کے لوگوں نے مولانا غلام مصطفیٰ کو مجبور کیا کہ شاہ جی کو کھلے میدان میں تقریر کرنے کی اجازت دیں۔ چنانچہ پہلی تقریر امدون گلوالی دروازہ بازار کماراں میں ہوئی۔ دوسری تقریر کے لیے مید گلاب شاہ نامی شخص جو مولانا غلام مصطفیٰ کے معتقد تھے، شاہ جی کو امرتسر کی نواحی بستی سلطان وڈے گئے۔ اس طرح یہ کلی کھلی، پھول بنا اور اس کی نمک نے ساری فضا کو معطر کر دیا۔

**امارت** انگہت باد ہماری نے چمن بردوش ہو کر لالہ و گل سے سرگوشیاں کیں اور چمن چمن سے بوئے لالہ و گل اڑا کر لے گئی۔ ظنم کے آنسو چھینتے رہے۔ نسیم صبح گاہی سر پیٹ کر رہ گئی۔ گل بوٹوں نے لاکھ حصار کیے مگر بوئے گل امیر نہ ہو سکی۔ کوچہ جیل خانہ کے علوم اپنی مسجد

کے لیے سیم اصرار کے ساتھ مولانا غلام مصطفیٰ سے شاہ جی کو مانگ کر لے گئے۔ یہ ۱۹۱۹ء کا واقعہ ہے۔

ہال بازار کے وسط سے شروع ہو کر کوچہ جیل خانہ رام باغ پولیس تھانہ کے سامنے ختم ہوتا تھا۔ دوسری طرف میوہ منڈی کی پشت اس کی ہمسایہ تھی۔ اس طرف رام باغ کا بازار بھی اس کے سامنے تھا۔ اس قدر وسیع آبادی کو مسجد کی تنگ دامن پر ہمیشہ گلہ رہا۔ لیکن شاہ جی کے خطیب منتخب ہونے پر مسجد کی وضعیتیں اور مسدود ہو گئیں۔ یہ زمانہ لاسلی کا نہیں تھا اور نہ آلہ مکبر الصوت کا رواج تھا لیکن شاہ جی کی آواز دل اور کانوں کو مطمئن کرتی رہی۔ نمازیوں نے مکان کی چھتوں تک کو اپنی ضرورت کے لیے اپنا لیا تھا۔

استاد کا اصرار تھا کہ سبق یہاں آکر پڑھا کریں لیکن کوچہ جیل خانہ اور بازار کماراں کے درمیان کا فاصلہ طے کرنے میں خاصی دقت رہتی۔ کچھ دنوں تو یہ سلسلہ رہا۔ آخر استاد محترم کی اجازت سے شاہ جی نے ہال بازار کی مسجد خیر الدین میں مولانا نور احمد اور مفتی محمد حسن سے پڑھنا شروع کر دیا۔ مولانا نور احمد سے قرآن کی تفسیر اور مفتی محمد حسن سے مشکوٰۃ شریف کا سبق لیتے۔

غیر اسلامی رسمیں | انسانی حرکات سے انسانیت کی قدیں جس بری طرح ہلاک ہوئی ہیں دنیا کے موجودہ چین کے پاس اس کا کوئی مداوا نہیں ہے۔ وقت جیسے جیسے

اپنا سفر طے کر رہا ہے ان پگڈنڈیوں پر کانٹے ہی کانٹے بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں زیادہ محرم وہ ہیں جن پر اسلام کا ایبل چھلن ہے۔ مذہب جن قدر خفایا ہے مسلمان کا کردار اتنا ہی گمراہ اور اٹھارہ ہے۔ تاریخ کا سینہ ان زخموں سے اٹا پڑا ہے۔

ہر اوستیم سے ظہور کھلنے کے بعد مسلمان جن غلط راستوں پر گھمزن ہوا ان میں اسلام سے انحراف کی راہ سے زیادہ پسند آئی۔ سماج کے غلط رسم و رواج اس زاہتے کے خوب صورت

چول تھے جن سے مسلمان نے اپنی جھولیاں بھریں لیکن بعد میں انہی پھولوں نے کانٹے بن کر اس کے کردار کو زخمی کر دیا۔ ۱۹۱۹ء سے پیشتر کا اتر سرخلاف اسلام رسوم کی آماجگاہ تھا۔ گھر کے

ہر لٹانچے میں رسم و رواج کے بُت نصیب تھے۔ برادری میں برتری حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں مصروف مسلمان لے اپنا اثاثہ ثقیات داؤ پر لگا دیا تھا۔

کسی کے ہاں کچھ پیدا ہوا تو اس کے نختوں پر گھوڑی اور باجالازی تھا کیونکہ برادری میں "نفلان" لے ایسا کیا تھا۔ گرہ اس کی متحمل ہے یا نہیں لیکن "سنت" کے اس موقع پر خلافت سنت حرکات لازمی تھیں۔

اگر کسی کے ہاں موت واقع ہو جائے تو میت کے آخری مقام پر پہنچنے سے پہلے تم پری کرنے والے عزیزوں کی خاطر داری، برادری کا ضروری قانون تھا اور یہ سلسلہ چار دن تک جاری رہتا۔ جہلا کی ان حالتوں کے باعث ملاؤں کے ہاں چالیس روز تک گھی کے چراغ جلتے۔ عورت بیوہ ہو جائے، بچے یتیم رہ جائیں لیکن رسومات کے آئین میں سقم نہیں آنا چاہیے۔ مرنے والے کے کفن دفن پر خرچ ہو اور رہا سا برادری چٹ کر جائے۔ گویا گھر کا ایک فرد کیا ماسا را گھر مر گیا۔

لحد سے حد تک کے درمیان ایک اور حادثہ گزرتا ہے جسے بیاہ شادی کا نام دیا جاتا ہے۔ بلاشبہ ابن آدم کے لیے یہ منزل ضروری ہے لیکن یہ کہاں ضروری ہے کہ ایسے موقع پر برادری میں ناک رکھنے کے لیے آدمی خاک ہو جائے، اگر امرتسر کے مسلمان نے زانہ سازی کے لیے اس تقریب پر اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے۔ چند سالوں کے بعد قرض لی ہوئی رقم سود در سود میں مسلمانان امرتسر کی بیشتر جائداد غیر مسلموں کے قبضے میں چلی جاتی۔ ان حالات نے مسلمانوں کو ملکیت سے محروم کر کے یا تو ہندو کا کرایہ دار بنا دیا یا پھر انہیں شہر سے باہر کی طرف رخ کرنا پڑتا۔ اس طرح امرتسر پر ہندو کا قبضہ ہونا چلا گیا۔ پہلو میں دل آگاہ رکھنے والے مسلمان کے لیے خون کے آنسو رونے کے سوا اور تھا ہی کیا۔ انہی دنوں شاہ جی نے کوچہ جیل خانہ کی مسجد سے نکل کر محلہ دار تقریروں کا آغاز کیا۔ قلعہ رسوم پر یہ پہلی یلغار تھی جو مسجد کے ایک درویش نے کی جس کے پاس زبان اور قرآن کی قوت کے سوا تیسری طاقت نہیں

تھی کہ وہ مسلمان کو غارت گری کے راستوں پر چلنے سے منع کرتا۔

وہ دن بھر اساتذہ سے بوڑھٹے شام ہوتے ہی کسی نہ کسی حملہ میں وعظ کی صورت میں سنا آتے۔ ان دنوں مولانا ثناء اللہ کا امر تشریحی خاصا اثر تھا۔ لیکن مخصوص عقیدت کی بنا پر وہ بات پیدا نہ ہو سکی جو شاہ جی کے طرز تکلم نے پیدا کر دی۔

علم محض پڑھائی سے ہمیں طلب اور خدمت سے ملتا ہے۔ شاہ جی کا علم اگرچہ ہنوز عام تھا لیکن اساتذہ کی محبت اور کتاب اللہ کی برکت سے وہ جاہلوں میں عالم اور عالموں میں عزت کی نظروں سے دیکھے جانے لگے۔ امر تشریحی کے درو دیوار انہیں سننے اور دیکھنے کو چشم بڑھ رہتے۔ قلعہ رسوں کے خلاف جہاد نے شاہ جی کو وہ احترام دیا کہ جس محلے میں وہ وعظ فرماتے انسانوں کے سمندر اُٹھ آتے۔

اس طرح شہر کے اندر ایک نئی تحریک نے جنم لیا۔ رسم درواج اور علماء سوء کے درمیان راہ و رسم بڑھنے لگے۔ مذہب کے گرد حصار کی نئی استوار ہونے والی دیوار کو گرانے پر شب و روز مشورے ہونے لگے اور شاہ جی کے خلاف ایک ایسے کڑھ کی تنظیم ہوئی جس کے رزق کا انحصار جھوٹ کے پوراغ روشن کرنا اور کذب کو حقیقت ظاہر کرنا تھا۔ یہ تحریک ابھی اپنے پر پرزے نکال رہی تھی کہ یورپ کے سیاسی اُفق پر پہلی جنگ عظیم میں محوریوں کے ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخیوں دکھائی دیں۔

جلیانوالہ باغ کا حادثہ | ۱۹۱۴ء کی رطانی ختم ہوتے ہی اتحادی طاقتیں فتح و نصرت کے علم لیے سمندر کی چھاتی پر رقص و سرود میں کھو گئیں۔ اس محویت میں وہ بے مہول گئیں کہ انہوں نے غلام ہندوستان کے ساتھ کسی رشتہ اتحاد کو گروہ دی تھی، کسی وعدہ کی دغا ان کے ذمے ہے۔

۱۶۔ اگست ۱۹۱۸ء کو برطانوی حکمرانوں نے ایک اعلان کیا کہ ہندوستانیوں کو آئندہ فوجی کیشن میں اعلیٰ عہدے دیے جائیں گے حالانکہ جنگ کے اختتام پر ہندوستان کو



کی باگ ڈور جو پہلے مہاراجہ راج گوکھلے کے ہاتھوں میں تھی مہاتما گاندھی کے سپرد کر دی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مہاتما گاندھی ہندوستانی سیاست میں براہ راست دخل ہونے لگے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رولٹ ایکٹ کے خلاف احتجاجاً ۶۔ اپریل ۱۹۱۹ء کو ہندوستان بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر آریہ سماجی رہنما سٹریٹو و ہانڈ جیسے کٹر ہندو نے دہلی کی جامع مسجد میں ہندو مسلم اتحاد پر تقریر کی اور امرتسر میں ہندو مسلمانوں نے ایک ہی برتن میں پانی پیا۔ یہ رام نوٹی کے تہوار کا دن تھا۔

دو مختلف قوموں کے درمیان انگریز کی نفرت نے ایسا میدان لگایا کہ فرنگی سلاراج کا وقار کھلنے کی طرح ٹوٹ کر رہ گیا۔ ہڑتال جاری تھی مگر انگریز کا تشدد شہر میں اپنا کام کرتا رہا۔ اس ظلم و جور کے خلاف شہریوں کا ایک جلوس ڈپٹی کمشنر امرتسر کی کوشلی پر جاتے ہوئے جب ریلوے کے بڑے پل پر سے گزرا تو انگریز سپاہیوں نے بغیر وارننگ دیے اس ہجوم پر گولی چلا دی جس کے نتیجے میں چھ ہندوستانی شہید ہوئے۔

خدمتِ خلق | شاہ جی ان دنوں حصولِ تعلیم، مسجد کی امامت اور خلافتِ شریعہ و موم کے خلاف جہاد میں مصروف تھے۔ فرنگی تشدد کے شدید لاشیں موقدِ واردات سے اٹھا کر ہال بازار خیر الدین کی مسجد میں لائی گئیں تو شاہ جی نے ان سب کو غسل دیا، کفن پنائے۔ مسلمانوں کا جنازہ پڑھایا اور تمام لاشوں کو خود مسجد سے رخصت کیا۔

یہ پہلا موقع تھا کہ شاہ جی نے غیر ارا دی طوع پر خدمتِ خلق سے مرنے والوں کی تجویز و تکفین کی۔ اتنے سے کام نے شاہ جی کا نام غیر مسلموں کے دلوں میں نقش کر دیا۔ حالانکہ وہ سیاسیات سے قطعاً نا آشنا تھے۔ انہیں صرف یہی دھن تھی کہ لہر کا مسلمان فضول رسم و رواج سے باز رہے لیکن ان کی ہمدردی نے انہیں کافی شہرت دی۔ اپنے اور پرانے انہیں احترام کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔

مارشل لاء | امرتسر کے عوام انگریز سارج کے خلاف اپنا امن کھو چکے تھے۔ دلوں کی سنگتی ہوئی بیٹیوں کے الاؤ اس قدر روشن ہو چکے تھے کہ غلامی کی زنجیریں صاف پھینکتی دکھائی

دے رہی تھیں۔ جنکوں اور دوسری سرکاری عمارت کی بلی ہوئی راکھ سے بناوت کی پوسپل رہی تھی۔  
 ۱۰۔ اپریل کو طلوع ہونے والے آفتاب نے امرتسر کو تاحی باس میں دیکھا۔ ٹی کٹر سینٹ لین کپلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعہ کے بعد غلاموں پر آقاؤں کا تشدد اور نکمرا۔ شہر پر فوج نے قبضہ کر لیا اور مارشل لار کا اعلان کر دیا گیا۔ امرتسر کے شب و روز فوجی آئین کے تحت بسر ہونے لگے۔ شہر میں گورکھا سپاہیوں کا راج تھا۔ ہر موڑ پر ٹھیکگی باندھ دی گئی۔ صرف ہندوستانی ہونے کے جرم میں بید زنی کی سزائیں عام دی جانے لگیں۔ ہر راہگیر کو سپیٹ کے بل چلنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ ان واقعات نے خوف و ہراس کو جنم دیا۔ بازار اور گلیاں ویران صواری طرح نظر آنے لگیں۔ گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں پر جانوروں نے رین بسیرے بنالیے۔ اس مجبور کو کبھی کبھار فوجی سپاہیوں کے بوٹوں کی چاپ توڑ دیتی تھی لیکن دلوں پر مجبور بدستور رہا۔

جلیانوالہ باغ | ۱۳۔ اپریل ۱۹۱۹ء کا دن تاریخ کے دامن پر ایسی گرہ دے چکا ہے کہ یہ گرہ جب بھی کھولی جائے گی، ناکرہ گناہ انسانوں کا خون اپنے قاتل پر

مُسکراتا نظر آئے گا۔

مروم پنجاب میں یکم بیا کہ دیہاتی عوام کی خوشیوں کا دن ہوتا تھا۔ اس تہوار پر گاؤں کے جیلے جوان کندھوں پر لٹھیاں لیے رنگا رنگ لباس پہنے، دیہاتی گیت گانے امرتسر کی سڑکوں پر سے گزرتے تو شہری عوام کو بھی اپنی بولیوں میں شامل کر لیتے۔ ماجھے واجھٹ، پنجاب کے صحت حسن کا ہراول دستہ تھا۔ بیاس اور دریائے ستلج کے پانی نے مل کر اس کی پرورش میں رنگ جھریا تھا۔ ۱۳۔ اپریل ۱۹۱۹ء کو بیسی دن تھا جب دیہاتی عوام اور شہری لوگ اپنے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف احتجاجاً جلیانوالہ باغ میں جمع ہوئے تو جنرل ڈائرنے اپنا ناک ان پر گولی چلا دی۔ اس کے نتیجے میں پانسو سے زائد بے گناہ ہندوستانی شہید ہوئے اور زخمیوں کی تعداد



کسین زیادہ تھی۔

۶۔ اپریل کو جس کمائی کا آغاز ہوا تھا۔ ۱۳۔ اپریل کو جب مکمل ہوئی تو تاریخ اور انسانیت کے سینے پر گرا گھاؤ چھوڑ گئی۔ اب جب کبھی یہ زخم رستے ہیں، تو انسانوں کے دل اور تاریخ کے اوراق فرنگی حکمرانوں کے لیے نفیرین کیے بغیر نہیں رہتے۔

اجلاسِ بھیرایا | چوٹ کھایا ہوا دل جب سنبھال لیتا ہے تو وارفتہ انتقام کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ خرد لاکھ اڑے آئے مگر جنون اپنا کام کر جاتا ہے۔ جلیا نوارہ باغ کا حادثہ اہل دل پر باہوسم کی طرح گزر گیا جس سے وہ سانپ کی طرح بل کھا کر رہ گئے مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ درد گھاؤ بنیا چلا گیا۔

شاہ جی انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ۶۔ اپریل کو جن ہاتھوں نے شہدائے وطن کو کفن پینائے غمے وہی ہاتھ حکمرانوں کے لیے کفن سینے کی تیاری میں لگ گئے۔ شاہ جی ان واقعات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ چنگاری ہوا کی منتظر تھی۔ ع

ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

آغازِ سفر | پہلی جنگِ عظیم میں ہندوستان سے کیے گئے وعدوں سے انحراف کے بعد انگریز حکمرانوں نے ترکوں سے بھی عہد وفا توڑ دیا۔ اس کی صدائے بازگشت جب ہندوستان پہنچی

تو مسلمان خلافت کے مسئلہ کو مذہب کی بنیاد پر سوچنے لگے۔ پٹنہ ۱۹۱۹ء کو دہلی میں مؤتمر اسلامی کے عنوان سے مسلمان رہنما جمع ہوئے۔ ان کے علاوہ ماتما گاندھی اور سوامی شرودھانند کو بھی دعوت دی گئی۔ اس اجلاس میں "ترک سوالات" اور سودیشی مال کے بائیکاٹ کی تحریک کی بنیاد رکھی گئی۔

مولانا سید محمد داؤد غزنوی (رحمۃ اللہ علیہ) پنجاب میں پہلے عالم دین تھے، جنہوں نے تحریکِ خلافت کو ہوادمی اور محلہ دار تقریروں سے علوم پر یہ مسئلہ روشن کیا۔

شاہ جی ان دنوں صرف مذہبی واعظ تھے لیکن کبھی کبھار ان کی ٹی بیٹھ سربراہ مولانا داؤد غزنوی سے ہو جاتی۔ یہاں تک کہ مولانا داؤد غزنوی اگر کہیں تقریر کرتے تو دوسرے دن شاہ جی اسی جگہ جلسہ

کر کے ان کی تردید کر دیتے۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ مولانا داؤد غزنوی نے شاہ جی کو دعوت دی کہ آیا تو مجھے اپنے مکان پر بلائیں یا میرے مکان پر تشریف لائیں۔ میں آپ سے مسئلہ خلافت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آخر مولانا داؤد غزنوی خود شاہ جی کے دولت کدہ پر چل کر گئے اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، ترکوں سے انگریزوں کی حد شکنی اور عالم اسلام پر فرنگی حکمرانوں کی چہرہ دہشتیاں کچھ اس انداز سے بیان کیں کہ آخر شاہ جی مولانا داؤد غزنوی کے ہم آہنگ ہو گئے۔ اس گفتگو کے بعد شاہ جی نے روزانہ اخباروں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ جس سے حالات اور واضح ہو کر سامنے آ گئے۔

پھر کیا تھا، آجینے کو ٹھیس گننے کی دیر تھی، وہ ساری مستی بہرہ نکلی بزمِ عشاق جس کی منظر تھی۔ وہ آتش فشاں پھٹ گیا جس کی راگہ اندہ ہی اندر سنگ رہی تھی۔ وہ لانا بہرہ نکلا جو فرنگی سامراج کو تنکے کی طرح بہا کر۔ گیا۔

پہلی سیاسی تقریر | بعض دفعہ فردا، برائی پوری قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ جہل ڈانڈ کی حرکت نے نہ صرف جلیانوالہ باغ کو ہی بے گناہوں کے خون سے رنگین کیا بلکہ پچھلے اقامت یورپ کے دنوں تک بھی پہنچے جس سے ان کی نگاہیں انسانیت کے دیو شرمندہ رہیں گی۔ اس زخم پر ہم کے لیے یورپین جراثیموں نے نسخہ تجویز کیا کہ تمام ہندوستانی رہنماؤں کو جیلوں سے رہا کر دیا اور ساتھ ہی ہندوستان کو آزادی کی چوتھی قسط دینے کا اعلان کیا۔ ان اصطلاحات کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ صوبوں کی حنا، حکومت ہندوستانی ذریعوں کو سونپ دی جائے گی مگر مایات کا حکمہ انگریز گورنروں کے پاس رہے گا۔

اس برطانوی تجویز پر غور کرنے کے لیے دسمبر ۱۹۱۹ء میں کانگریس کا سالانہ اجلاس امرتسر میں پنڈت موقی لال مندو کی صدارت میں منعقد ہوا۔ علی برادران بھی رہا ہو کر میدھے امرتسر پہنچے۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس بھی اسی موقع پر حکیم محمد اجمل خاں (رحمۃ اللہ علیہ) کی صدارت میں منعقد ہوا۔ خلافت کانفرنس بھی انہی تاریخوں میں امرتسر گول بانغ، میں مولانا شوکت علی کی صدارت

میں منعقد ہوئی جس میں پہلی دفعہ شاہ جی نے سیاسی تقریر کی اور حاضرین کو اس قدر متاثر کیا کہ خلافت کمیٹی کے لیے دس لاکھ روپے کے چنڈے کی اپیل کی۔ مولانا محمد علی جوہر نے پہلی مرتبہ اس اجتماع میں شاہ جی کو سنا اور دیکھا تو قافلے میں نئے ساتھی کی شرکت پر خوش ہوئے اور ساتھی بھی ایسا کہ نہ صرف سالار کارواں رشک کرنے لگے بلکہ غبار کارواں نے بھی قدم لیے اور خوش آمدید کی۔

**ترکِ موالات** | ۱۹۲۰ء کا سال حریت پسند حوام کے لیے جدوجہد کا اہم سال تھا۔ اس سال مئی میں کانگریس نے اپنے بنارس سیشن میں برطانوی سلطنت سے ترکِ موالات کا فیصلہ کیا۔ اسی ہفتے ناگیپور میں مسلم لیگ نے بھی ترکِ موالات کی قرارداد منظور کر کے کانگریس اور خلافت کمیٹی کی تائید کی۔ اس قرارداد کی مزید تشریح جب کلکتہ کانگریس کے سیشن فروری ۱۹۲۱ء کو حیات گاندھی نے کی تو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا شوکت علی کے سوا ساری ورکنگ کمیٹی گاندھی جی کے خلاف ہو گئی۔

کانگریس کے کھلے اجلاس میں مولانا آزاد نے قرارداد کے حق میں تقریر کی تو شاہ جی اس اجلاس میں موجود تھے۔ وہ تقریر سے بے حد متاثر ہوئے اور آخر میں جب انہوں نے قرارداد کے مؤید کے طور پر تقریر کی تو سارا ہال ترکِ موالات کے حق میں ہو گیا۔

یہ پہلا موقع تھا کہ شاہ جی اور گاندھی جی ایک دوسرے سے منہ مٹا ہوئے اس تحریک کے نتیجے میں بچوں نے سکول، لڑکوں نے کالج اور وکلاء نے عدالتوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا۔ ولایتی ہال کے بائیکاٹ کی تحریک زور پکڑ گئی۔

**لاہور خلافت کمیٹی** | سارے ملک میں ان دنوں خلافت کمیٹیاں قائم کی جا رہی تھیں۔ لاہور کے اعتدال پسندوں نے بھی خلافت کمیٹی کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ ڈاکٹر

محمد اقبال جو ان دنوں ”سر“ نہیں تھے، اور میاں محمد شفیع جو لجنہ میں سر شفیع کے نام سے مشہور ہوئے، دونوں بالترتیب صدر اور سیکرٹری منتخب ہوئے۔

اس زمانہ میں جنرل سر نیکل ایڈوائز پنجاب کے گورنر تھے۔ ان کے اشارے پر لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے دونوں کو کچھ کہا سنا تو دوسرے دن یہ خلافت کمیٹی توڑ دی گئی۔ ان دنوں شاہ جی کے جذبات اور انگریز کا تشدد دونوں شباب پر تھے۔ دونوں کے ٹکراؤ نے نوجوانوں کے ہاتھ فرنگی سامراج کے گریبان تک پہنچا دیے۔ حکیم عبدالحید عتیقی (مردوم) اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ:-

”جب پہلی خلافت کمیٹی انگریز حاکموں کے خوف سے دم توڑ چکی تو میں امرتسر میں مولانا تشار اللہ کے ہاں پہنچا۔ عرض حال کیا تو انہوں نے شاہ جی کو میرے ساتھ لاہور جانے کا حکم دیا۔“

لاہور ان سے نا آشنا تھا۔ موچی دروازہ کے شمال کی جانب باغ میں دن کے گیارہ بجے جلسے کا اعلان کیا گیا۔ باغ میں موسم سرما کے باعث اوباش قسم کے لوگ دھوپ تاپ رہے تھے لیکن جلسہ کے شائق بہت کم تھے۔ کوئی ایسٹج کا انتظام نہیں تھا۔ سین چار سو کے قریب حاضری تھی۔ شاہ جی نے ایک گھنٹہ تک صرف قرآن کریم پڑھا اور نظر تک تقریر کی۔ نماز کے بعد دوبارہ جلسہ کا اعلان کیا گیا۔ اب کے حاضری پہلے سے زائد تھی۔ اس جلسے میں فیروز کاڑے والا (یہی شخص بعد میں میاں فیروز دین احمد کے نام سے مشہور ہوا) کہیں سے ایک کرسی اور میز اٹھا لایا۔ یہ اجلاس عصر کی نماز کے لیے ملتوی کیا گیا اور جب دوبارہ جلسہ شروع ہوا تو حاضری پانچ ہزار کے قریب تھی۔ شاہ جی قرآن حکیم کی آیات پڑھتے اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بیان کرتے جاتے اور لوگ تھے کہ اس طرح بیٹھے تھے جیسے کسی نے سحر پونک یا ہوا۔ مولانا سید حبیب (روزنامہ سیاست کے مالک و مدیر) اس اجلاس میں شریک تھے۔ یہ اجلاس مغرب اور حشا کی نماز کے لیے ملتوی ہوا۔

اب مالہ کی خوشبو لاہور کی گلیوں اور بازاروں میں پھیل چکی تھی۔ ایک نے سنا دوسرے کو سنا یا۔ کوئی ڈپٹے والا پیر آیا ہوا ہے۔ (شاہ جی اس زمانہ میں اپنے ہاتھ میں ایک موٹا

ساڈنڈار کھتے تھے اور ایک مدت تک اسی نام سے مشہور رہے،  
 "وہ قرآن پڑھتا ہے تو ایسا معلوم دیتا ہے جیسے ابھی آسمان سے نازل ہو  
 رہا ہے۔ اس کی آواز میں جادو ہے۔ آج اس نے سارے لاہور کو مسحور  
 کر دیا ہے۔"

پھر کیا تھا۔ عشا کی نماز کے بعد جو اجلاس ہوا۔ اس میں بیس ہزار سے زائد لوگوں نے  
 شرکت کی۔ شاہ جی نے صبح تین بجے تک حرام سے خطاب کیا اور آخر میں کہا  
 "کون ہے جو کہتا ہے لاہور میں خلافت کمیٹی نہیں بن سکتی۔ میں کہتا ہوں کس  
 مائی کے ٹال میں ہمت ہے کہ اس کو توڑ کر دکھائے؟"

اسی اجلاس میں سید حبیب کو خلافت کمیٹی لاہور کا صدر اور میاں فیروز دین احمد کو  
 جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ نیز چندے کی اپیل کی تو لوگوں نے دل کھول کر رو پیہ دیا۔ محدثوں  
 نے اپنا زیور تک اتار کر بیچ دیا۔ آخر شاہ جی کو اعلان کرنا پڑا کہ آپ اور رو پیہ نہ دیں۔ کل  
 صبح جب خلافت کمیٹی کا دفتر قائم ہو جائے گا تو آپ اس رو پیہ کی رسید بھی لے لیں اور دوسرا  
 رو پیہ جو دیں اس کی بھی رسید لیں۔

چنانچہ دہلی دروازہ کے باہر میاں سراج دین پر ایچ کے مکان میں خلافت کمیٹی کا دفتر  
 قائم ہوا اور مدت تک یہی دفتر رہا۔

مرزا بشیر الدین محمود چسلی ملکر | ترک موالہت کی تحریک نے سارے ہندوستان کو اپنے  
 گرد جمع کر لیا تھا۔ بچے، جوان، بوڑھے اور مستورات  
 غیر ملکی فلاحی سے نجات کے لیے ایثار و قربانی کے تمام ارادوں سے مسلح ہو کر حالات سے مقابلے  
 کے لیے تیار تھے۔ گرفتار ہونے والے رہنماؤں سے جیل خانوں کی دستیں تنگ ہو چکی  
 تھیں۔ فرنگی سامراج اپنے اقتدار کے ڈھلتے ہوئے سورج کا تماشا کر رہا تھا کہ قلعہ بانی مذہب  
 کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود انگریزوں سے اپنی جنس دفاعی کا بھاؤ بڑھانے اور انگلستان

کی منڈیوں میں اس سودے کو مزید جلا دینے کے لیے ہندوستان کے اتحاد میں زہر گھونٹنے کو آموجود ہوا۔

اگر یہ سماجی یٹروں کے خلاف اسلام کی آڑ میں جھگڑا مول لیا اور ساتھ ہی مسلمانوں سے اعتقادی لڑائی بھی چھیڑ دی۔ قادیانیوں نے یہ حرکت ایسے موڑ پر کی جب حکمرانوں کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ قریب تھا کہ یہ آگ پھیل کر اتحاد آزادی وطن کو راکھ کر ڈالے کہ شاہ جی کے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس آگ میں جھونک دیا۔

۱۹۲۵ء کے وسط کی بات ہے کہ بندے مازم ہال امرتسر میں دن کے گیارہ بجے مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے جلسے کا اعلان کیا اور شہر کے مسلمانوں کو شمولیت کی دعوت دی۔ حوام کے ساتھ شاہ جی بھی اس اجتماع میں شامل ہوئے۔ جلسے کے گرد مرزائیوں نے انتظام کا پورا جال پھیلا رکھا تھا۔ سی۔ آئی، ڈی اختتامی امور سے لیس تھی۔

مرزا بشیر الدین محمود نے تقریر کے دوران کسی حدیث کے الفاظ غلط پڑھ دیے اس پر شاہ جی نے مجمع سے اٹھ کر بشیر الدین محمود کو حدیث کے غلط الفاظ پڑھنے پر ٹوکا لیکن مرزائی لیڈر اپنی ضد پر اڑا رہا اور شاہ جی اپنے موقف پر قائم رہے۔ یہ جھگڑا آرائی تقریباً بیس منٹ تک جاری رہی تو مرزائیوں نے پولیس کو طلب کر لیا۔ اس پر شاہ جی نے عوام سے کہا کہ جس قدر مسلمان جلسے میں ہیں وہ ہال سے باہر آ جائیں۔ چنانچہ مرزائیوں کے سوا مسلمان شاہ جی کے حکم کی تعمیل میں ہال سے باہر نکل آئے۔ باہر شاہ جی نے مرزائیوں کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ اس پر بشیر الدین محمود کو اپنی پارٹی سمیت ہال کے عقبی دروازہ سے پولیس کی حفاظت میں نکلنا پڑا لیکن شاہ جی بدستور تقریر کرتے رہے۔

اس ایک ہلکی سی چلپوش کا اثر یہ ہوا کہ مرزائیوں کے منسوبے ختم ہو گئے اور ان کے حوصلے اس قدر پست ہوئے کہ تحریک ترک موالات کے دوران مرزائیوں کا نام بھی سننے میں نہ آیا۔ اور نہ ہی ملک کے سیاسی حالات اس قسم کی تحریکات کی اجازت دیتے تھے۔

خلافت اور ترک موالات کی مشرک ایچی ٹیشن نے سارے ہندوستان کو سیدہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک کر دیا تھا۔ غیر ملکی قانون اپنی ساری قوت کے باوجود کمزور اور بے کار سمجھا جانے لگا۔ اسی زمانہ میں ۲۲- مئی ۱۹۲۰ء کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ، حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ، مولانا عزیز گلؒ مالٹا سے رہا ہو کر ہندوستان پہنچ گئے۔ ان کی رہائی سے تحریک آزادی وطن کو مزید تقویت ملی۔ خلافت کمیٹی کی شاعیں ہر شہر اور قصبہ میں قائم ہونے لگیں۔

## آزاد ہائی سکول گجرات

ایسران مالٹا وطن واپس پہنچ کر اپنے مقاصد میں مصروف ہو گئے۔ حضرت مدنیؒ تحریک خلافت میں شامل ہو گئے اور حضرت شیخ الہندؒ کو جمعیتہ العلمائے ہند نے اپنا صدر منتخب کر لیا۔ انہی دنوں مولانا محمد علی جوہرؒ نے دہلی میں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی جس کے تحت ملک کے اکثر شہروں میں تعلیمی درسگاہیں قائم ہوئیں۔ جس میں وہ بچے داخل ہوئے جنہوں نے تحریک ترک موالات کے سلسلے میں سرکاری سکول چھوڑ دیے۔ شاہ جی نے گجرات میں آزاد ہائی سکول کی بنیاد رکھی، جس کا افتتاح مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا۔ چوہدری فیض محمد ایم۔ اے ہیڈ ماسٹر اور ملک نصر اللہ خاں عزیز سیکنڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔

آزاد ہائی سکول، تمام تر زبرداری شاہ جی پر تھی۔ وہ ضلع گجرات میں خلافت کمیٹیاں قائم کرتے اور آزاد ہائی سکول کے لیے روپیہ فراہم کرنے تھے۔ شاہ جی کو ضلع بھر میں اس قدر مقبولیت ہوئی کہ ۱۲۰۰ خلافت کمیٹیاں اسی ایک ضلع میں قائم ہوئیں۔ عورتوں نے اپنے زیور اور مردوں نے اثاثہ حیات تک ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔

شب و روز کی محنت اور شاہ جی کی تقریروں نے ضلع بھر کے مرد و زن کو ستاروں کی طرح ان کے گرد جمع کر دیا۔ ضلع گجرات کا ڈپٹی کمشنر کنور ولیپ سنگھ جس نے عیسائیت چھوڑ کر سکھ مذہب اختیار کر لیا تھا، لباس تبدیل کر کے شاہ جی کی ہر تقریر میں شامل ہوتا۔ انہوں نے حکومت نے مجبور کیا کہ وہ شاہ جی کو گرفتار کر لے لیکن اس نے ہمیشہ

پہلو تھی کی۔ اس کی رائے تھی کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے ضلع گجرات کے عوام پر جادو کر رکھا ہے۔ وہ ان کے دل و دماغ پر قابض ہے۔ اگر اسے ان دنوں گرفتار کیا گیا تو ضلع بھر میں حکومت کے خلاف بغاوت پھیل جانے کا ڈر ہے۔

ضلع گجرات باقی ہندوستان کی طرح بغاوت کی سنگتی ہوئی آگ کو بھادے رہا تھا۔ آزاد ہائی سکول کے طلباء کے دنوں میں انگریز حکمرانوں کے خلاف نفرت کی تحم ویزی اندر ہی اندر اپنا کام کر رہی تھی۔ اس دوران میں شاہ جی کبھی کبھار پنجاب کے دوسرے اضلاع میں جاتے رہے لیکن گجرات ان کی سرگرمیوں کا محور تھا جس کے باعث ہزاروں طلباء نے تعلیم حاصل کی اور گجرات کے عوام آزادی وطن کے لیے کفن بردوش ہو کر میدان کارزار میں نکل کھڑے ہوئے۔

تحریر پیکٹ ہجرت | دن گزرتے گئے۔ تحریک خلافت اور ترک موالات کے مزید گھوڑے برطانوی سامراج کا نظم و نسق روندنے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ لیکن انگریزی واک کے

تشدد نے وقت اور حالات میں ایسا ڈر گھولا کہ ۱۹۶۵ء میں شاہ محمد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کہ ”انگریزی حکام اگر ان (مسلمانوں) کے کسی معاہدے کو توڑ ڈالیں یعنی نماز، جہاد یا جائز شرعی رسومات یا مسجد کی تعمیر یا ادارہ حج یا اسلامی قانون میں دخل انداز ہوں تو پھر ان سے جہاد فرض ہو جائے گا لیکن اگر جہاد ناقابل عمل ہو، تو پھر ہر دین دار مسلمان پر ہجرت لازم آتی ہے“

علائے ہند کی آنکھوں میں تیرنے لگا۔ چنانچہ مولانا عبدالباری ذفرنگی محل لکھنؤ، ستمبر ۱۹۶۲ء

کو فتویٰ دیا کہ

”ذفرنگی حکومت سفاہنی مسلمان رہایا سے جو دھڑلے کیے تھے وہ ان سے مخوف ہو چکی ہے۔ نیز ہندوستان کی منتی رہایا پر ان کا تشدد بڑھ کر مذہب میں بیجا مداخلت کرنے لگا ہے۔ بدیں حالات ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے کسی ایسے ملک چلے جائیں جہاں کی



قدیں اسلام سے ملحق ہوں“

اس فتویٰ کا شائع ہونا تھا کہ واسطے افغانستان قازمی امان اللہ خاں نے اپنی ایک تقریر

میں کہا کہ افغانستان ہندوستانی مابجوں کو اپنے ہاں پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔

خلافت اور ترک موالات ایسی تحریکات کی موجودگی میں ہجرت کی تحریک کے علمبرداروں سے

رہنماؤں کو پریشان کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر مختار احمد انصاری ان دنوں لندن میں ہندوستانی وفد

کی قیادت کر رہے تھے۔ مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، ڈاکٹر سیف الدین

کپلو اور خود مہاتما گاندھی تحریک ہجرت کو آزادی وطن کے لیے مضر خیال کر رہے تھے۔ ان کی رائے

سچی کہ آزادی کی لڑائی ملک کے اندر بیٹھ کر لڑی جانی چاہیے، وطن کو چھوڑ کر چلے جانا مفید نہیں۔

دوسری طرف حملائے فرنگی محل اور شاہ جی تحریک ہجرت کو کامیاب بنانے میں سرگرم عمل تھے۔

پنجاب میں مولانا محمد بخش خلیب جامع مسجد راولپنڈی، مولانا احمد علی لاہوری، عزیز ہندی، خاں

جہد انصاریاں، علامہ حسین میر کاٹھیری، اقبال شیدائی اور دوسرے رہنما عوام کو ہجرت کی دعوت

دے رہے تھے۔

انہی دنوں ترک، بومنی اور روس کے فوجی برٹیل، خازمی امان اللہ سے افغانستان میں گھنٹگو

کر رہے تھے کہ اگر ہندوستان میں برطانیہ کے خلاف وہاں کے عوام بغاوت کر دیں تو ان کی فوجی امداد

کی جائے تاکہ ہندوستان انگریزی تسلط سے آزاد ہو جائے۔

اس مشورے کے پس منظر میں مولانا جمید اللہ سعدی کا ہاتھ تھا جو پہلی جنگ عظیم کے شروع

میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے حکم پر افغانستان چلے گئے تھے۔

اس تحریک کی موجودگی میں برطانوی حکومت نے ہجرت کی تحریک کو مخالفت اور ترک موالات

سے زیادہ خطرناک سمجھا اور اس کی روک تھام میں جیلے، بے لے نرائے۔ چٹاچہ کمی قسم کے لوگ

اس تحریک کے راستے کے روڑے بنے۔ ان میں لاہور کے مولوی عبدالحق اور عبدالرحمن نامی شامل

تھے۔ جنہوں نے غیر ملکی حکومت کی جاسوسی کی اور ہجرت کے رہنماؤں پر بد اعتمادی کا اظہار کیا۔

بعد میں یہ دونوں خود فرنگی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے۔

تحریک ہجرت حوفاک قسم کے دو گروہوں کے درمیان چلنے لگی۔ اول وہ جو دیانت داری سے اس تحریک کو آزادی وطن کے لیے غیر مفید سمجھتا تھا۔ دوسرا وہ جنہیں حکومت وقت کی خرید کردہ جنس کہا جاسکتا ہے۔ اس گروہ کے پاس دلائل اول الذکر گروہ سے مستحار لیے ہوئے تھے یا پھر جن کی پشت پر رائج الوقت سکے کی جھنکار تھی۔

ایسے میں علمائے فرنگی عمل کا فتویٰ اور شاہ جی کی آواز کو اپنوں اور پرائیوں کے درمیان سے گزر کر حوام تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا۔ تاہم مئی جون کے مہینوں میں ہجرت کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ لوگ گھر اور سامان چھوڑ کر اللہ کے راستے پر وطن عزیز کے لیے افغانستان پہنچنے لگے۔ مولانا احمد علی لاهوری (رحمۃ اللہ علیہ) عزیز ہندی، خاں عبدالغفار خاں اور ان کے ساتھ ہزاروں مسلمان کابل پہنچ چکے تھے کہ ۱۱ جولائی ۱۹۲۰ء کو کراچی خلافت کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں مولانا حسین احمد مدنی نے مندرجہ ذیل قرارداد پیش کی۔

”حکومت برطانیہ کی فوج میں ملازمت کرنا کسی کو بھرتی کرانا، کسی کو بھرتی

ہونے کی تلقین کرنا اور ہر قسم کی دوسری اعانت کرنا شرعاً حرام ہے۔ ہر مسلمان کا

فرض ہے کہ یہ بات ہر مسلمان فوجی تک پہنچا دے۔“

یہ قرارداد منظور ہوتے ہی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ شعلہ فشاں ہوئی۔

رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ کراچی کا مشہور مقدمہ چلا جس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا

شوکت علی، مولانا حسین احمد مدنی، ڈاکٹر سیف الدین کپلو شامل تھے۔ اس مقدمہ میں رہنماؤں کو

دو دو ایتن تین برس قید کی سزائیں ہوئیں۔

اس وقت چالیس ہزار کے قریب مسلمان افغانستان جا چکے تھے۔ اور دوسری طرف

ہندوستان کے جیل خانے حوام اور لیڈروں سے بھر چکے تھے۔ ملک کے اندر افراتفری کا عالم

تھا۔ انگریزی قانون اپنی حافیت کے لیے ہر طرح لیس ہو کر غلاموں کے مقابلے پر صرف آ رہا ہو چکا تھا۔

وہ ہے کی زنجیریں، بندوقوں کی سنگینیں، جیل خانوں کی کوٹھڑیاں، عدالتوں کے کٹھے اور پھانسی کے رے سب کے سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ غلام اور آقاؤں کے درمیان جنگ کے بادل اس تیزی کے ساتھ برسے کہ سارا ملک ہوسے داغدار ہو گیا۔ آسمان اور زمین کے درمیان خون بے گناہ کی لیکر کھنچ گئی جس کے دونوں جانب قانونِ زندگی کے ٹھنڈے پتے نظر آنے لگے۔ مدعا اور رعایا کے مابین اعتماد کی ساری گرہیں ٹھیسلی پڑ گئیں۔ قریب تھا کہ غلاموں کے ہاتھ آقاؤں کے گریبان توج ڈالتے اور تارگریبان کی دھجیاں اڑا کر ایوانِ فرنگی پر برق بن کر گرتیں کہ فرنگی دانشوروں نے نئی سنج پد سوچنا شروع کیا اور تحریکِ ہجرت کی موت کے اسباب پر فکر و نظر کی طرح ڈالی۔

جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا افغانستان ان دنوں ایک ایسی بساط تھی جس پر مختلف حکومتوں کے مرے کام کر رہے تھے۔ ہر کھلاڑی اپنے داؤ پر تھا۔ ترکیہ، جرمنی اور روس، برطانیہ کے خلاف ایک محاذ پر جمع تھے۔ گو برطانیہ کے ہاتھ اپنی رعایا پر اٹھ رہے تھے لیکن اس کی نگاہیں اور کان افغانستان کے پہاڑوں پر مرکوز تھے جس کے دامن میں اس کی موت کے مشورے ہو رہے تھے۔

غازی امان اللہ نے ہندوستانی مہاجروں کو جس جذبے کے تحت دعوت دی تھی ہاشمہ وہ جذبہ ایک محبتِ ملت مسلمان بادشاہ کا جذبہ تھا، جس میں خلوص کی سیکڑوں بہاریں جلوہ فرما تھیں لیکن افغانستان کے اقتصادی اور سیاسی حالات چالیس ہزار مہاجروں کے بوجھ کے متحمل نہیں تھے۔ انگلستان ان واقعات و حالات سے نا آشنا نہیں تھا۔ افغانستان کی اس کمزور اور ریتیلی دیوار کا سہارا لے کر اس نے کابل کو ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ غازی امان اللہ اپنے عزم کی بیڑھیوں سے پھسٹا دکھائی دیا۔

”اگر وایے افغانستان چاہے تو اس کا تمام ملک پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے گا بشرطیکہ انگریزوں کے خلاف افغانستان سے غیر ملکی اڈے ختم کر دیے

جائیں اور ہندوستانی مہاجروں کو واپس کر دیا جائے۔“

افغانستان نے بغیر کسی تردد کے ۲۰ جون ۱۹۲۰ء کو انگریزوں کی یہ دونوں شرطیں منظور کر لیں۔ اگرچہ اس مسودے کی تصدیق انگلستان نے ۲۲ نومبر ۱۹۲۲ء کو دی لیکن حالات کی آنکھیں جون ۱۹۲۰ء سے سرخ ہونی شروع ہو چکی تھیں۔ جن مہاجروں کی آمد پر افغانستان فرسٹ تھا آج ان مہاجروں کے لیے کابل کے بام ودر، کوچہ و بازار اپنا دامن سیکڑ رہے تھے۔ کل جن پہاڑوں نے پھول برسائے تھے آج انہیں پتھر اڑ کر نا مشکل نہیں ہو رہا تھا۔ افغانستان کے دل ذنگاہ میں کل کے مہمان آج کے مجرم تھے۔

افغانستان کے حکمران اور عوام کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر جرمنی، روس اور ترکیہ کے کے نمائندوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے منصوبوں کو روندتے ہوئے اپنی چھوڑی ہوئی راہوں پر پلٹ گئے۔ مولانا جمیل الدین سندھی خود غازی امام اللہ کے تعاون سے روس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔

ان حالات میں تحریک ہجرت کے رہنماؤں کو اپنے ماضی پر غور کرنا اور قدم روکنے پر راستے کی تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، حالات شرمندہ کر رہے تھے۔

اس مسافر کی مجرمانہ دل کا اندازہ کون کر سکتا ہے، جسے منزل پر پہنچ کر بھی منزل ٹلے۔ وہ نگاہیں کتنی بد نصیب ہیں جنہیں آستانہ تیار پر جا کر بھی دیدار کی سعادت سے محروم رہنا پڑے۔ شاہ جی اور دوسرے زعمائے ملت جنہیں تحریک ہجرت کا خضر راہ کہا جاسکتا تھا، تحریک کی ناکامی اور چالیس ہزار مہاجر مسلمانوں کی کابل سے نامراد واپسی پر سکون دل کھو بیٹھے۔ دوستوں کے گلے اور دشمنوں کے ٹھیسے نے شاہ جی کو دل برداشتہ کر دیا۔ اور وہ اپنی تمام سرگرمیاں چھوڑ کر پھر آزاد ہائی سکول کی دیکھ بھال کے لیے گجرات واپس چلے گئے۔

پہلی گرفتاری اور سزا | تحریک ہجرت کی ناکامی کے بعد خلافت اور ترک موالات کی ہنگامہ آرائیوں میں پھر سے توانائی پیدا ہونے لگی۔ ادھر انگریز

افغانستان کے خوف سے بلے نیاز ہو چکا تھا۔ چنانچہ ۵ نومبر ۱۹۲۰ء کو دہلی میں مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں بدیشی مال کا بائیکاٹ اور فوجی بھرتی کے خلاف عام بڑائی کا اعلان کر دیا گیا۔ ہندوستان کی ان دونوں تحریکوں میں انگریزوں کو اپنی موت دکھائی دینے لگی۔ ہر شہر میں روزانہ ریغمی کپڑے بازاروں میں نذر آتش ہونے لگے۔ ہندو، مسلمان عورتیں اپنا قیمتی لباس غرضی سے جھالنے کے لیے رضا کاروں کے سپرد کر دیتیں۔ مرد گرم کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا دیتے۔

اس تحریک نے انگلستان کی ملوں اور کارخانوں کو متاثر کر دیا۔ یورپین مال سمیشیائی منڈیاں خالی ہو گئیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں رضا کار گرفتار ہوئے لگے۔

سال ۱۹۲۰ء کی عمر اسی ہمارے تمام ہو گئی۔ اس سال کے غروب ہونے والے آفتاب کی کرنیں شفقت کی سرخیوں پر ایک ایسا عنوان چھوڑ گئیں جس سے ظلم و جور کی سینکڑوں کمائیاں مرتب ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی اس سال کی کمائی ہے کہ افسانہ ہنسے جرم و منرا کے رنگ و روغن کو کائنات کے دامن میں محفوظ کر لیا۔ تاریخ کے اوراق پریشان ہو کر بھی اس سال کے واقعات کو ضائع نہیں کر سکتے۔

۱۹۲۱ء کے شروع میں آزاد ہائی سکول میں پھر سے ہمارا گنتی۔ شاہ جی نے دوسری جدوجہد سمیٹ کر سکول کی طرف توجہ دی۔ دلوں کے درد اذوں پر از سر نو دستک سن کر حوام باہر نکلے۔ حالات پروردگار ہنس کا عالم تھا۔ حکومت نے شاہ جی کی سیاسی سرگرمیوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ سکول کی نگرانی بھی شروع کر دی تھی۔ بظاہر سکول کی عمارت تعلیم تک محدود تھی لیکن حکومت کو ہر طالب علم کا بستر خلافت کیٹیجی کا دفتر معلوم ہوتا تھا۔

شاہ جی کی شخصیت اب امر تسرا اور بگرات سے نکل کر راوی اور پنجاب کی لہروں پر تیرنے لگی۔ بیاس اور ستلج کی موجوں نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھالیا۔ پنجاب کی آب و ہوائ نے شاہ جی کے مزاج میں نکھار پیدا کیا۔ پھول کی خوشبو نے چمن سے نکل کر گیسو سے یار کو ہمارا فرین کر دیا۔ دہلی سے اٹک کے کنارے تک شاہ جی کے پرچے ہولے لگے۔ دل و نظر نے احترام نے

دوستوں کے حلقے کو وسعت دی۔ انہی دنوں شاہ جی کا سیاسی مزاج بھی پختہ ہوا اور ان کی تقریروں میں مذہب کے ساتھ برطانوی سامراج پر کھلی تنقید ہونے لگی۔ غلامی کا احساس جو ان ہو کر حاکموں سے متصادم ہوا۔

خلافت اور ترک موالات کی تحریکات کے باعث انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں نفرت پھیل چکی تھی۔ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کو شرعاً حرام قرار دیا جا چکا تھا۔ گجرات چوکنو فوج فرنگی کا مرکز تھا اس کی حفاظت سلطنت برطانیہ کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ لہذا شاہ جی کو باغی قرار دے کر ان کی سرکاری طور پر نگرانی میں سیل و سمار کی تیز اٹھادی گئی۔ انگریزی قانون فساد کی طرح ان کے نقش پائی تلاش میں مصروف ہو گیا۔

پنجاب خلافت کانفرنس منعقدہ ۱۸- مارچ ۱۹۲۱ء راولپنڈی میں شاہ جی نے تقریر کی جو ۲۰- مارچ کے زمینداروں میں شائع ہوئی۔ یہ شاہ جی کی پہلی تقریر تھی جو اخبارات میں شائع ہوئی۔

”برادرانِ ملت! میں آج تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ آپ کی طرح سننے والوں میں سے تھا۔ سخت ہی تھیر اور تعجب کا مقام ہے کہ کوہاٹ کے جج پوٹس تو اس جلسہ میں شریک ہوں اور باشندگان راولپنڈی جلسے میں دکھائی نہ دیں۔ کیا ان میں نور ایمان زیادہ ہے؟ کیا وہی قرآن کریم پر عمل پیرا ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ عدالتوں میں تو آٹو بول رہے ہیں۔ وکالت پیٹھ احباب اپنی وکالت کیوں ترک کر لے گئے۔ دراصل وہاں کے باشندوں نے عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وکالت پیٹھ احباب کو اپنی وکالت ترک کرنی پڑی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ بدستی چھوڑو۔ جن کے صدقے میں تمہیں آرام تھا وہ بے آرام ہیں۔ جن کی وجہ سے تم عیش و عشرت کرتے تھے وہ آج کل نہایت کس پرسی کی حالت میں ہیں لیکن تم ہو کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تم ہی کوئی تجویز بناؤ کہ ہم بھی تمہارے مخالف ہو جائیں۔“

ترکوں نے خلافت اسلامیہ کے لیے اپنا تن من و عن سب کچھ قربان کر دیا لیکن تم  
 ہندوستانیوں پر قرآن اور کعبہ لعنت بھیجتا ہوگا۔ فرشتے ترکوں کو ذبح کرنے کیلئے  
 آسمانوں سے نہیں اترے۔ حریم شریفین کے ان محافظوں کو اگر قتل کیا تو تم نے  
 ہندوستان میں سب سے بڑا مرکز اولپنڈی کا ضلع ہے، جس نے انگریزی فوج  
 میں بھرتی دی۔ جنگی قرضے میں تم نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ ارے تم میں تو اتنی  
 غیرت بھی نہیں۔ اگر تمہاری لڑکیوں کو یورپین ماگیں تو تم ان کو بھی دینے پر آمادہ  
 تھے۔ اب بھی تم مصطفیٰ کمال کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو۔ سفید خداؤں سے  
 ڈرتے ہو۔ جس کعبہ کی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اسی پر ہاتھ صاف کرتے  
 ہو۔ ارے تم میں تو ضمیر بھی غیرت نہیں۔ تم تماشا دیکھتے ہو گے کہ ابوالکلام آزاد  
 محمد علی، شوکت علی جیل چلے جائیں تو کام بند ہو جائے گا۔ ارے آزادی کس چیز  
 کا نام ہے، قید کس چیز کا نام ہے۔ قید اور آزادی میں کیا فرق ہے، اگر ہمارا گھر  
 آزاد ہے تو ہم آزاد ہیں۔ اگر وہ آزاد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا ترک مسٹ جائیں گے  
 تو مکہ اور مدینہ کو بچا لو گے، کیا کالافلان جس میں اس وقت سوراخ ہے اسے  
 بچا لو گے؟۔ ارے دیکھو! ترکوں کا جو کچھ پیدا ہوتا تھا وہ حریم شریفین پر بھینٹ  
 پڑھا دیا کرتے تھے۔

میں تم سے ڈنکے کی پوٹ اکتا ہوں ہم انشاء اللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔  
 (اس پر اللہ اکبر کے لورے بلند ہوئے)

تمہارے لیے بسکہ اپنی جائیں دے رہے ہیں۔ غیر، نوحہ خوانی کر رہے ہیں  
 لیکن تم ہو کہ شادمانی کر رہے ہو تم کہتے ہو محمد علی نہیں آئے، شوکت علی نہیں آئے  
 صدر صاحب نہیں آئے۔ ارے سلو اور خور سے سنو! کہ اللہ ہمارا صدر ہے اور  
 قرآن کریم ہمارا دستور العمل ہے۔ تمہارا قافلہ بہت دور جا چکا ہے اور تم پھر اس

قافلے کو واپس لارہے ہو جہاں سے چلا ہے۔ تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ تم پر  
 عذاب نازل کرے گا۔ تمہارا دل پتھر کا ٹکڑا ہے گوشت کا ٹھکانہ نہیں۔ اگر تم  
 ان باتوں سے معرت ہو تو نیا خدا بنا لو۔ نیا قرآن لے آؤ۔ تم اللہ اکبر کے نعرے لگا  
 ہو تو میرے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ تمہارے نعرے بے مدح ہیں۔

مولوی ظفر علی خاں، مولانا فاطمہ، مولوی لقمان اللہ کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم  
 نے ان سے کون سی ہمدردی کی؟ تمہارے مولوی تو سی، آئی، بلی کے اندر موجود  
 ہیں۔ تم نے ہی ان تک اطلاع میں سمجھائیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں دیکھ لیتا کہ گلستان  
 یا انٹرنیٹ کے لوگ اس قسم کی اطلاحوں کو پہنچانے میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔  
 تم نے مولانا محمود الحسن کے کہنے پر عمل کیا؟ اس بزرگ کے اقوال کا اتباع  
 کہاں تک کیا؟ ارے مسلمانو! تمہاری اس حالت پر مجھے افسوس آتا ہے اور  
 حسرت بھی۔ مجھے سیال خیریت کے پیر ضیاء الدین سے پچھلے دنوں ملنے کا اتفاق  
 ہوا۔ اس نیک بخت بزرگ نے اپنے مریدوں کے نام پر حکم صادر فرمایا ہے کہ جو  
 شخص میری حلقہ مریدی میں رہنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ افواج  
 یا گورنمنٹ انٹلجینس کی نوکری ترک کر دے، اور نہ وہ میرا مرید نہ ہوگا۔

اخبارات کے ذریعے عام میں ابھی اس تقریر کے چرچے ہو ہی رہے تھے کہ ۱۵ مارچ کو  
 نازجہ کے بعد امرتسر خلافت کمیٹی کے جلسہ عام میں جو خیر الدین کی مسجد میں ہوا۔ شاہ جی کی دوسری  
 تقریر کی۔ اس تقریر کے بعد حکومت نے شاہ جی کو مزید تحصیل دینا نامناسب سمجھا اور ۲۷ مارچ  
 ۱۹۷۱ء کو رات دو اور تین بجے کے درمیان کو چرموہر کنڈاں کرموں ڈیوٹی امرتسر سے دفتر ۱۲۲ الف  
 کے تحت گرفتار کر لیا۔

شاہ جی ان دنوں گجرات سے اپنی ہمیشہ کی شادی کے سلسلے میں امرتسر آئے ہوئے تھے۔

لے۔ شاہ جی کی یہ ہمیشہ باپ کی طرف سے تھی اور وہ کی طرف سے تھی لیکن شاہ جی ان سے بہت حقیقی بہنوں کا پیار کرتے



اہل تسر میں ہڑتال | طلوع آفتاب سے پیشتر سارے شہر میں شاہ جی کی گرفتاری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دکابیں کھنسنے سے پہلے بند ہونے لگیں۔ بگلی کوچوں نے

تہی لباس پہن لیا گھروں میں جلتے ہوئے چولہوں کی آگ سرد کر دی گئی۔ یہاں تک کہ سارا شہر اٹک کر کوتوالی آن پہنچا۔ حکومت برطانیہ مردہ بادا سید عطا اللہ شاہ بخاری زندہ بادا کے مہم نغروں نے پولیس افسروں کو مجبور کر دیا کہ وہ عوام کی مرضی دریافت کریں۔ ہم شاہ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ہمارے سلسلے لاؤ!

ہجوم کاریہ مطالبہ افسران بالا تک پہنچا۔ انڑٹے پایا کہ ہجوم اپنے چند آدمی منتخب کرے۔ چنانچہ ۵ ہندو ۵ مسلمان کوتوالی کے اندر سوالات میں شاہ جی سے ملنے گئے۔ واپسی پر ان کا بیان ہے کہ "یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شیر کچھار میں ٹھل رہا ہے۔ انہیں اپنی گرفتاری کا ذہ برابر خوف نہیں۔ چہرہ اسی طرح سرخ اور آنکھیں اسی طرح مسکرا رہی ہیں۔ زبان پر قرآن کریم کی آیات جاری ہیں۔"

ہم نے ضمانت کے لیے عرض کیا تو ناراض ہو کر فرمانے لگے: "آپ نے مجھے بزدل یا وطن کا خدا سمجھا ہے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا اگر آپ نے ایسا کیا تو میں کوتوالی سے بھر آتے ہی دیہی کچھ کر دوں گا جس کی چوہ سبکیں یہاں لایا گیا ہوں۔"

پھر شاہ جی کے والد ملنے آئے تو دیکھا سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سوالات کے اس پاس پولیس افسروں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ والد صاحب کو دیکھ کر شاہ جی نے "السلام علیکم کہا۔ والد صاحب نے جواب میں "ولیکم السلام" کے بعد کہا،

"میں اس دن کا منتظر تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے۔ آمین!"

پھر شاہ جی نے کہا،

"ابھی! میں آپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہوں اور بس!"

گرفتاری کی خبر جب دوسرے شہروں میں پہنچی تو ہر جگہ برطانوی حکومت کے خلاف جلتے

ہوئے۔ شاہ جی کو حق گوئی کی پاداش میں گرفتاری پر مبارک باد کی قرار دادیں منظور کی گئیں۔

تحریکات آزادی وطن کے جلتے ہوئے لاڈ میں شاہ جی کی گرفتاری نے ایسا تیل چھڑکا کہ اس آگ کے شعلے ایوانِ فرنگی تک جا پہنچے جس سے غلامی کی زنجیریں گھٹنے لگیں۔ ان دنوں شاہ جی کی عمر تیس سال کے قریب تھی۔

مقدمہ کی سماعت | ۲۔ اپریل ۱۹۷۱ء پہلی دفعہ شاہ جی کو مسٹر ایف اے کانر (F.A. CANER) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کچری میں

حرام کی اس قدر میٹھی کہ باقی عدالتوں کو اپنا کام جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ دس بجے سے ذرا بعد شاہ جی کو پولیس کی لاری میں کچری لایا گیا۔ شاہ جی کو دیکھتے ہی حرام نے برطانوی راج مردہ باد کے نعرے لگائے۔ انتظام کے بے گورکھا فوج کا دستہ پہلے سے متعین تھا لیکن ان دنوں حرام کے جذبات فوج اور پولیس کے رعب سے بے نیاز تھے۔ عدالت کا کمرہ دکھلا اور دوسرے معززین سے بھرا پڑا تھا۔

مجسٹریٹ۔ (شاہ جی سے مخاطب ہو کر) آپ نے ۲۵۔ مارچ کو خیر الدین کی مسجد میں تقریر کی تھی؟ شاہ جی۔ میں نے وہاں بھی قرآن کریم پڑھا تھا اور یہاں بھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا ہے۔ مجسٹریٹ۔ آپ لکھ کر دے دیں۔

شاہ جی۔ جس نے وہاں میرا قرآن نوٹ کیا ہے وہی لکھے۔ اگر یہاں درست نہیں نوٹ کر سکتے تو وہاں کس نے درست نوٹ کیا ہوگا۔ میں لکھنا نہیں جانتا پڑھنا جانتا ہوں۔

مجسٹریٹ۔ آپ کا بیان؟

شاہ جی۔ میرا بیان وہی ہے۔

سرکاری دکیل نے استغاثہ پڑھ کر سنایا۔

”مولوی عطاء اللہ صاحب ایک ذمی عزت آدمی ہیں۔ آپ کے والد بھی ذمی عزت آدمی ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ جو لفظ میرے منہ سے نکلتے ہیں۔ ان کا اثر ہوگا۔ ان کو

علم تھا کہ ایسی تقریروں کا کیا اثر ہوتا ہے۔

پہلے بھی ان کو دستخط مجسٹریٹ نے ایسی تقریروں سے منع کیا تھا یہ تقریر جو انہوں نے جمعہ کے دن وعظ کی صورت میں کی تھی۔ قرآن شریف کی آیتیں انہوں نے اپنی سیاسی خواہش کو پورا کرنا چاہا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس سے ان لوگوں کے دلوں میں جو سننے والے تھے برے خیالات پیدا ہونے کا احتمال ہے۔

انہوں نے مسجد میں قسم کھا کر کہا کہ مکہ معظمہ پر گولیاں چلائی گئیں۔ اس طرح ان لوگوں کے دلوں میں مذہبی نفرت اور جوش پیدا کیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی اور وہ بطور راشن کے سپاہیوں کو دی گئیں۔ دس دس آدمیوں کو ایک عورت دی گئی اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں عورت کی عزت و حرمت بہت بڑی ہے۔

انہوں نے کہا جو رپوڈ پیراٹائی کے لیے ہم سے لیا گیا اس سے گولیاں خریدی گئیں اور ہمارے اپنے بھائی ان سے مارے گئے۔

یہ ایسی تقریر تھی جو بے علم لوگوں پر جن کو واقفیت نہ ہو ان پر بڑا اثر کر سکتی تھی اور گورنمنٹ کے خلاف تھی۔

جب شاہ جی وعظ کے طور پر جمعہ میں یہ لفظ کہہ رہے تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مخالف قابل معافی اور جھوٹ بولنا واجب اور جائز ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ کس قسم کے آدمیوں کو سنا رہے ہیں۔ ایسی بات سن کر وہ فساد کرنے لگتے ہیں جس سے حکومت کے خلاف بغاوت کا احتمال ہے۔

لہذا حسب ذیل نوٹس اس تقریر میں مجرم تحت ۱۲۲-۱ الف تعزیرات ہند عائد ہوتے ہیں۔

۱۔ فرعون اور حکومت کے مابین مقابلہ کیا گیا۔ یہ کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل



۸۔ انگریزوں نے جس طرح دباؤ میں رکھنا چاہا بھرتی کیا، لڑائی میں مر دیا جلیا نوالہ بانخ میں گولیاں چلائیں، قید کیا، پھانسیاں دیں، لڑائی کا چنندہ لے کر ہم کو لوٹ لیا۔ جو مکہ ٹرینیشن میٹنگ ایکٹ (STRATION MEETING ACT) نافذ ہے، مسجد ہی امن کی جگہ ہے۔

۹۔ منتروں وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوئے ملزم نے انگریزوں کو شیطان کی نائیاں کہا ہے۔

یہ تمام الفاظ تعزیرات ہند کی دفعہ ۱۲۴-۱۲۵ کی زد میں آتے ہیں۔

مجلسٹریٹ۔ (شاہ جی سے) آپ نے ۲۵-۲۶ مارچ کو ایک تقریر کی جس کی رپورٹ

فریڈم

A.B.C. میں درج ہے کہ آپ نے حکومت کے خلاف نفرت یا حقارت پیدا کی یا اس کا اقدام کیا یا دشمنی کے خیالات پھیلائے اور برٹش گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف لوگوں کے دلوں میں حقارت پیدا کی۔ کیا آپ نے یہ جرم کیا ہے؟

شاہ جی۔ میں نے جرم ہرگز نہیں کیا۔ قرآن کریم پڑھا ہے، قرآن کریم پڑھنا جرم نہیں۔ مجلسٹریٹ۔ جرح کے لیے گواہ بلائے ہیں یا معافی کے گواہ۔

شاہ جی۔ میں ترک موالات کا حامی ہوں۔ قرآن میری صفائی ہے۔ قرآن میرا گواہ ہے۔ قرآن ہی میرا مذہب ہے اور قرآن ہی میرا دین۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔

مقدمے کی یہ کارروائی مسلسل جاری رہی۔ آخر ۸۔ اپریل ۱۹۲۱ء کو حسب ذیل فیصلہ دیا گیا۔

فیصلہ مقدمہ

”قیصر ہند بنام مولوی عطا اللہ ولد حافظ ضیاء الدین، قوم ستید، سکھ ناگڑیاں

جرم زیر دفعہ ۱۲۴-الف مجموعہ تعزیرات ہند۔ تاریخ اجراء مقدمہ ۲۔ اپریل ۱۹۲۱ء

اس مقدمہ میں امرتسر شہر کا ایک مولوی عطا اللہ ملزم ہے۔ یہ شخص زبردست

۱۲۴-و تعزیرات ہند ایک وحظ کی بناء پر گرفتار کیا گیا ہے، جو اس نے شیخ

خیر الدین کی مسجد واقع ہال بازار امرتسر بروز جمعہ مورخہ ۲۵ - مارچ ۱۹۲۱ء کو کشیدہ متعدد جماعت کے سامنے بیان کی - استغاثہ کا بیان ہے کہ اس وعظ سے اس حکومت کے خلاف جو بروئے قانون قائم ہے، نفرت اور نفارت پھیلنے کا احتمال ہے - یہ استغاثہ حکومت کی منظور می لینے کے بعد دائر کیا گیا - استغاثہ کے دس گواہوں نے یہ وعظ سنا - ان میں سے ایک غلام محی الدین ہیڈ کانسٹیبل گوہ استغاثہ نمبر ۱ تھا - جو وعظ سننے کے بعد کو توالی پہنچا اور اس نے وعظ کے نوٹ تیار کر کے اپنے حکام کے پاس بھیجے - وعظ کا ترجمہ مختصر درج ذیل ہے -

۱۔ ہندوستان کی موجودہ حکومت کا مقابلہ فرعون سے کیا گیا اور مٹا دیا گیا کی مثال موسیٰ سے دی گئی - فرعون کی سلطنت برطانیہ کی نسبت بڑی اور طاقتور تھی - فرعون منجموں سے صلاح اور مشورے کیا کرتا تھا اور انگریز ڈاکٹروں سے مشورے لیتے ہیں - اگر ڈاکٹر اتنا کہہ دے کہ فلاں جگہ رہنا صحت کے لیے مضر ہے تو انگریز اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے - خدا، انگلستان میں کوئی ایسا ڈاکٹر پیدا کرے جو ہندوستان سے تین چار لاکھ روپیہ لے کر انگریزوں کو یہ مشورہ دے کہ ہندوستان کی آب و ہوا ان کے لیے ٹھیک نہیں -

ب۔ فرعون تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ کائنات کا خدا ہے اور انگریز یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ تمام نسل انسانی کو عیسائی بنا لیا جائے -

ج۔ ان انگریزوں کے صلاح کار - لارڈ جارج، کمشنر گورنر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ ہیں -

د۔ فرعون کے منجموں نے پیش گوئی کی تھی کہ ایک رط کا پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو تباہ کر دے گا - اس پر فرعون نے موسیٰ کو تباہ کرنے کے لیے







انجمن اسلامیہ کے سکول میں جاتے ہیں حالانکہ اس انجمن نے سرمایہ جنگ میں کچھتر ہزار روپیہ دیا تھا تاکہ اس روپے سے گولیاں خریدی جائیں جو کہ مسلمانوں ہی کے سینے چھلنی کریں۔

۴۔۔۔۔۔ انگریزوں نے ہر ممکن طریق سے ہندوستانیوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے فوج میں بھرتی کر لیے گئے تاکہ مارے جائیں بعض جلیانوالہ باغ میں ذبح کر دیے گئے۔ بعض مارشل لایم قید کر دیے گئے اور پھانسی پر لٹکائے گئے، جو باقی رہ گئے ان کا مال و متاع جنگ کے لیے لوٹ لیا گیا اور انہیں اقل اس کے گڑھے میں پھینک دیا۔

۵۔۔۔۔۔ جب سے قانون امتناع مجالس باغیانہ نافذ ہوا ہے صرف مسجد ہی ایک مقام امن ہے۔ لہذا عوام کو چاہیے کہ مسجدوں کی مرمت کے لیے دل کھول کر چندہ دیں۔

یہ انتہا سست کافی ہوں گے۔ میرے روبرو ملزم نے بیان کیا ہے کہ اس نے محض قرآن کریم پڑھا ہے۔ ملزم نے کوئی جواب استغاثہ کو اس بنا پر پیش نہیں کیا کہ وہ عدم تعاون کا پابند ہے۔

فیصلہ کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا ملزم نے یہ وعظ کیا تھا جو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ گواہان استغاثہ نے جو کچھ سنا اس کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرنے میں ان کا کوئی مقصد نہیں اور جس طریق میں انہوں نے اپنے بیانات دیے ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ دانستہ ایک ناگوار فرض انجام دے رہے ہیں۔ گواہ استغاثہ نمبر ۱۱ مولوی نور احمد نے جو ملزم کا ہم پیشہ مولوی بھی ہے، حتی الامکان ملزم کو مدد دینے کی کوشش کی اور اس واقعہ پر از خود زور دیا کہ سامعین کی جماعت دوران وعظ جوش سے بھری معلوم نہ ہوتی تھی لیکن

یہ امر خارج از بحث ہے کیونکہ جرم زیر غور یہ نہیں کہ تقریر کا اثر کیا ہوا بلکہ سوال یہ ہے کہ الفاظ سے کس قسم کا جذبہ پیدا کرنا مقصود تھا۔ گواہ مذکور اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ سامعین مولوی عطا اللہ کا وعظ توجہ سے سن رہے تھے۔ ملزم نے قرآن کریم سے چند آیات پڑھیں اور حاضرین مسجد کو اس کی تشریح اور تفسیر کر کے سنائی۔ گواہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وعظ کا مضمون فرعون اور مولیٰ سے متعلق تھا۔ نیز ملزم نے کہا تھا کہ ماما کا مٹی کا نام بھی مولیٰ کی طرح مجھ سے شروع ہوتا ہے۔ گواہ نے تسلیم کیا کہ ملزم نے حکومت کا مقابلہ شہد کی مکتیوں سے کیا تھا۔ گواہ نے سوڈیشی دھونی کے الفاظ بھی سنے ہیں اس کے علاوہ گواہ مذکور نے ڈاکٹروں کی رشوت کے متعلق بھی کچھ سنا تھا۔ گواہ نے یہ خود بیان کیا ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس سے بدظنی پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ لیکن ساتھ ہی گواہ نے بیان کیا کہ وہ ملحق کرے میں کھچی طرف بیٹھا تھا اور وعظ کے پہلے حصے میں موجود نہ تھا۔ سب سے آخر میں وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں اور میری طاقت سماعت کمزور ہے اس کا بیان دوران تحقیقات اول درجہ کے مجسٹریٹ نے قلم بند کیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں انگریزوں کا لفظ زبان پر نہیں لایا ہوں۔ جیسے کہ بیان مذکور میں درج ہے وہ بیان صحیح ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس بیان میں گواہ نے کہا کہ ملزم نے فرعون کے ہزار بیوں کی غرقابی کا تذکرہ کیا۔ مگر چونکہ گواہ مولوی ہے یہ قدرتی بات ہے کہ اسے اس قسم کی شہادت خلاف مرضی دینی پڑی ہو اور ممکن ہے اسے ڈیڈا دھمکایا بھی گیا ہو۔ چونکہ وہ وعظ میں موجود تھا، استغاثہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسے شہادت میں پیش نہ کرے۔ شہادت دیتے ہوئے اسے جو دعائی کو ملت ہوئی وہ بھی اس طرز عمل اور اس بات سے بخوبی ظاہر تھی کہ اس نے کئی مرتبہ برناب کے جڑے پئے اور گواہوں کے کٹھڑے میں ایک خادم بھی ساتھ رکھا۔ یہ حالت نیز گواہ کا یہ ہذر کہ میری سماعت میں فرق ہے۔ میں بیمار ہوں اور مسجد میں دیر سے



کہ رہا تھا اس لیے وہ یہ غدر بھی پیش کر سکتا کہ مبالغہ قابل عفو اور دروغ بیانی  
جائزہ ہوتی ہے۔

پولیس کے متعلق بھی اس کے الفاظ عیاں طور پر ایسے ہیں جس سے پولیس  
کے دلوں میں حکومت کی طرف سے بدولی پھیل سکتی ہے اور اس کا اثر خود  
غلام محی الدین ہیڈ کانسٹیبل نے محسوس کیا ہے پھر اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش  
کی کہ حکومت ہر ممکن ذرائع سے ہندوستانیوں کا استیصال چاہتی ہے یعنی ان  
کے مردانے کے لیے فوج میں بھرتی کرتی ہے۔ جلیانوالہ باغ میں کشت و خون  
گرم کرتی ہے، مارشل لار کے تحت قید کرتی ہے، پھانسیاں دیتی ہے اور  
روپے پیسے سے محروم کرتی ہے۔

یہ باتیں بھی صریحاً غلط بیان کی گئی ہیں جن سے حکومت کے خلاف  
نفرت اور بددلی پیدا کرنا اور سامعین کو عمل کے لیے ابھارنا مقصود ہے۔

مٹر گاندھی اور موٹی کے تقابل سے متعلق اس ٹریناک اشارے کی بات  
کچھ لکھنا غیر ضروری ہے جس سے اس نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے  
کہ مٹر گاندھی کس طرح حکومت کو دق اور پریشان کر رہا ہے۔ یاد رکھنے کے قابل  
بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ موسیٰ کا ایک  
مصری کو بارڈانہ اور سرخ رنگ کا حوالہ دینا صاف طور پر توہین نبوی اور شتعال انگیزی  
کی طرف اشارہ ہے اور اس کے وعظ کے دوسرے مضمون کی طرح یہ باتیں بھی اس ملک  
کی موجودہ حکومت کے خلاف کہی گئی ہیں۔ اس کی یہ آرزو کہ انگریزوں کو جو مضمون کی  
طرح شکست ہو اور "اغز قنائل فرعون" کی بددعا جو بقول ملازم کے اس وقت  
زبان پر لائی جائے جس وقت انگریز ساحلِ ہند سے روانہ ہوں گے، افتخارات اور  
بددلی کی حقیقی مثالیں ہیں جو اس نے سامعین کے دلوں میں پیدا کیں۔

مزم کا اپنے برادران دین کو یہ ملامت کرنا کہ جب حج کے لیے کہا جاتا ہے تو غربت کا عذر پیش کرتے ہو حالانکہ مزم نے خود حج نہیں کیا۔

اپنے بھائیوں کے ساتھ خلوص کی ایک اور مثال وی ہے۔ اس کا ممت مسجد کے لیے چندے کی درخواست کرنا جس میں وہ خود وعظ کر رہا تھا۔ اور یہ کہنا کہ قانون مجاس باغیانہ کی وجہ سے مسجد ہی ایک پناہ کی جگہ رہ گئی ہے۔ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قرآن شریف کی تعلیمات کو سیاسی اغراض کے لیے برت رہا ہے اور یہی نیت اس کی اس کے وعظ سے شرح ہوتی ہے۔ تخیل کو خواہ کتنی ہی وسعت کیوں نہ دیں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مزم کا وعظ محض سوراخ کے حصول کی خواہش پر مبنی تھا اور نہ مزم نے خود اس کی طرف اشارہ کیا۔

چنانچہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مزم نے جو تقریر کی ہے اس سے ایک ایسی حکومت کے خلاف جو برطانوی ہند میں بروئے قانون قائم ہو چکی ہے نفرت و ختارت اور بددلی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وعظ مذکور حکومت یا کسی سرکاری افسر کے خاص فعل یا کاروائی کے خلاف نہ تھا بلکہ اس کے ذریعے سے کوشش کی گئی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اس نظام ترکیبی کے خلاف نفرت پیدا کی جائے جس کے تحت وہ رہتے ہیں اور اسے بدل دیا جائے۔

موجودہ نازک ساحت میں مذہب کے نام سے ایک غیر تعلیم یافتہ اور اشتعال انگیز مجمع کے سامنے کوئی تقریر کرنا ایسا ہے کہ اس سے بحیثیت مجموعی دلوں میں ایسی تلخی پیدا ہو سکتی ہے اور ایسے جذبات برانگیخت ہو سکتے ہیں کہ لوگ فوراً عملی کاروائی شروع کر دیں۔

سامعین میں سے اگر کوئی شخص مزم کا وعظ سننے کے بعد باہر آتا اور پہلا انگریز جو اسے ملتا اس پر وہ سہ بازار حملہ کر دیتا تو یہ امر چنداں باعث تعجب نہ تھا

میں بلاتامل، مزیم کو زیر دفعہ ۱۲۴ و تعزیرات جند مجرم قرار دیتا ہوں۔ جون ۱۹۲۰ء میں اسے تیسرہ ہو چکی ہے۔ اس لیے وہ اس قسم کی تقریر کرنے کے نتائج و عواقب اور سزا سے بخوبی آگاہ تھا۔ قانون کی رو سے زیادہ سے زیادہ سزا جس دوام عبور دریا کے شور ہو سکتی ہے لیکن میں مزیم کو تین سال قید با مشقت کی سزا دیتا ہوں جس میں تین ماہ کی قید تنائی ہوگی۔

دستخط ————— رلف۔ اے۔ کانر

۸۔ اپریل ۱۹۲۱ء  
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ  
عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد شاہ جی نے مجسٹریٹ کی طرف دیکھتے ہوئے  
فی البدیہہ کہا۔

دار کے حق دار کو قید سہ سالہ ملے  
ہائے مشکل آساں ہوتے ہوتے لگئی

کہہ عدالت سے باہر نکلے تو ہجوم میں سے اکثر ارجابا کے رونے کی آواز  
آئی۔ شاہ جی نے غصے میں آکر کہا۔

”کون بزدل رو رہا ہے؟ تعلق بخاری سے اور رونا خود توں کی طرح۔  
پھلے کہیں کے۔“

اس کے بعد السلام علیکم کہا اور پولیس کی لاری میں سوار ہو گئے۔

۱۱۔ اپریل کو حسب دستور ڈسٹرکٹ جیل امرتسر سے شاہ جی کو لاہور منتقل  
جیل میں تبدیلی کا حکم ملا۔ یہ کام پولیس اور دوسرے حکام نے بڑی

دازداری سے کرنا چاہا لیکن ڈجالے اہل شہر کو کس طرح پتہ چل گیا کہ سیکٹورڈوں کی تعداد میں لوگ  
ریلوے ٹیش پر شاہ جی کی آمد سے پہلے پہنچ گئے۔

گاڑی چلنے میں کچھ منٹ باقی تھے کہ پولیس کی مجاری محبت میں شاہ جی کو اسٹیشن پہ

لایا گیا۔ پاؤں میں لوسہ کی پٹریاں، ہاتھوں میں بٹکڑی۔ اس حالت میں یہ مرد درویش جب  
اطیشن کی عمارت میں داخل ہوا تو پتھر بھی آبدیدہ ہو گئے۔ برطانوی سامراج کا مجرم، وطن کا  
سپاہی، قرآن کا مبلغ، آزادی وطن کے جرم میں آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا پمڈر وین PRISONER  
WAGON کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا۔

عشق اپنے مجرموں کو یا بہ جولاں لے چلا

آخر سینکڑوں انسانوں نے آنسوؤں کے ہاروں کی دعائیں اور حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ  
کہہ کرتین سال کے لیے اپنے سے جدا کیا۔

گاڑی لے منزل کی طرف سفر شروع کیا تو شاہ جی نے کھڑکی سے باہر منہ نکال کر کہا

درو دیوار پہ حسرت کی نظر کرتے ہیں

خوش دہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں





فرنگی عہدِ اقتدار کی داستان حقیقت کے اس قدر قریب ہے کہ واقعات کسی بھی زمانے کے مورخ کے لیے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے۔ آئینہ ہر تصویر کو وقت کے چوکھٹے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ ماضی کی راہوں سے گزرنے والا ہر مسافر اپنے پاؤں کی ٹھوکریں نہ جلنے کس قدر نشانِ پایے ہونے ہے کہ جس پر زمانے کی بے اعتنائیوں کا گلہ ثبت ہے، زمانہ اپنے قلم سے جن کمائیوں کو رقم کر رہا ہے غروبِ آفتاب کی ہر شام انہیں شفق سے ڈھانپتی چلی جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر کمائی کو اپنے عنوان کے لیے کسی عطا اللہ کے خون کی ضرورت ہوگی لیکن مستقبل کا دامن تہی ہوگا۔

ماضی نے جس عطا اللہ کو جنم دیا تھا۔ اپنے اور پرانے سامراج نے اسے اس طرح دوند ڈالا کہ شاید نصف صدی کے بعد دلوں سے اس کی یاد محو ہو جائے۔ لیکن رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے یا جس طرح خزاں کے بعد بہار ہمیشہ لیتی ہے۔ پورے ہوئے دلوں کو اسی طرح عطا اللہ کے کارنامے آزادی وطن کے لیے ان کی مساعی جمیلہ، تبلیغ دین میں ان کے مصائب کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ دردِ زمانے کو اپنی تہی دامن پر تاشتر گلہ رہے گا۔

توہین اپنے راہنماؤں کی یادگاریں قائم کتنی ہیں زمانہ جن پر گردوغبار ڈال لائپور سنٹرل جیل دیتا ہے۔ وہ انہیں تلاش کر لے میں کھوجاتی ہیں۔ لیکن عمید رواں کے تن آسان ہاتھوں نے بننے بنائے نشانِ شاد لیے۔ لائپور سنٹرل جیل بھی ایک ایسا ہی نشان تھا اس جیل کی ایک ایک ایڑ پر غلامی کے خلافتِ رطنے والوں کے نام ثبت تھے۔ اس جیل

کی برکوٹھری اسیران فرنگ سے واقف تھی۔ اس جیل کے پھانسی کے تختے شہیدان وطن کے خون سے ہر صبح ناشتہ کرتے رہے ہیں۔ ان چشم دید گواہوں کو مٹانے میں وقت کے حاجلانہ فیصلے نے بڑی جانبداری سے کام لیا۔ سکاٹ وہ حالات کا انتظار کرتا۔

شاہ جی کو اس جیل کی گورنارڈ میں رکھا گیا۔ یہ وارڈ سیاسی قیدیوں کے لیے مخصوص تھی۔ اس دور میں سیاسی قیدیوں کے لیے کوئی امتیازی کلاس متعین نہیں تھی تاہم دو قسم کے قیدیوں کو امتیاز حاصل تھا۔ اول جو انکم ٹیکس گزار تھے۔ دوسرے سٹوڈنٹس۔ لیکن شاہ جی پہلے سیاسی قیدی تھے جنہیں شہرت کی بنا پر یہ کلاس دی گئی۔

شاہ جی کو لاہور سنٹرل جیل میں آئے ہوئے دو ہفتے ہوئے تھے کہ اچانک **معافی کی درخواست** ایک دن انہیں جیل کے دفتر میں بلا کر ان کے سامنے انگریزی میں

لکھی ہوئی ایک درخواست پیش کی جس میں درج تھا کہ

”اگر اس دفتر حکومت مجھے معاف کر دے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ میری

کوئی حرکت ایسی نہیں ہوگی جس سے حکومت کو کسی قسم کی شکایت پیدا ہو“

اس درخواست کے نیچے کسی کا نام درج نہیں تھا اور نہ تحقیق پر کسی کا نام مل سکا شاہ جی

نے اس درخواست کا ترجمہ سن کر اسے پریزنٹنٹ کے ہاتھ سے لے لیا اور ہزار ٹکڑے کر کے

اپنے پاؤں تلے روندنا اور تین دفتر اس پر تھوکا، پھر غصے کی حالت میں واپس چلے گئے۔ اس

واقعہ کے متھوڑے دنوں بعد شاہ جی کو میانوالی ڈسٹرکٹ جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس دور میں

اور آج بھی میانوالی جیل حادی مجرموں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں کی آب و ہوا اور موسم گرمائی پیش

کی بنا پر یہ جیل پنجاب کا، کالابانی، کملاتی ہے۔ ترک مولات اور تحریک خلافت کے قیدیوں کے

لیے یہی جیل مناسب سمجھی گئی۔ پچاسچھ ہندوستان بھر کے سیاسی رہنماؤں کو آہستہ آہستہ اسی جیل

میں منتقل کر دیا گیا۔ جن میں یہ نام قابل ذکر ہیں۔

۱۔ مولانا محمد داؤد خزنوی - ۲۔ مولانا احمد سعید دہلوی - ۳۔ مولانا لقا اللہ پانی پتی -

۲۔ صوفی محمد اقبال - ۵۔ اختر علی خاں (زمیندار لاہور) - ۶۔ عبدالمجید سہلکت (ایڈیٹر روزنامہ انقلاب لاہور) - ۷۔ مولانا عبدالقدوس چوڑی والے (دہلوی) - ۸۔ مولانا سید حبیب (ایڈیٹر روزنامہ سیاست لاہور) - ۹۔ پنڈت نیکی رام شرما - ۱۰۔ ڈاکٹر ستیہ پال - ۱۱۔ لالہ تروک چند عروم - ۱۲۔ دیش بندھو داس گپتا (ایڈیٹر روزنامہ تیج دہلی) - ۱۳۔ بابا گروت سنگھ - ۱۴۔ سردار منگل سنگھ (سردار سردول سنگھ کولیشٹر لاہور) - ۱۵۔ بابا کھڑک سنگھ (سیاکوٹ) - ۱۶۔ سوامی شردھانند (دہلی) - ۱۸۔ منشی احمد دین (امر تسر) - ۱۹۔ خواجہ عبدالرحیم صاحب (امر تسر) - ۲۰۔ راجہ غلام قادر (وزیر آباد)

یہ وہ لوگ ہیں جن میں چند ایسے ہیں جو آگے چل کر صحافت اور ملکی سیاست میں غیر ملکی حکمرانوں کے باغی اور تھمہ ہندوستان کے رہنما بنے۔

جیل خانے کے شب و روز باہر کی دنیا سے مختلف ہوتے ہیں۔ گھر بار اور اولاد سے لاتعلق ہو کر قیدی یہاں رہ کر اپنی دنیا آپ آباد کرتا ہے۔ خیالات میں بچپنا اور جذبات میں جوانی ٹوٹ آتی ہے۔ اونچی دیواروں کے سائے میں رہنے والے سیاسی قیدی ہمارے نوازاں کے موسم اپنے ماحول میں آپ ڈھالتے ہیں۔ بلاشبہ میانوالی جیل کا ہر سیاسی قیدی اپنے اندر جو پرتقابل کا خزانہ لیے بیٹھا تھا۔ لیکن آزادی وطن کی پاداش میں برطانوی سامراج کا باغی قرار دیے جانے پر اس کا جسم قید تھا۔ تاہم روح کی اتھاگی اسی طرح آزاد تھی۔ اس کی سوچ اور فکر میں کوئی دیوار یا لوسہ ک کوئی دروازہ حائل نہیں تھا۔

ایملن آفرنگ۔ جنہیں رائج الوقت قانون نے اپنا دشمن قرار دے کر تین تین برسوں دوزخ و برسوں اور ایک ایک برس کے لیے یہاں ڈال دیا تھا نفس کی تیلیوں میں بیٹھ کر شاخ گل کی مہاروں کے گیت اپنے شروع کیے۔ چنانچہ شاعر سے اتوایں، جلسے اور عملی جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ اگر ان لوگوں کے وجود سے جیل کے باہر فرنگی حکمران پریشان تھے تو جیل کے اندر حکام جیل اور دوسرے قیدی عاجز آچکے تھے۔ آخر میانوالی ڈسٹرکٹ جیل کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر رام جی داس اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ چوہدری فرید احمد کو اپنی سخت گیر پالیسی کو تبدیل کرنا پڑا

لے مولانا ظفر علی خاں کے جیاتے :-

درتہ باغیوں کا یہ گروہ اپنے ساتھ دوسرے قیدیوں کو بھی خراب کر دیتا۔  
شاہ جی ان ہنگامہ آرائیوں کے باوجود جیل میں بھی اپنے تبلیغی مشن سے غافل نہیں رہے۔  
راجہ غلام قادر، اختر علی خاں، منشی احمد دین، خواجہ عبدالرحیم حاجتو نے قرآن کریم انہی دنوں شاہ جی  
سے پڑھا۔

شاہ جی کی گرفتاری نے ایک طرف گجرات کی سیاسی زندگی کا رخ تبدیل  
کیا تو دوسری طرف آزاد ہائی سکول کی عمارت بھی اپنا جہام و قار  
ضائع کر بیٹھی۔ حکومت نے فوراً سکول کا نام اسلامیہ ہائی سکول رکھ کر اسے پنجاب یونیورسٹی  
کے تحت کر دیا۔ یہ سکول آج بھی اسی نام سے چل رہا ہے لیکن اب اس کا جامعہ علیہ شاہ جی  
سے کوئی تعلق نہیں۔

تحریک ترک موالات کا خاتمہ | ترک موالات اور خلافت کی مشترک تحریکات نے  
ہندوستان بھر کو پرامید کر دیا تھا کہ اب غیر ملکی حکمران  
یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہندوستان سے باہر بھی یہی چرچا تھا۔ حالات کی بوسونگھنے  
والے سیاست دان اور خود انگریز بھی اپنے قدموں کے نشان گن رہے تھے۔ پرنس آف ویلز  
نے اپنا دورہ ہندوستان ملتوی کر دیا تھا کہ صوبہ یوپی کے ضلع گونڈکھ پور کے دیہاتی عوام نے اپنے  
گاؤں "چولا چھری" کے پولیس تھانہ پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی۔ جس میں پولیس کے سپاہی  
اور افسر جل کر راکھ ہو گئے۔ اس واقعہ نے گاندھی جی کو اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے ۵ فروری  
۱۹۲۳ کو تحریک ترک موالات بلا کسی مشورہ کے بند کر دی۔ تحریک کا بند ہوتا تھا کہ سارا ہندوستان  
گاندھی جی کے خلاف ہو گیا۔

۵ نومبر ۱۹۲۱ء کو جو آگ لگی تھی۔ ۵ فروری ۱۹۲۳ء کو جب یہ بجھائی گئی تو مغربی طاقتیں  
اپنی کامیابی پر مسکرائیں۔ ان کے سمجھتے ہوئے پرائیوں میں پھر سے روشنی آگئی۔ دقت لے  
بخت کو مبارکباد دی۔ یونین فلنگ کی اوٹین نیشنل فلنگ پر غالب آگئیں۔

جیل خانوں میں سیاسی قیدیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مقصد کی ناکامی نے شاہج  
 ٹرکی بہاروں کو آگ لگا دی۔ نفس کی تیلیاں پاؤں کی بوہل بیڑیاں بن گئیں۔ لیکن عزم نے ہمت  
 نہ ہاری۔ ناکامیوں نے ارادوں کے آنسو پونچھے تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ دل اور زبان نے ہم آہنگ  
 ہو کر کہا: ہم پھر لڑنے کا عہد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک سال چار ماہ کی جدوجہد آزادی ایک موڑ  
 پیرا کر رک گئی۔

**تحریکِ خلافت کا حشر** | قوموں کی زندگی کا انحصار ہمیشہ ان کی اپنی ہمت پر رہا ہے جو  
 تو میں اس دور میں بچھڑ جاتی ہیں زمانہ ان کے ساتھ انصاف  
 نہیں کرتا۔ ترکہ اقوام یورپ سے اگر اپنی زندگی کی بھیک مانگتے تو شاید اس مرد بیمار کو  
 بھیک سے بھی محروم رکھا جاتا لیکن تلوار کی نوک سے حاصل کیا ہوا ”ترکی“ آج بھی زندہ،  
 اور زندہ رہے گا۔

پہلی جنگ جیت کر اتحادی قوموں نے اپنی نوآبادیات سے جو سلوک کیا اور پھر تکرہ  
 کو مرد بیمار سمجھ کر قسطنطنیہ کے بازاروں میں خلیفہ المسلمین کے حرم کو رسوا کیا۔ اگر اس وقت مصطفیٰ  
 کمال کی تلوار بے نیام ہو کر درہ وانیال پر سامنے نہ آتی تو شاید یورپ کا یہ مرد بیمار مدت سے  
 دم توڑ چکا ہوتا۔ غازی ہمت انونو نے برطانوی وزیر اعظم لائیڈ جارج کو ٹھیک کہا تھا کہ جو  
 فیصلے تلوار کی نوک سے نہیں لکھے جاتے ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔

ٹرک اپنی تاریخ آزادی خون سے مرتب کر رہے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خون  
 نے جوش مارا۔ مسلمان مسلمان کی امداد کے لیے نکل آیا۔ ہندوستان کا مسلمان خلافت کی حالت میں جو کر  
 سکتا تھا اس نے کیا۔ آخر ۲۱ نومبر ۱۹۲۲ء کو جزیرہ لوزان میں برطانیہ اور ترکی کے درمیان صلح  
 ہوئی جس میں برطانیہ نے ترکوں کے آگے گھٹے ٹھیک دیے۔ اس کے ساتھ ہی تحریکِ خلافت  
 نے ہندوستان میں دم توڑ دیا۔

## تحریکِ شہمی

افراد تو میں اور سلطنتیں ایک دوسرے کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ انتقام کی آگ پہلے دلوں میں سلگتی ہے، پھر انسانوں کو بھلاتی اور ہمارے تلوں کو خاک کا ڈھیر بناتی ہے۔

ہندوستان کی سیاسی تحریکات دم توڑ چکی تھیں۔ افغانستان سے انگریز مطمئن ہو چکا تھا، وہیں کی اندرونی خلفشار بھی انگریز سیاستدانوں کے لیے مفید تھی۔ ترکوں سے معاہدہ لوزان کے بعد کوئی مزید جھگڑا نہیں تھا۔ ہندوستان کے رہنماؤں میں انگریز سامراج کا مخالف عنصر ہنزوی جیل خانوں میں تھا۔ انگریز دانشوروں کا ذہن وقتی طور پر فارغ ہوا اور انہیں ہندوستان سے انتقام کی سوجھی باضی قریب میں جس ہندوستان نے ایوانِ بھارت میں آگ لگا بی تھی، غلامی سے نجات کے لیے جن قوموں نے متحد ہو کر آزادی کی لڑائی لڑی تھی دشمن اب ان دوستوں کی لڑائی کا تماثرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ۱۹۲۲ء کے وسط میں میانوالی جیل سے سوامی شرودھانند کو ان کی میعادِ اسیری سے پیشتر رہا کر کے دہلی وائسرائے لاج میں لایا گیا۔ سوامی شرودھانند کا اصل نام منشی رام تھا۔ ایک مدت یہ پنجاب پولیس میں بطور تھانیدار ملازم رہ چکے تھے۔ دوسری طرف پنڈت مدن موہن ماوی کو یہ خوف تھا کہ سرحد کا پٹھان ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ اس نے سوامی شرودھانند سے مل کر ایک ایسی فرقہ وارانہ تحریک کو ہوا دی جس نے آگے چل کر خونخاک صورتِ حال پیدا کر دی۔

پہلا ہندو مسلم فساد | مدوں تو سارے ہندوستان کی فضا مکدر ہو چکی تھی۔ نگاہوں میں میل اندلوں میں کدورت بیٹھ گئی۔ لیکن ستمبر ۱۹۲۳ء کو ملتان میں محرم کے موقع پر

ہندو مسلم فساد نے سارے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ فساد جس مقام پر ہوا اس کے ایک طرف مسجد، دوسری طرف مندر اور درمیان پولیس تھاڑ ہے۔ تعزیراتِ محرم گیت سے شہر میں داخل ہو کر چوک بازار مسجد کے سامنے رکھا گیا۔ اچانک اس پر ایک اینٹ لگی چونکہ تحریکِ شہمی کے باعث شہر کی فضا پیشتر ہی مسموم تھی، لہذا بغیر تحقیق کے کہ اینٹ مندر سے آئی ہے یا تھانہ کی طرف سے، تمام گورنر جنرل نے تعزیرات کی بے حیثی کے سلسلے میں جہانگیر کو دیا۔ تیاری دوسری طرف سے بھی مکمل تھی۔ مقامی ڈپٹی کمشنر مٹرا لیشن خود تھانہ میں موجود تھا۔ یہ اینٹ خود اس نے

ملہ بی سٹرا لیشن ۱۹۲۵ء میں پنجاب کا گورنر ہوا اور مسجد شہید گنج گرانے میں اس کا پورا ہاتھ تھا۔

پھینکی تھی (غیر سرکاری تحقیقات میں اس کی تصدیق ہو گئی تھی)

غلامی میں صرف آزادی ہی صلب نہیں ہوتی بلکہ عقل انسانی بھی اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتی ہے اور مذہب کی پاکیزگی غلامی کے گناہوں سے آلودہ ہو کر اپنا دامن و اقدار کھلتی ہے۔ غلام ہندوستان اپنا وقار تو کھو چکا تھا، لیکن فرقہ دارانہ فضا میں کھو کر عقل و دانش سے بھی دور چلا گیا۔ آخر حکمران قوم کا جادو سر پر چڑھ کر رہا۔ نسیم سحر گاہی کا ہر جھونکا بادِ موسوم بن گیا۔ چمن کا ایک ایک پتہ صیاد کا معاون بن کر لالہ و گل کی پتیاں بکھیرنے لگا۔

سوامی شردھانند جو کبھی دہلی جامعہ مسجد کے منبر پر ہندو مسلمان کو اتحاد کی دعوت دیتے تھے، آج غلامی کی رسیاں مضبوط کر رہے تھے۔

چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا  
وہ شاخ ہی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا

باغبان جب پودوں کی تخم ریزی اور پھیر آبیاری کرتا ہے، تو ان کے جوان ہونے تک بیل و نہار کی محنت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ روز و شب کی ستم نظریفینوں سے انہیں محفوظ رکھے۔ موسم کے نشیب و فراز بھی پھول آنے تک سدراہ ہوتے ہیں۔ باغبان کی تمنائیں موسم سے بھی دست و گریبان ہوتی ہیں۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و رسیدہ

۱۹۲۰ء میں ہندوستانی رہنماؤں نے جس بہار کی آرزو کے لیے لالہ و گل کو اپنا خون دیا تھا، نرگس کی رنگت سورج کبھی کو بانٹ دی تھی اور نزاں سے بہا رہیں کر گل چیں کے رشتے کی نیواٹھائی تھی۔ جب قفس کی تیلیں ٹوٹیں تو بہار ان سے روٹھ چکی تھی۔ شبنم کے آنسو سچیاں لے رہے تھے۔ پھر بادِ نسیم نے موت کی مضراب سے آنے والوں کا استقبال کیا۔ اس بھیا تک منظر نے غلامی کی عمر بڑھا دی۔ وقت نے غیر ملکی حکمرانوں کا ساتھ دیا اور حالات اس قدر ناگفتہ بہ



ہونے کہ آس ٹوٹ گئی اور مقدر روٹ گیا۔ ایسے حالات میں شاہ جی کٹوتی کے پانچ ماہ لے کر دو سال سات ماہ اسپر فرنگ رہ کر ۲۱۔ اکتوبر ۱۹۲۲ء کو میانوالی جیل سے رہا ہوئے۔ پنجابی کے مشہور شاعر معزم خواجہ عبدالرحیم حاجز بھی شاہ جی کے ساتھ میانوالی جیل سے رہا ہوئے۔ ان کی پنجابی نظم کا ایک مصرعہ اسی زمانے کی یاد ہے۔

واہ حاجز قسمت دیا دلویا۔ پکی کھیسرتے ہو گیا دلویا

پھڑ پھڑیاں پھڑ دیاں پڑیاں نوں۔ توں ہتھوں باز گویا

رہائی کے بعد شاہ جی امرتسر محلہ کوچہ عارف ڈار چوک فرید میں رہائش پذیر ہوئے۔ بالک مکان بابا رحیم خاں کو شاہ جی سے دلی عقیدت تھی۔ جتنی دیر شاہ جی اس مکان میں رہے بالک مکان خادموں کی طرح سلوک کرتا رہا۔

۱۹۲۱ء اور ۱۹۲۲ء کے حالات میں نمایاں فرق آچکا تھا۔ ۱۹۲۱ء میں جب شاہ جی جیل گئے تو ہندوستان کے عوام انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ کو ہوادے رہے تھے اور جب واپس آئے تو وہی عوام آپس کی آگ میں جل رہے تھے۔ ہندو عوام سبھا اور ریواج کے اشتراک نے شدھی و سنگٹھن کی تحریک کو ایسی ہوادی کہ سارے نقشے ہی مسط گئے۔

ضلع آگرہ کے ملکانہ نامی گاؤں کے راجپوت مذہبیا مسلمان تھے | **شدھی کا عملی پہلو** لیکن رسم درواج اور شکل و صورت میں ہندو نظر آتے تھے۔ ایسے

مسلمان کو ہندو بنا لینا کوئی دشوار نہیں تھا۔ چنانچہ شدھی کے بانوں نے اس گاؤں کو اپنا مرکز بنالیا۔ مسلمان رہنماں دنوں عمیب التجاؤ میں تھے۔ وہ اپنی شہرت جو انہیں غیر مسلموں میں حاصل تھی ضائع کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف شدھی کی تحریک کو انگریزوں کی سازش سمجھ رہے تھے۔ ان دو گونہ مشکلات میں پھنسے ہوئے مسلمان دہناؤں کے

دو حصے ہو گئے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی پارٹی گوشہ تنہائی میں چلے گئے۔ پنجاب میں شاہ جی، ڈاکٹر صیف الدین کھلو، میر ظلام بھیک نیرنگ اور مولانا ظفر علی

انگ انگ شہجی کا مقابلہ کرتے رہے۔ موضع بکنا نر کے راجپوت بھی ان دنوں عجیب الجھن میں تھے۔ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کا آپس کا کردار انہیں مطمئن نہ کر سکا لیکن ہندوؤں کی دولت قریباً بیس راجپوتوں کو ہندو بنانے میں کامیاب ہو گئی۔

۹۔ اور ۱۰۔ ستمبر ۱۹۲۴ء کی درمیانی رات کو کوٹا میں ہندو مسلم فساد ہو گیا یہ نشان اور دوسرے شہروں میں فساد کی صدا سنے بازگشت تھی، جس نے سیاسی رہنماؤں کو پریشان کر دیا؛ ۹۔ عاتما گاندھی نے جو ان دنوں دہلی میں مولانا محمد علی جوہر کے ہاں دمان تھے، اکیس دن کے مرن برت کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مولانا محمد علی جوہر کے مشورے سے ۲۶۔ ستمبر ۱۹۲۴ء کو اتحاد کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔

بگڑے ہوئے تیور اور بدلی ہوئی نگاہوں نے دل و دماغ کے درمیان کانٹے ہی کاٹھے بچھا دیئے تھے جس سے اتحاد کا دامن الجھتا ہی چلا گیا۔ گاندھی جی نے ۱۸۔ ستمبر کو اپنا برت شروع کیا۔ یہ برت ہندوؤں کے طرز عمل کے خلاف بطور احتجاج تھا۔

۲۶۔ ستمبر کو مجوزہ اتحاد کانفرنس میں دوسرے رہنماؤں کے ساتھ شاہ جی بھی شریک ہوئے۔ دونوں کی بحث کے باوجود تمام رہنما بغیر کسی فیصلہ پر پہنچے دہلی سے چلے گئے، مگر گاندھی جی نے اپنا برت ۱۸۔ اکتوبر تک جاری رکھا، شاہ جی ان حالات و واقعات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بغیر کسی مشورے کے ملک کے موجودہ بگاڑ کی ساری ذمہ داری انگریز حکمرانوں کے سر ڈال کر وہ سیدہ پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے آکھڑے ہوئے اور اپنی شعلہ بیانی سے سارے ہندوستان کو اس پس منظر سے آگاہ کیا۔

شردھانندی اچانک رہائی، پنڈت انومی کا پٹھانوں کے خوف سے جگمگ، نشان کا فساد یہ ایسی چیزیں تھیں کہ عوام انہیں سن کر اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہوئے۔ برطانوی حکومت کو شاہ جی نے ایسا ننگا کیا کہ جب اس سے کوئی جواب بن نہ آیا تو جنوری ۱۹۲۵ء میں شاہ جی کو دتھ ۱۰۸ کے تحت گرفتار کر لیا۔ یہ مقدمہ دہلی کی ایک تقریر پر چلا گیا اس میں مٹر اصفت علی

دیکھ لیتے۔ دورانِ مقدمہ شاہ جی کے ضمانت دینے سے انکار کر دیا اور مقدمہ میں بھی کوئی دلچسپی نہ لی۔  
دواہ کی مسلسل کاروائی کے بعد مشرعبہ الصمد کی عدالت سے شاہ جی کو چھ ماہ قید با مشقت یا پانچ  
سورہ پے جواز نہ کی سزا ہوئی۔

جواز نہ کی یہ رقم اہل محلہ نے ادا کر دی اور شاہ جی رہا کر دیے گئے۔ رہائی کے بعد گھر آئے  
تو جواز نہ کی ادائیگی پر سخت نلامن ہوئے۔ کئی دن محلہ کے کسی دوست سے جلیک سلیک نہیں  
کی۔ آخر انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر شاہ جی سے معافی مانگی۔ شاہ جی کو گلہ تھا کہ آپ نے حلال  
کی کمائی فرنگی خزانے میں کیوں دی۔ ان دنوں شاہ جی کٹرہہ مسانگہ کوچہ رنگریزاں میں رہتے تھے  
بہار کے دنوں میں پھولوں سے لگاؤ شکل نہیں ہوتا لیکن خزاں کے موسم میں کانٹوں سے  
گزر کر منزل کو حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ شاہ جی جیل سے رہا ہوئے تو ہندوستان گیر شہرت نے  
ان کے قدم لیے۔ زمین کے ذرات آسمان کے ستاروں کی طرح ان کے پاؤں چومنے لگے۔  
محبت میں نگاہوں کے آنسو پھولوں کی طرح پنہا اور ہوئے۔ شاہ جی نے یہ گراں قدر دولت  
اپنے ہاتھوں میں نہ رکھی۔ وقت کا تقاضا یہی تھا۔ اٹھ بے ہوئے طوفانوں اور تیز بادنیوں  
کے درمیان شاہ جی تناؤں کا پورا رخ لے کر نکلے تھے اور جب لوٹ کر آئے تو یہ پورا رخ ہنوز  
روشن تھا۔

شخصی سنگٹھن کی تحریکات نے خلافت اور کانگریس کے تمام رہنماؤں کو وقت کی چادر  
میں لپیٹ کر گوشہ حافیت میں چھپا دیا۔ ہندو رہنما مسلمانوں میں اور مسلمان لیڈر ہندوؤں میں اپنی  
عزت و وقار کا جواز نہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ بھی راز ہائے درون پر وہ ان ہاتھوں کو  
جھانک رہے تھے جنہوں نے فرقہ وارانہ آگ روشن کی تھی۔ لیکن زبانیں گنگ اور ہاتھ سمٹ کر  
رہ گئے تھے۔ ایسے میں شاہ جی نے انگریز اور ہندو دونوں کے خلاف بڑے استقلال کے ساتھ  
اپنا کام جاری رکھا۔ ۱۹۲۳ء میں جیل سے رہا ہو کر ۱۹۲۵ء کے وسط تک تحریک شخصی سنگٹھن  
کے خلاف شاہ جی لے جس جوش ایمانی سے اسلام اور مسلمانوں کی وکالت کی، یہ وقت کا عظیم

حالانکہ شہمی کوئی تحریک نہیں تھی لیکن غیر ملکی حکمرانوں کی ضرورت نے اسے ایسے سانچوں میں ڈھال دیا تھا کہ اگر یہ سانچے اس وقت توڑ نہ دیے جاتے تو ممکن ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے راستے میں کھراٹل ہو جاتا۔ ہندو مسلمان رہنما جو حال ہی میں جیلوں سے رہا ہو کر آئے۔ اس قسم کی تحریک سے وابستگی پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر، مہاتما گاندھی، ڈاکٹر انصاری، پنڈت موتی لال نہرو ایسے لوگ دہلی میں بیٹھ کر ہندو مسابھا کی حرکات کے خلاف تجویزیں تو کرتے رہے لیکن بادِ مسموم کے تھپیڑے ان کے دامن کو اس قدر اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنی دھمکیاں بکھیرنے کے لیے صحنِ چمن میں قدم رکھتے۔ لیکن شاہ جی نے اپنی شہرت کو شہمی کے مقابل جلیخ اسلام کر کے ہندوؤں میں ضائع کر لیا۔ پنجاب کے مسلم اخبارات میں صرف ”زمینداروں نے اس تحریک میں شاہ جی کی پوری معاونت کی۔

فرقہ دارانہ تحریکات نے ہندوستان کی متحدہ قومیت کا تصور نہ صرف دلوں سے بلکہ ذہنوں سے بھی زائل کر دیا۔ ہندو مسلم اتحاد کی چلتی ہوئی گاڑی ایسی جگہ آ کر کی کہ غیر ملکی حکمرانوں کو گلہ کے پیراں جلانے کا موقع ملا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری ہندو قوم پرٹھانا انصاف سے بناوٹ کے مترادف ہو گا اور جن غیر مسلم رہنماؤں نے انگریزوں کو خوش کرنے اور غلامی کی عمر بڑھانے کی سعی کی انہیں ہندو قوم سے الگ کرنا بھی اپنے کو فریب دینا ہے۔ ماہم سوامی شردھانند پنڈت مدن موہن ماوی اور پنجاب کے مہارشی لال لاجپت رائے نے ۱۹۲۴ء میں شہمی دستگاہوں کی پرورش کر کے متحدہ قومیت سے خداری کی۔ اگر ایسی زہریلی تحریکات کے مقابل میں شاہ جی کی پر جوش تقریریں اور مولانا طفس علیجاں کی ہنگامی تحریریں نہ ہوتیں تو مین حیرت القوم مسلمان سخت خسارے میں رہتے۔

۱۹۲۵ء سے ایک سال تک ہندوستان کے مذہبی اور سیاسی رہنما | **تحریکِ قبہ** انگریز اور ہندو کے پیدا کردہ طور و اطوار میں الجھے ہوئے تھے، برطانوی حکومت

نے ایک نیا کھیل شروع کیا۔

ہندوستان کے تمام مسلمان والہی حجاز سلطان عبدالعزیز ابن سعود کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے مکہ اور مدینہ میں بزرگان دین کے مزارات سے عمارتِ دقبعے، گرا کر انہیں زمین سے ہموار کر دیا تھا۔

شریف مکہ کے زوال کے بعد جب نجدیوں نے اس پاک سرزمین پر قدم جمائے تو ترکوں کی دی ہوئی مذہبی آزادی کے پیش نظر عوام نے بزرگوں کے مزارات کو دینی اور دنیوی ضرورتوں کا حاجت ردا جان کر انہیں مسجدوں کی آماجگاہ بنا لیا تھا لیکن نئے حکمران سلطان عبدالعزیز ابن سعود نے اپنے عقیدہ کی بنا پر ان تمام حرکات کو خلاف دین اور بدعت سمجھ کر مزارات سے قبے گرانے کا حکم دے دیا۔ اس کی صدائے بازگشت جب ہندوستان کے ساحل سے لکرائی تو مسلمان آپلے سے باہر ہو گیا۔

ہوا سازگار نہ ہو تو موسم کا چلن بھی درست نہیں رہتا۔ بادل اٹھتے ہیں تو پھاگن کے دنوں میں بھی ساون بھاؤں کا ساگمان ہوتا ہے۔ رہنمایان ملک و ملت تین تین برس کی سزا کاٹ کر ابھی جیل خانوں سے رہا ہونے ہی تھے کہ برطانوی سامراج نے ان کے لیے ایسی فضا پیدا کر دی کہ وہ دل و دماغ کے تصادم میں الجھ گئے۔ شہمی دستکھٹن کے جنگامے ہنوز جاری تھے کہ برطانوی سیاستدانوں نے مکہ اور مدینہ کی حرمت کا واسطہ دے کر مسلمانوں کو سلطان ابن سعود کے خلاف بغاوت پر ابھارا اور ہندو سرہیہ وار نے مسلمانوں کا رخ بدلا ہوا دیکھ کر فائدہ اٹھایا لیکن دیوبند مدرسہ فکر کے علمائے آگے بڑھ کر سلطان عبدالعزیز کی حمایت کی۔ چنانچہ شاہ جی نے ان دنوں اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا۔

” میں حنفی العقیدہ مسلمان ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ نفع و نقصان کسی وارث صرف اللہ کی ذات ہے۔ حالات کا تغیر بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اولاد دینا، نذرینا، دے کر چھین لینا اسی کو زیبا ہے۔

اگر مکہ اور مدینہ کے مقدس مزارات پر جا کر مسلمان سجدہ کرتا تھا۔ ان مزارات سے مرادیں مانگتا تھا یا انہیں حاجت روا خیال کرتا تھا تو میری رائے ہے کہ سلطان عبد العزیز نے ان قبول کو گرا کر ان میں آخری نیند سونے والوں کی روح کو آرام پہنچایا ہے۔ یہی وہ نیک لوگ تھے جنہوں نے لات و ہبل اور غزنی کی پوجا سے بنی نوع انسان کو منع کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکیہ کرنے کا درس دیا تھا۔ اگر آج انہی کے مزارات کی پرستش ہو لے لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے مشن سے یا مقصد سے انحراف کر کے توحید باری تعالیٰ سے بغاوت کرنا ہے۔

شاہ جی نے اس طرز استدلال پر سارے ہندوستان میں تقریریں کیں۔ قرآن کریم، حدیث نبویؐ اور اپنی قوت بیان سے کروڑوں انسانوں کو اسی عقیدے کا درس دیا۔

پنجاب کے پیرانِ عزام نے ہدیس دہر شاہ جی پر ”دہابی“ ہونے کے علاوہ دوسرے مختلف اقسام کے فتوے لگائے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ کافتمولی اس سلسلے کی اہم کلمی ہے۔ مولانا سید حبیب اور ان کا اخبار روزنامہ سیاست، پیروں کے مؤید تھے۔ دوسری طرف مولانا ظفر علی خاں اور زمیندار شاہ جی کے ہمنوا تھے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جمعیت العلماء ہند، چودھری افضل حق، مولانا عبد اللہ قصوری، مولانا حبیب الرحمن دھانی نے بھی سلطان عبد العزیز ابن سعود کی حمایت میں شاہ جی کا ساتھ دیا۔

ایک سوال | اسی تحریک کے دوران لاہور میں ایک اجتماع ہوا۔ جس میں ایک سوال کیا گیا۔

”آپ کے نزدیک اگر قبر پر قبہ بنانا بدعت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر گنبدِ خضرا سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟“

جواب | اس سوال پر سارے مجمع میں ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ دوستوں کی پریشانی بڑھی۔

دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مخالفین نے تالیوں سے اس سوال کا استقبال کیا۔ لیکن شاہ جی کو قدرت نے ذہن رما عطا کیا تھا۔ سوال پر ذرا سکرانے اور ارجحاً فرمایا۔

”اگر ان محامروں نے جرأت کر لی ہے، جنہوں نے نبی کریم کی آخری آرام گاہ سے بھی اونچے ہو کر اس پر قبہ تعمیر کیا ہے تو پھر میری رائے ہے کہ گنبدِ خضر کے مقابلے میں کوئی گنبد تعمیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔“

شاہ جی کا یہ جواب سن کر مجمعِ نعروں سے گونج اٹھا۔

علی برادران کا روحانی تعلق مولانا جہد الباری فرنگی محل دکنو سے تھا اور وہ تحریکِ قبر میں سلطان ابن سعود سے اختلاف رکھتے تھے حالانکہ ان کی جماعت ”خادمِ حرمین“ سے حوام کو توقع تھی کہ وہ تحریکِ قبر کی حمایت کریں گے لیکن ان کے ساتھ ہی علی برادران بھی اس تحریک سے تعاون دکر سکے تاہم شاہ جی سے متعلق انہوں نے اپنے اخبار ”ہمدرد“ میں مندرجہ ذیل رائے کا اظہار کیا۔

”بھائی! میں تمہاری تقریر سے بہت خوش ہوا، مگر اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو رنج ہوا اس کا بھی ذکر کروں۔ تم نے سامعین کو بالکل مسحور کر دیا تھا اور اگر اس کے بعد تم ان سے کوئی غلط کام بھی کرنا چاہتے تو وہ تمہاری تقریر کے کیف سے اس قدر بے خود تھے کہ فوراً کر بیٹھتے۔ جو قدرت تم کو اپنی زبان پر ہے وہ خدا داد ہے اور خدا کی ایک بڑی نعمت ہے مگر ایک بڑی خطرناک نعمت ہے۔“

تمہاری مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے، جب تک تم اسے حق کی راہ میں استعمال کرو گے فلارج دارین حاصل کرو گے لیکن اگر کبھی یہ باطل کی راہیں استعمال کی گئی تو ہزاروں بندگانِ خدا کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوگی۔

میرا منصب نصیحت کرنے کا نہیں مگر تم سے جو محبت مجھے اور مجھ سے تم کو ہے اس کی بنا پر اس قدر کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ لوگوں کو مسخوڑنا اچھا نہیں سمجھتا رہی میں نہ مسخوڑوں کے لیے نہ مسخوڑوں کے لیے فلاح ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہر مسئلے کے دونوں پہلو سامعین کے سامنے پیش کر دو اور ان ہی سے اس مسئلہ کا حل اور فیصلہ کراؤ۔ اس طرح تم عوام کی قوت فیصلہ کو ترقی دے سکو گے ورنہ "کالانعام" مشہور ہیں۔ آج تم نے انہیں مسخوڑ کر دیا تو کل اسی پر برب زبانی اور ظرافت کے باعث ان پر کسی دوسرے کا جادو بھی چل سکے گا اور اس طرح حق و باطل کی تمیز تاقیامت نہ آئے گی۔ کبھی تمہارے ساتھ ہوگی اور کبھی تمہارے مخالفین کے۔ آج تمہیں تخت پر بٹھائیں گے اہل تمہیں اتار کر کسی دوسرے کو سریر آرا بنا دیں گے۔

شہسی اور سنگھن کے دوران اگر چہ قبوں کی تحریک بڑی خطرناک تھی، اس تحریک نے مسلمانوں کو آپس میں اُلجھا دیا تھا لیکن چند ماہ کی ہمت اور اتحاد ذہنی نے برطانیہ اور اس کی ایجنٹ طاقتوں کو شکست دے دی۔

**مرزاہیت کے خلاف فتویٰ** | غیر ملکی عدلیہ اقدار کو اپنی زندگی کے لیے جن افراد یا جماعتوں کا سہارا لینا پڑا ان میں آریہ سماج اور قادیانی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ۱۹۲۲ء سے ۱۹۲۵ء کے دوران ہندو مسلم کشیدگی نے متحدہ قومیت کا بوجھ بگاڑا۔ یورپین سیاست گروں نے اس بساط پر کس کس طرح ادھر کون کون سے مہرنے آگے بڑھائے گذشتہ اوراق ان واقعات کی گواہی دے رہے ہیں لیکن ہنوز اس مقدمے کا ایک اہم گواہ باقی ہے جس کے بغیر یہ روٹا دانا مکمل رہے گی اور شاہ جی کی جدوجہد میں ان کے اس کردار کی تعمیر بھی اِصوری سمجھی جائے گی۔

آریہ سماج جب شہسی کی تحریک میں سرگرم تھے اور مسلمان ان کا دفاع کر رہے



تھے اتنی دلوں مرزائیوں نے بعض ایسی کتب شائع کیں جن میں آریہ سماج کے بانی سوامی دیاوند کی زندگی پر ایک جملے کیے جس کے جواب میں آریہ سماج نے قادیانیوں کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بدعت متعقید بنایا۔ آریہ سماج اور قادیانیوں کی ان مقابلے کی عبارتوں نے طرفین میں جلتی پرتیل چھڑکا اور حالات بد سے بدتر ہو گئے۔

آخر ہندوستان کے علمائے حکومت سے آریہ سماج کی کتب کی ضبطی کا مطالبہ کیا تو ساتھ ہی مرزائیوں کی کتب کا از سر نو مطالعہ کر کے حسب ذیل فتویٰ دیا۔

”مرزا غلام احمد قادیانی نے علی الاعلان دعویٰ نبوت کیا اور دیگر انبیاء کرام کی توہین کی ہے۔ نیز بعض کو گایاں دیں اور بعض ایسے دعوے کیے کہ جن کی بنا پر وہ خود کافر ہو کر مراد اور اسی طرح اس کے ماننے والے بھی کافر اور مرتد ہیں۔ لہذا ان (مرزائیوں) سے ہر قسم کا قطع تعلق کیا جائے، خواہ وہ دنیوی ہو یا دینی۔“

مرقسر رسالہ ”الغیض“ ایڈیٹر مولانا محمد داؤد  
۱۹۲۵ء پسر مولانا نور احمد

اس پر شاہ جی کے علاوہ اڑھائی سو سے زائد علماء نے دستخط کیے، جن میں علمائے فرنگی محل، علمائے دیوبند، علماء سنیہ بریلوی قابل ذکر ہیں۔ ۱۹۲۰ء کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ شاہ جی نے مرزائیت کے خلاف اپنے دلی احساسات کلم کھلا جا کر کر کے مرزائیوں کو بھی اپنے دشمنوں کی صف میں شامل کر لیا۔

پنجاب کے پیروں سے ملکر | پنجاب کے بعض روحانی پیشواؤں کی گزشتہ تاریخ اس قدر میلی ہے کہ اس کے گندے چھینٹے مذہب

کی پٹک اور صاف چادر کو بھی داغدار کر گئے۔ بزرگان دین کے مزارات پر بیٹھ کر ان مسنون نے نہ صرف اسلام کی متعین راہوں کے درمیان گڑھے کھودے بلکہ دنیوی جاہ و شہرت کے لیے

اپنے درباروں کی رونق بھی کفر سے مستعاری۔ اپنے طرہ دستار کی جوانی ترکوں کے خون سے قائم رکھی۔ اس کے بیچ وحم میں عرب کے یتیم اور معصوم بچوں کی آہ و بکا زینت بنی۔ ان کی دعائیں اور تعویذ ہمیشہ کفر کے ساتھ رہے۔

مقاماتِ مقدّسہ کی بربادی، جزیرۃ العرب پر برطانیہ کا بالواسطہ قبضہ اور خلافتِ اسلامیہ کی تباہی کے بعد ۱۸۱۸ء میں جب انگریزوں کو فتح ہوئی اور وہ بغداد کی گلیوں اور قسطنطنیہ کے بازاروں میں محور قص تھا ان دنوں پنجاب کے پیرانِ عظام نے لاہور میں غیر سرکاری دبار کے مرنج پر جس میں پنجاب کے گورنر مسٹر ایڈوائزر اور ایڈمیٹڈ وائزر کو مہمانِ خصوصی کے طور پر شمولیت کی دعوت دی گئی تھی حسب ذیل سپانامہ گورنر اور ایڈمیٹڈ وائزر کو پیش کیا گیا۔

بمقامِ نواب بہ آرزو سرانیکل فرانسس ایڈوائزر جی۔ سی۔ آئی۔ اسی۔ کے۔  
**سپانامہ** سی۔ آئی۔ اسی۔ گورنر بہادر پنجاب۔

حضور والا! ہم خادمِ المنقرار سجادہ نشیناں و علماء و محققین شہ کائے حاضر الوقت مغربی حصہ پنجاب نہایت ادب و عجز و انکسار سے یہ ایڈریس لے کر خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوئے ہیں اور ہمیں یقین کامل ہے کہ حضور انور جن کی ذاتِ عالی صفات میں قدرت نے دل جوئی، ذرہ نوازی اور انصاف پسندی کوٹ کوٹ کھردی ہے ہم خاکسارانِ باوفا کے اظہارِ دل کو توجہ سے سماعت فرما کر ہمارے کلاہِ فخر کو چار چاند لگادیں گے۔

سب سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر حضور والا کو مبارک باد کہتے ہیں کہ جس عالمگیر اور خوفناک جنگ کا آغاز حضور کے عہدِ حکومت میں ہوا، اس نے حضور ہی کے زمانے میں بخیر و خوبی انجام پایا اور یہ بابرکت و باحتمت سلطنت جس پر پہلے بھی کبھی سورج غروب نہیں ہوا تھا اب آگے سے زیادہ روشن اور اعلیٰ عظمت کے

۱۔ مسٹر ایڈوائزر ہی جن کے حکم سے اپریل ۱۹۱۹ء میں جلیانوالہ باغ میں گولی چلائی گئی تھی۔

ساتھ جنگ سے فارغ ہوئی۔ جیسا کہ شہنشاہ معظم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے واقعی برطانوی تلوار اس وقت نیام میں داخل ہوئی جب دنیا کی آزادی امن و امان اور چھوٹی چھوٹی قوموں کی بہبودی مکمل طور پر حاصل ہو کر بالآخر چھائی کابل بالہ ہو گیا۔

حضور کا زمانہ ایک نہایت نازک زمانہ تھا اور پنجاب کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی عنان حکومت اس زمانہ میں حضور جیسے صاحب استقلال، بیدار مخزن حالی و داغ حاکم کے مضبوط ہاتھوں میں رہی جس نے نہ صرف، اندرونی امن ہی قائم رکھا، بلکہ حضور کی دانشمندانہ رہنمائی میں پنجاب نے اپنا ایثار و فاداری اور جانثاری کا وہ ثبوت دیا جس سے شمشیر سلطنت کا قابل فخر و عزت لقب پایا۔ بھرتی کامیاب صلیب احمدی کی اعجاز دست گیری، قیام امن کی عمدہ ہدایت کی ترقی سب حضور کی بدولت نہیں حاصل ہوئیں۔ حضور ہی ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع و ہر وقت پنجاب کی خدمات و حقوق پر زور دیا۔ صرف پنجاب والا کو ہی ہماری بہبودی مطلوب نہ تھی بلکہ صلیب احمدیوں کے نیک کام میں حضور کی ہمدردی و سہراز پنجاب ریڈی ایٹرز صاحب نے جن کو ہم مرآت کی زندہ تصویر سمجھتے ہیں، ہمارا ہاتھ بٹایا اور ہندوستانی مستورات پر احسان کر کے ثواب دارین حاصل کیا۔ ہماری ادب سے انتہاء کہ ہمارا ولی شکر یہ قبول فرمائیں۔

حضور انور! جس وقت ہم اپنی آزادیوں کی طرف خیال کرتے ہیں جو ہمیں سلطنت برطانیہ کی طفیل حاصل ہوئی ہیں، جب ہم ان دخانی جہازوں کو سطح سمندر پر اٹھکیں کرتے دیکھتے ہیں، جن کی طفیل ہمیں اس صلیب جنگ میں امن و امان حاصل رہا، جب ہم تار برقی کے کرشموں پر علی گڑھ و اسلام آباد کالج لاہور، پشاور جیلے اسلامی کالجوں اور دیگر قومی درسگاہوں پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر جب ہم

بے نظیر برطانوی انصاف کو دیکھتے ہیں، جس کی حکومت میں شیر اور بکری ایک  
 گھاٹے پر پانی پی رہے ہیں تو پھر ہر طرف احسان ہی احسان دکھائی دے رہے ہیں۔  
 بہشت آں جا کہ آزارے نہ باشد  
 کسے را با کسے کارے نہ باشد

باوجود فوجی قانون کے جو، خود قلمی پروازوں کی شرارت کا نتیجہ تھا۔ مسلمانوں کے  
 مذہبی احساس کا ہر طرح سے لحاظ رکھا گیا۔ شب بارات کے موقع پر انہیں خاص  
 رعایتیں دیں۔ رمضان مبارک کے واسطے حالانکہ اہل اسلام کی درخواست یہ  
 تھی کہ فوجی قانون ساڑھے گیارہ بجے شب سے دو بجے تک مسدود کیا جائے۔  
 لیکن حکام سرکار نے یہ وقت بارہ بجے سے دو بجے کر دیا۔ مسجد شاہی جو فی الاصل  
 قلعہ سے متعلق تھی، جو ابتدائی عمل داری سرکار ہی میں داخلہ ہوئی تھی، اب ایلیان  
 لاہور نے اس مقدس جگہ کو ناجائز سیاسی امور کے واسطے استعمال کیا۔ جس پر  
 منویان مسجد نے جو خود مفسدہ پردازوں کو روک نہیں سکتے تھے، سرکار سے مدد  
 چاہی۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار نے ایسا ناجائز استعمال بند کر دیا۔ ہم تہ دل سے مشکور  
 ہیں کہ حضور والا نے پھر اس کو واکزار کر دیا ہے۔

سرکار نے حج کے متعلق جو مہربانی کی ہے اس سے ہم نا آشنا نہیں اور  
 مشکور ہیں۔ ہم سچ عرض کرتے ہیں کہ جو برکات ہمیں اس سلطنت کی بدولت  
 حاصل ہوئیں اگر ہمیں عمر خضر بھی نصیب ہو تو بھی ہم ان احسانات کا شکر ادا نہیں  
 کر سکتے۔ ہندوستان کے لیے سلطنت برطانیہ ابر رحمت کی طرح نازل ہوئی اور  
 ہمارے ایک بزرگ نے جس نے پہلے زمانہ کی خانہ جنگیاں اور بد امنیاں اپنی  
 آنکھوں سے دیکھی تھیں اس سلطنت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے

ہوئیں بد نظریاں سب و در انگریزی عمل آیا  
 بجا آیا، یہ استحقاق آیا، بر محل آیا

ہم وہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے جب ترکوں نے ہمارے مشورے کے خلاف کوتاہ اندیشی سے دشمنوں کی رفاقت اختیار کی تو ہمارے شہنشاہ نے ازراہ کرم ہم کو یقین دلایا کہ ہمارے مقدس مقامات کی حرمت میں سرمؤفرق نہیں آئے گا۔ اس الطافِ خسروانہ نے ہماری وفایں نئی روح پھونک دی۔ کھلی جُڑاؤ الاحسانِ اِلَا احسان (احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں ہے)

ہم ان احسانوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اب اس جنگ کے خاتمے پر صلح کانفرنس سلطنتِ ترکیہ کی نسبت جلد فیصلہ ہونے والا ہے۔ ممکن ہے فیصلہ مسلمانوں کی امیدوں کے برخلاف ہو لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس فیصلہ میں سرکارِ برطانیہ کیبھی مختار کار نہیں ہے بلکہ بہت سی طاقتوں کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ شہنشاہِ معظم کے دوزار جو کوششیں ترکی کے حق میں کرتے رہے ہم اس کے واسطے سے ان کے بہر حال مشکور ہیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ یہ جنگ مذہبی اغراض پر مبنی نہ تھی اور اپنے اپنے عمل کا اور اس کے تلخ کا ہر ایک ذمہ دار ہے۔

رموزِ مملکتِ خورشید خسرواں دانند

گدائے گوشہ نشینی تو حافظاً مخروش

مگر یہیں پوری توقع ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس بات کا خیال رکھے گی کہ مقاماتِ متحدہ سرکارِ اندلسی نظم و نسق مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہے اور ہم حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ جب حضورِ وطن کو تشریف لے جائیں تو اس نامور تاجدارِ ہندوستان کو یقین دلائیں کہ چاہے کیسا ہی انقلاب کیوں نہ ہو ہماری وفاداری میں سرمؤفرق نہ آیا ہے اور نہ آسکتا ہے۔ اور یہ یقین ہے کہ ہم اور ہمارے پیروان اور میدانِ فوجی وغیرہ جن پر سرکارِ برطانیہ کے بے شمار احسانات ہیں ہمیشہ سرکار کے حلقہِ بگوش اور جاں نثار رہیں گے۔

ہیں نہایت رنج و افسوس ہے کہ نا تجربہ کار نوجوان امیر امان اللہ خاں والی کابل نے کسی غلط مشورے سے عہد ناموں کے اور اپنے باپ دادا کے طرز عمل کی

خلافت دوزمی کر کے خداوند تعالیٰ کے صریح حکم

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْئُولًا  
یعنی وعدے کا ایفا کرو۔ ضرور  
وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔

کی نافرمانی کی۔ ہم جناب دالا کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم امیر امان اللہ کے اس طرز  
عمل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

ہم اہالیان پنجاب احمد شاہ کے حملوں اور نادر شاہی قتل و غارت گری کو  
نہیں بھول سکتے۔ ہم اس غلط اعلان کی جس میں اس نے سر امر خلافت واقعہ  
لکھا ہے کہ اس سلطنت کی مذہبی آزادی میں خدا نخواستہ رکاوٹ واقعہ ہوئی تریہ  
کرتے ہیں۔ امیر امان اللہ خاں کا خاندان سرکار انگلشیہ کی بدولت بنا اور اس کی  
احسان فراموشی کفرانِ نعمت سے کم نہیں۔

ہم کو ان کوتاہ اندیش دشمنان ملک پر بھی سخت افسوس ہے جن کی  
سازش سے تمام ملک میں بد امنی پھیل گئی اور جنہوں نے اپنی حرکات ناشائستہ  
سے پنجاب کے نیک نام پر دھبہ لگایا۔ مقابلہ آخر مقابلہ ہی ہے اور کبھی خوش  
نہیں رہ سکتا۔ یہ حضور والا ہی کا زبردست ہاتھ تھا جس نے بے چینی و بد امنی  
کا اپنے حُسن تدبیر سے فی الفور قلع قمع کر دیا۔ ان بد سنجتوں سے ازار و بد سنجتی  
فناش غلطیاں سرزد ہوئیں لیکن حضور ابر رحمت ہیں اور ابر رحمت زریخ ز اور شو  
زمین دونوں پر یکساں برستا ہے۔ ہم حضور کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان گمراہ  
لوگوں کی مجنونانہ و جاہلانہ حرکات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے  
قرآن کریم میں یہی تلقین کی گئی ہے۔ لَا تَهْتَدُوا فِي الْأَمْثَلِ۔ یعنی دنیا میں فساد

اور بلامنی مت پیدا کر دو اور اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ۔ یعنی بے شک خدا  
فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔

حضورِ نورا اگرچہ آپ کی مفارقت کا ہمیں کمال رنج ہے۔

سرخم سے کچھے کیوں نہ سردار ہمارا

لو ہم سے چھٹا جاتا ہے سردار ہمارا

لیکن ساتھ ہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور کے جانشین سرائیڈورڈ میکلیگن

بالقائہم جن کے نام نامی۔ سے پنجاب کا بچہ کچھ واقف ہے، جن کا حسن اخلاق

رہنا نوازی میں شہرہ آفاق ہے۔ جو ہمارے لیے حضور کے پورے نعم البدل

ہیں۔ ہم ان کا دلی نیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں یقین دلاتے ہیں کہ

ہم مثل سابق اپنی عقیدت و وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں گے۔

حضور اب وطن کو تشریف لے جانے والے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں

جناب باری میں دعا کرتے ہیں کہ حضور مع لیڈی صاحبہ و جمیع متعلقین مع الخیر

اپنے پیارے وطن پہنچیں، تا دیر سلامت رہیں اور وہاں جا کر ہم کو دل سے نہ

اتار دیں۔ ۷۷ ایں دعا از ما و از جملہ جاں آمین باد

### المستدعیان

مخدوم حسن بخش قریشی، مخدوم غلام قاسم سجاد نشین خانقاہ، مخدوم شیخ محمد، نواب حسن،

مخدوم سید حسن علی، سید ریاض الدین شاہ، پیر غلام عباس شاہ، دیوان سید محمد پاکپٹن، خان بہادر مخدوم

حسن بخش آف ملتان، مخدوم صدر الدین شاہ آف ملتان، میاں نور احمد سجاد نشین، پیر محمد رشید،

شیخ شباب الدین، خان بہادر شیخ احمد، سید محمد حسین شاہ شیرگڑھ ضلع منگلپور، مخدوم شیخ محمد راجو

آف ملتان، دیوان محمد غوث، محمد علی شاہ جلالپور، پیر محمد خضر حیات شاہ، صاحبزادہ محمد سعد اللہ

آف سیال شریف، سید غلام محی الدین خلیف الرشید سید محمد علی شاہ آف گولڑہ شریف، سید قطب علی

شاہ آف ملتان، پیر چراغ علی آف ملتان، پیر ناصر الدین شاہ آف شاہ پور، پیر غلام احمد شاہ آف شاہ پور، محمد غلام قاسم سجاده نشین، سید نواز شمس الدین شاہ آف شیر گڑھ ضلع منگھری، مولوی غلام محمد خادم گورہ شریف، سید فدا حسین ضلع کیمبل پور، محمد اکبر شاہ آف شیر شاہ ملتان، غلام قاسم شاہ آف شیر شاہ ملتان، مولوی سید زین العابدین شاہ آف ملتان، پیر چراغ شاہ کوٹ سدھانہ جنگ محبوب عالم خادم گورہ شریف، منشی حیات محمد گورہ شریف، برہان الدین خادم گورہ شریف۔ ۱۹۲۶ء میں جب پنجاب خلافت کمیٹی نے ڈاکٹر محمد عالم کو اپنے ملک پر پنجاب اسمبلی کے لیے ملتان کے حلقے سے نامزد کیا تو اس سلسلہ میں شاہ جی کو پہلی دفعہ ملتان جانے کا موقع ملا۔ اہالیان شہر نے مندرجہ بالا پانچ نامہ شاہ جی کو دکھایا، جسے پڑھ کر شاہ جی کو بے حد صدمہ ہوا۔ دین کی روحانی اصلاح کرنے والے کافر حکومت کے سامنے سجدہ ریز نہیں۔ چنانچہ باغ لینگے تارکے مسلسل تین دن اسی پانسائے کے ساتھ ساتھ پیران عظام سے کہا۔

”اے پیران طریقت! یہ پانسائے فرنگی کے حضور پیش کر کے آپ نے اپنے آباؤ اجداد کی تعلیم، ان کے اصول، ان کی روحانی زندگی پر وہ کالک مل دی ہے کہ قیامت تک یہ داغ نہیں دھویا جاسکتا اور نہ یہ سیاہی مٹ سکتی ہے۔ اگر میں ابن سعود کی حمایت کروں تو کافر ادرتم ترکوں کے قتل پر دستخط کرو تو مومن، تم فتح بغداد پر چراغاں کرو تو مسلمان اور میں فرنگی سے آزادی کے لیے لڑوں تو مجرم۔ تمہارے تھوڑے تمہاری دعائیں کافر کی فتح کی آرزو مند رہیں اور میں سلطنتِ بھارت کی بنیاد اکھاڑنے کے درپے رہا۔ تم نے انسانوں سے زیادہ کتے اور سوروں کی قدر کی اور گناہ کو ثواب کا درجہ دیا تمہاری تمہاری خونِ مسلم سے داغدار ہیں۔“

اے دم بریدہ مسلمانِ بھارت! حضورِ اسرائیل کا انتظار کرو کہ تمہاری فردِ مجرم تمہارے سامنے لائی جائے اور تم اپنے نامہ اعمال کو ندامت کے



آئینے میں دیکھ سکو۔

تمہاری تسلیح کا ایک ایک دانہ تمہارے فریب کا آئینہ دار ہے۔ تمہاری دستار کے پیچ و خم میں ہزاروں پاپ جہنم بپتے ہیں اور تم انہیں دیکھتے ہو مگر تمہاری زبانیں گنگ ہیں کہ ان کی موت پر آنسو تک نہیں بہتے۔ وقت کا انتظار کرو کہ شاید تمہاری پیشانیوں کے محراب کی سیاہی تمہارے چہروں کو مسخ کر دے اور تمہارا زہد و تقویٰ ہی تمہاری روانی کا باعث بن جائے۔

پھر شاہ جی نے لنگے خاں کے باغ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

”اس باغ کے گل بوٹے گواہ رہیں کہ میں نے تین دن کی مسلسل تقریروں سے باغبان قوم و وطن کے فریب سے بنی نوع انسان کو آگاہ کر دیا ہے۔ باغ کی روشیں میری گفتگو کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیں، شاید قیامت کے دن میں اپنی نجات کے لیے ان سے طلب کروں۔

اسے بادبھاری کے خوشگوار جھونکو! شہادت دینا کہ میں نے اہل مٹان کے سامنے سچی و باطل کے درمیان دیوار کی نشاندہی کر دی ہے۔

ڈاکٹر محمد عالم و دوڑوں کی کافی اکثریت سے پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔

ان تقریروں سے شاہ جی نے مٹان میں اپنا ایک حلقہ پیدا کیا اور دوستوں کی خاصی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف پنجاب کے پیروں نے لڑائی کی نینوا ٹھائی۔ حالانکہ اس پیمانے کے نیچے شاہ جی کے روحانی پیشوا حضرت پیر مرعلی شاہ صاحب کے صاحبزادہ کے دستخط تھے لیکن برطانوی استعمار سے نفرت کے باعث شاہ جی نے اپنی عقیدت کی یہ رسم بھی توڑ دی۔

زمانہ اپنے ساتھ نہ چلنے والوں سے ہمیشہ دور رہا اور خرابھی۔ پہاڑوں کی بلندیاں اور مندر کی گرائیاں اپنے دفاق سے ان لوگوں کی منزل روکتی رہیں، جنہوں نے وقت اور زمانے

سے بے پروائی برتی۔

جلال پادشاہی سے تو بے رحم تھا ہی مگر خلوص فقیر سچی بے اعتنا رہا۔ جنوں شوق میں جب دیوانے بادہ پیمائی کو نکلے تو باد سحر گاہی بادِ سموم سے ہم آہنگ ہوئی کہ ریت کے ذرات دیوانوں کی پیشوائی نہ کر سکے۔ لیکن جن کے سامنے منزل ہوتی ہے وہ ابلہ پائی کے نشانوں پر سفر کرتے ہیں۔ انہیں نہ زمانہ روک سکتا ہے، نہ وقت کا کوئی فیصلہ ان سے متصادم ہوتا ہے۔

شاہ جی جب گھر سے چلے متھے ذکا لیں ان کے پاؤں تلے متھے نہ سونے کا چھتر سر پر تھا۔ درویش جب تاج شاہی سے ٹکراتا ہے تو قبائوں کے بیوند ہی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔

۱۹۲۶ء کا سال شاہ جی کی زندگی میں مصروف ترین سال تھا۔ انگریز، ہندو، مرزائی اور پنجاب کے پیراس آزاد منش انسان سے اپنے اپنے انتقام کے لیے وقت سے ہم آہنگ رہے لیکن فطرت اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی کہ وہ طوفان اور آندھیوں کے درمیان چراغِ مصطفویٰ کو پھیلی پر روشن کیے چلا جا رہا تھا۔

محلہ داروں کا کتنا ہے کہ اندرون خانہ شاہ جی کے حالات اس قدر ناگفتہ بہ تھے کہ ذرا کے بعد محلہ داروں کو معلوم ہوتا تھا کہ کئی دنوں سے چولہے میں آگ نہیں چلی لیکن کبھی حرم سے آواز نہیں نکلی، نہ دست سوال دراز ہوا۔ صبر و استقلال سے گھر کے احوال نے پیغمبروں کے گھرانوں کی یاد تازہ کر دی۔

تحریک شاتم رسولؐ | خلائی کا ہر سال جدوجہد آزادی کے لیے مصائب و آلام کے کوہِ گراں لے کر آیا۔ ان دنوں ہر صبح کا طلوع ہونے والا آفتاب۔

اپنی کڑوں میں مچان وطن کے لیے ایسے فیصلے لے کر طلوع ہوتا کہ جن میں داورسن کے فیصلے چلی طور پر رقم ہوتے۔

لیکن ۱۹۲۶ء کا سورج عجب انداز سے ابھرا کہ غیر ملکی استعمار اگر ایک طرف آتیشیں  
اسلو سے لیس تھا تو دوسری طرف سیاسی بساط کے قرعے اس رخ پر چلائے کہ ان کی ہر  
چال شہ کومات دیتی ہوئی چلی گئی۔

سائنس کیشن میں ہندوستان کی عدم شمولیت، لارڈ برکن ہڈ کا چیلنج اور ہندوستانی رہنماؤں  
کے فیصلے ہنوز مقصود تھے کہ آریہ سماج اور مرزائیوں کی چیلپش نے ہندوستان میں تحریک  
شاتم رسول کو جنم دیا۔

۱۸۷۵ء میں پنڈت دیانند کی کتاب "ستیا رتھ پرکاش" پہلی بار بنارس میں شائع ہوئی  
تادیانی مذہب کے بانی مرزا غلام احمد نے "ستیا رتھ پرکاش" کے شائع ہوتے ہی کتاب ہذا  
کے مصنف اذرعوسرے رہنماؤں کو چیلنج کیا کہ "جو کتاب میں (مرزا غلام احمد) مستقبل قریب  
میں لکھنے والا ہوں اگر ہندو اور سوامی دیانند مجھے اس کا جواب دیں تو میں انہیں دس ہزار  
روپیہ انعام دوں گا۔" اس کے بعد مرزا غلام احمد کی کتاب "براہین احمدیہ" کا سلسلہ شائع ہوا  
شروع ہوا جس میں ہندو دھرم اویڈ، آریہ سماج، پنڈت دیانند پر اعتراضات و الزامات تراشے گئے۔

اکتوبر ۱۸۸۳ء میں پنڈت دیانند کی موت واقع ہوئی اور ۱۸۸۴ء میں "براہین احمدیہ"  
کی چوتھی جلد شائع ہوئی۔ اس میں پنڈت دیانند کی موت پر اس کے خلاف زور قلم کا  
مظاہرہ دیکھا گیا۔ آخر اسی سال ستیا رتھ پرکاش کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو اضافی طور پر  
جن دو ابواب کو شامل اشاعت کیا، ان میں داعی اسلام حضور خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم  
کی ذات گرامی پر براہ راست حملے کیے گئے تھے، جنہیں مسلمان برداشت نہ کر سکا اور  
کتاب ہذا کے خلاف ہندوستان بھر میں احتجاجی مظاہرے اور جلسے ہوئے نیز حکومت  
سے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کیا گیا۔

انہی دنوں قاسم علی (مرزائی) کی کتاب "انیسویں صدی کا ہمارا شی دیانند" شائع ہوئی  
جس میں پنڈت دیانند کو ہدف تنقید بنایا گیا تھا۔ اس کتاب کے بازار میں آتے ہی ہندو

مسلمان پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے اکھڑے ہوئے۔ قاسم علی (مرزائی) کے جواب میں آریہ سماجی لیڈر پنڈت چمپادتی ایم، اے پروفیسر ڈی، اے اے دی کالج لاہور نے (نحوذ باللہ) ”زنگیلار رسول“ ایسی رسوائے عالم کتاب لکھی۔

یہ سارا تماشا ان دنوں ہوا جب لارڈ برکن ہیڈ وزیر ہند کا چیلنج قبول کرتے ہوئے رہنمایان ہند نے سائنس کمیشن کے بائیکاٹ نیز باہم مل بیٹھنے کی تجویزیں پاس کی تھیں۔ ان واقعات کے یہاں پہنچنے تک، ۱۹۲۷ء کا سال اپنے سفر کی ایک تنہائی منزل طے کر چکا تھا۔ لیکن آریہ سماجی اور مرزائیوں کی باہم تلخ نوائی نیز ان کی تحریری جنگ نے ہندوستان کے سنبھلتے ہوئے حالات کو از سر نو پیش دیا۔ گوشدھی دستگشن کی بادِ سموم کے باعث صحنِ چین کی ہر روش اپنی نگاہوں کے ڈورے سرخ کیے بیٹھی تھی۔ تاہم احساس ہوا تھا کہ شبنم کے آنسو اور بادِ صبح گاہی کے معانقے سے فضاؤں میں انقلاب رونما ہو گا اور صیاد کے ظلم و جور کی بھلیوں سے جلتے ہوئے آشیانوں کو پھر سے تنگے جمع کرنے کا موقع ملے گا۔ مگر کبھرے ہوئے زہر نے دریا کے ہر قطرے کو سموم کر دیا۔

شاتمِ رسول واجبِ قتل ہے | اس سمومِ فضا میں امرِ تکر کے ایک ہندی رسالہ

دورت مان، نے بھی خاتم الانبیاء علیہ السلام کی ذاتِ گرامی پر کچھ پڑا چھالا جسے راجِ اوقتِ قانون نے چوہا کی سزا دی۔ لیکن کتاب ”زنگیلار رسول“ (نحوذ باللہ) نے حالات کو بد سے بدتر کر دیا۔ علمائے دین کی توجہ جب کتاب ہذا کی طرف ہوئی تو جمیعہ العلماء نے ہند نے شاتمِ رسول کو واجبِ اقتل قرار دیا۔ اس فتویٰ کے شائع ہوتے ہی عبد العزیز نامی شخص نے کتاب ہذا کے نمبر نمبرہ راجپال پڑ جس نے کہ مصنف کی ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی، لاہور میں قاتلانہ حملہ کیا، جس سے راج پال زخمی ہوا اور حملہ آور کو چودہ سال کی سزا ہوئی۔

اس کے بعد خدا بخش نامی (المعروف اکوتجیا) نے حملہ کیا، مگر یہ وار بھی جان لیوا

بت نہ ہوا۔ خدا بخش کو چھ سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔

ہندوستان کے مسلمانوں نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ راج پال کو گرفتار کر کے اس پر مذہب چلایا جائے۔ آخر مسلسل قاتلانہ حملوں اور مسلمانوں کے اضطراب کے رد عمل پر حکومت نے ۱۷ مارچ راج پال کو گرفتار کر لیا۔ عدالت نے تین سال قید اور جرمانے کی سزا دی لیکن سیشن جج نے جرم ثابت کر دیا اور سزا سزا بجالا رکھی۔ ہائی کورٹ میں اپیل پر جسٹس کنور ولیم سنگھ (عیسائی) نے ۱۷ مارچ پال کو بری کر دیا۔ اس فیصلے پر لاہور کے انگریزی روزنامہ "مسلم آڈٹ ملک" نے تبصرہ کیا تو اسے تو بین عدالت پر سزا ہوئی۔ جسٹس کنور ولیم سنگھ کے اس رویہ پر عوام کا احتجاج اس قدر عام ہوا کہ حکومت کو عدالت عالیہ کی پوزیشن محفوظ کرنا مشکل ہو گئی۔

### شاہ جی کا موقف

۲۴ اور ۲۵ جولائی ۱۹۲۷ء کی درمیانی رات کو مسلمان لاہور کی طرف سے دہلی دروازہ کے باغ میں ایک جلسے کا اعلان کیا گیا، جس میں شاہ جی، مولانا احمد سعید، مولانا مفتی کفایت اللہ، چودھری افضل حق، خواجہ عبدالرحمن غازی نے تقریریں کرنی تھیں۔ لیکن اسی روز لاہور کے ڈپٹی کمشنر مسٹر اوگلوئی نے دفعہ ۱۴۳ لگا کر جلسے کو ممنوع قرار دے دیا۔ مگر شاہ جی کی تجویز پر جلسہ میاں عبدالرحیم کے احاطہ میں منعقد کیا گیا۔ یہ احاطہ موجودہ مزار حضرت شاہ محمد غوثؒ بیرون دہلی دروازہ کے بالمقابل واقع ہے، اس وسیع احاطہ میں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور جلسے کی صدارت چودھری افضل حق نے کی۔ فوج اور پولیس کے علاوہ مسٹر اوگلوئی ذاتی طور پر بھی احاطہ کے باہر موجود تھے اور اندر آکر اعلان کیا کہ۔

"دفعہ ۱۴۳ کے باعث یہ مجمع خلاف قانون ہے۔ آپ لوگ پانچ منٹ کے اندر یہاں سے چلے جائیں ورنہ مجھے گولی چلانے کا حکم دینا پڑے گا"

ڈپٹی کمشنر کے اس اعلان پر خواجہ عبدالرحمن غازی نے ڈپٹی کمشنر کو انگریزی میں کہا:

"ہم اس قانون کو اپنے پاؤں تلے روندتے ہیں، جو قانون ہمیں ناموس پیغمبر کی حفاظت کی ضمانت نہیں دیتا۔ تم جو چاہو کرو ہم یہ جلسہ کریں گے"

اس کے بعد شاہ جی لے تقریر کرتے ہوئے کہا۔

”آج ہم سب فخرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بنی نوع انسان کو عزت بخشے والے کی عزت خطرے میں ہے۔ آج اس جلیل القدر ہستی کا ناموس معرضِ خطر میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔“

آج مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا احمد سعید صاحب کے دروازے پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آئیں اور فرمایا کہ ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھو تو! ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دروازے پر تو کھڑی نہیں؟

یہ سن کر حاضرین میں کھرج گیا اور مسلمان ٹھہرائیں مار مار کر رونے لگے۔ شاہ جی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا:-

”تمہاری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج بزرگنبد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں اور خدیجہ اور عائشہ پر لیشان ہیں۔ بتاؤ! تمہارے دلوں میں اہمات المؤمنین کی کیا وقعت ہے؟ آج ام المؤمنین عائشہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وہی جنہیں رسول اللہ حمیرا کہہ کر لپکارتے تھے۔ جنہوں نے سیدہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحلت کے وقت مسواک چبا کر دی تھی۔“

اگر تم خدیجہ اور عائشہ کی ناموس کی خاطر جانیں دے دو تو کچھ کم فخر کی بات نہیں۔ یاد رکھو! یہ موت آئے گی، تو پیامِ حیات لے کر آئے گی۔“

یہ تقریر اس قدر موثر اور جذباتی تھی کہ تمام مجمع میں حشر پاتا تھا۔ شاہ صاحب کی تحریک پر لوگوں کے جتنے باغ میں جلسہ لگے جاتے اور گرفتار ہو جاتے۔ ان پر لاطھی چارج بھی کیا جاتا۔ یہ سلسلہ متوڑی دیر جاری رہا۔ بعد ازاں شاہ جی نے عوام کو اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی اپیل کی اور کہا،

”ہمارا موقع قتل و غارت گری نہیں۔ بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ برطانوی حکومت تعزیرات ہند میں ایک ایسی دفعہ کا اضافہ کرے جس کی رو سے بائیانِ مذہب کے خلاف تقریر و تحریر کی پابندی ہو اور اس کی خلاف ورزی کرنے والا مجرم قرار پائے“

اس قرار داد کے بعد جلسہ برخواست کر دیا گیا لیکن عوام کو پر امن طور پر احاطہ سے باہر نکلانے کے لیے شاہ جی خود دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ان کے سامنے مسٹر اوگلوئی کھڑا تھا۔ شاہ جی اپنے مخصوص انداز میں لوگوں کو پر امن رہنے کی تلقین کر رہے تھے اور ساتھ ہی مسٹر اوگلوئی سے پنجابی میں کہا،

”اوگلوئی! اوکھے گھر نمونہ پایا ای! اوگلوئی! تم نے مشکل گھرانے سے ٹکری ہے“

ڈپٹی کمشنر لاہور نے قانون کی آڑ میں اپنی ٹسکت کا انتقام لیتے ہوئے ۱۱۔ جولائی ۱۹۲۷ء اڑھائی بجے بعد دوپہر شاہ جی اور خواجہ عبدالرحمان غلامی کو دفتر پنجاب خلافت کمیٹی مجازی بلڈنگ بیرون دہلی دروازہ سے زیر دنگ ۱۰، گرفتار کر لیا۔ گرفتاری سے پیشتر شاہ جی دہلی، لاہور، امرتسر اور لدھیانہ کے اضلاع میں تقریریں کر کے پنجاب کے مسلمانوں کو توہینِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقام پر آمادہ کر چکے تھے۔

دفعہ ۱۰۷ کے تحت قانون کا منشا ادھو لڈیکھ کر شاہ جی پر دفعہ ۱۰۸ کے تحت بھی مقدمہ

چلا یا گیا۔ انہیں حکم ہوا کہ تین ہزار کی ضمانت اور تین ہزار کا چھلکہ دے کر دورانِ مقدمہ رہا ہو سکتے ہیں۔ لیکن شاہ جی نے نہ صرف فرنگی قانون کی یہ رعایت ٹھکرا دی بلکہ عدالت میں اپنا

بیان اور مقدمہ میں صفائی دینے سے بھی انکار کر دیا۔ سماعت مقدمہ تک شاہ جی اور خواجہ عبدالرحمن غازی لاہور بورڈسٹل جیل میں رہے۔ مسلسل چار روز کی ایک طرفہ کارروائی کے بعد شاہ جی اور خواجہ عبدالرحمن غازی کو ایک ایک سال کی قید با مشقت کی سزا دے کر شاہ جی کوڑتیک جیل منتقل کر دیا گیا۔

مولانا ظفر علیخان کی ایک نظم کا شعر انہی دنوں کی یادگار ہے۔

بنو غازی کی غیرت لاج رکھ لی جس نے ملت کی

عطا اللہ کا ہیبت رُبا ایمان ہو جاؤ

شاہ جی کی گرفتاری اور سزا کے بعد فرنگی اور ہندو کے خلاف سوامی شردھانند کا قتل

نفرت کو مزید ہوا ملی اور یہ تحریک سارے ہندوستان میں پھیل گئی۔ ان دنوں مسلمانان ہند کے حسب ذیل مطالبات تھے۔

۱۔ حکومت برطانیہ ایک ایسا قانون وضع کرے۔ جس سے بائیان مذاہب کی عزت

محفوظ ہو۔

۲۔ جٹس کنور دلپ سنگھ کو اس کی ذمہ داریوں سے فوراً علیحدہ کر دیا جائے۔

۳۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو جیلوں سے رہا

کیا جائے۔

اس ہنگامی تحریک کے نتیجے میں والئی انخاستان غازی امیران اللہ خان نے

حکومت برطانیہ کو حسب ذیل مفہوم کا ایک خط لکھا۔

”اگر برطانوی ہند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں رہ

سکتی تو ہمیں برطانیہ کے ساتھ کیسے گئے معاہدوں پر از سر نو غور کرنا پڑے گا“

مولانا حبیب الرحمن لادھیانوی کو بھی انہی دنوں گرفتار کیا گیا۔

شدھی سنگھٹن کے برگ دبار پھرا بھر کر سامنے آئے۔ سوامی شردھانند نے اپنے



روزنامہ "تیج" دہلی میں یہ جذباتی نعرہ لگایا کہ میں عنقریب دہلی جامعہ مسجد کے منبر پر شہادی کا جھنڈا لہراؤں گا۔ اس اعلان پر مسلمانوں میں اضطراب بڑھا۔ آئزولوی عبدالرشید نے جو جامعہ مسجد کی بیڑھیوں پر پرانی کتب فروخت کیا کرتا تھا، سوامی شردھانند کو قتل کر دیا اور اسی جرم میں اسے ۱۴۔ نومبر ۱۹۲۷ء کو دہلی جیل میں پھانسی پر لٹکایا گیا۔

الغرض ان واقعات نے ہندوستان کو ایسی ڈگر پر ڈال دیا کہ خانہ معیلاں بھی خون انسانی سے لادو گل کو رنگت بنتے رہے اور اس راہ کی ہر شے نے خاتم الانبیاء کے ناموس کی حفاظت کی۔

تجزیرات ہند میں ترمیم | غیر ملکی نظام حکومت خلام رہایا کو باہم دست و گریبان دیکھ چکا، آدمی کے ہوسے آدمیت کی ذلت چھکنے لگی۔ دلوں کے انکار سے بدبو دینے لگے، تو شاطران فرنگ نے محکوم رہایا پر دست کر م کیا کہ تجزیات ہند میں ترمیم کر کے دفعہ ۱۹۵ کا اضافہ کیا جس کی رد سے ہر ایسی تحریر و تقریر قانوناً جرم قرار دے دی گئی، جس سے کسی مذہب کے بزرگ یا بانی (REFORMER) کی اہانت کا پہلو نکلتا ہو۔ لیکن پہلے کی متنازعہ فیہ کتب کو ممنوع قرار نہ دیا۔

تہرور پورٹ | ۱۲۔ فروری ۱۹۲۸ء کو لاڈ بکن ہیڈ اور سائن کمیشن کے جواب میں ہندوستانی رہنما دہلی میں صحیح ہوئے۔ پنجاب کی نمائندگی چودھری افضل حق، مولانا داؤد غزنوی اور مولانا ظفر علی خاں نے کی۔ اس اجتماع میں سر علی امام، مسٹر شعیب قریشی، مسٹر اینے، مسٹر جیک، سردار منگل سنگھ، سرتیج بہادر سپروہر مشتمل ایک کمیٹی ترتیب دی گئی جس کے صدر پنڈت موتی لال نہرو مقرر ہوئے۔ اس کمیٹی کی رپورٹ آگے چل کر نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔

اگرچہ سائن کمیشن کی آمد پر مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد سے ہندوستانی رہنماؤں کی مساعی جمید نے بڑے ہوتے ماحول کو سنوارنے کی شب و روز سعی کی لیکن فضائیں تنہی بدستور

زہر گھول رہی تھی۔ انہی دنوں مئی ۱۹۲۸ء میں شاہ جی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور غازی عبدالرحمن امرتسری ایک ایک سال میعاداً سیرمی گزار کر رہا ہوئے۔ ان کی آمد پر امرتسر شہر کو دہن کی طرح سجایا گیا۔ مسلمانوں کے دلوں کے آئینوں میں شوق و محبت کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ستقف و بام پر خوشی کے آنسوؤں کی جھاریں ٹکا دیں۔ کوچہ و بازار محبوب رہنماؤں کی آمد پر مسکراہٹ کے موتی بکھرنے لگے۔ گھروں میں عید اور دکانوں پر میلے لگ گئے۔ اس استقبال کی تیاریوں کی اطلاع نہ جانے کس طرح شاہ جی کو ملی کہ وہ اچانک یوں غائب ہوئے کہ ان کے ساتھی بھی انہیں تلاش نہ کر سکے۔ شاہ جی رات کے اندھیرے میں چھپ کر گھر پہنچ گئے۔

امرتسر ریلوے اسٹیشن پر استقبال کرنے والے ہجوم کو شاہ جی کی یہ بے اغنائی پسند نہ آئی۔ وہ ایوس بھی ہوئے اور ناراض بھی۔ اس کے باوجود مولانا حبیب الرحمن اور غازی عبدالرحمن کا جلوس اپنے وقار سے نکلا۔ ناموس رسالت کے محافظ جن راستوں سے گورنر سے لگا ہیں فرش راہ اور دلوں نے حقیقت کے پھول برسائے۔

شاہ جی کی جلوس سے غیر متوقع غیر حاضری نے ان کے حلقہ احباب پر بھی اثر کیا۔ چنانچہ عام دوستوں نے باہم فیصلہ کیا کہ شاہ جی سے تعلقات منقطع کر لیے جائیں۔ اس فیصلے کے تحت احباب نے رخ پھیر لیا۔ شاہ جی جن دوست کے مکان پر جاتے وہ خدمت تو کرتے اور بھگت بھی کرتے لیکن خاموشی سے۔ چاہے گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہیں۔ سارے گھر میں اور سارے حلقہ احباب میں بھی بے رنجی اور بے نیازی کا عالم رہا۔ بازار سے گزرتے تو السلام علیکم کا جواب نہ ملتا۔ گھر سے نکل کر محلے میں آتے تو بچوں اور بوڑھوں تک میں مقاطعہ کر فضا پاتے۔

اسی طرح پندرہ دن گزر گئے۔ لیکر، ہوں پر مر خاموشی بدستور رہی۔ گو یہ غصہ، ہارٹکی، بے نیازی، بے رنجی احباب کی ایک کا نتیجہ تھی لیکن شاہ جی ایسے باخ و بہار آدمی کے جیسے وہاں جان بن گئی اور وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ مرنے مارنے پر آئے۔ جن

دوستوں سے زیادہ قربت تھی، وہاں زیادہ رنج ظاہر کرتے۔ آخر دوستوں نے بھی اتنی ہی سزا کافی سمجھ کر کٹڑہہ مہاسنگھ کے میونسپل کشر میاں محمد شریف ٹھیکیدار کے گھر دعوت کا انتظام کیا اور اس مجلس میں شاہ جی نے جلوس سے غیر حاضری کے لیے حلقہ اجاب سے معذرت چاہی۔ یہ رنگین محفل جس میں اردو اور پنجابی کے شعرا ابدلہ منج حضرات شامل تھے، رات دو بجے تک جاری رہی۔

حیدر مہلوآن کا مقدمہ | باوجودیکہ نہرو رپورٹ کے ذریعے حسب ذیل فرقہ وارانہ فیصلے ہوئے۔

- ۱۔ جداگانہ انتخاب کو ہندوستان سے ختم کر دیا جائے۔
- ۲۔ مخلوط انتخاب کے ساتھ نشستوں کا تعین غیر مفید قرار دیا جائے۔
- ۳۔ پنجاب اور بنگال میں انتخاب کھلا رکھا جائے۔ نیز کسی فرقہ کے لیے نشستیں مخصوص نہ کی جائیں۔

۴۔ مرکز میں مسلمانوں کو ایک تہائی نمائندگی دینے سے انکار کر دیا گیا۔ البتہ اس تناسب پر فیصلہ ہوا جو صوبہ جاتی نشستوں کے فیصلے کی رو سے مرکز میں مسلمانوں کو حاصل ہو سکیں گی۔ لیکن ہندو مسلم کشیدگی برابر بڑھتی رہی اور سائنس کمیشن اپنا کام کرتا رہا۔ یہ دور قانونی موٹو کابیوں کا دور تھا۔ شاہ جی ان دنوں کچھ دیر کے لیے خانگی معاملات کی دیکھ بھال میں مصروف رہے۔

متحدہ ہندوستان میں مسلمان قومی کارکنوں کی زندگی ہمیشہ ایک المیہ رہی ہے، بشرطیکہ وہ کارکن ہوں سو داگر نہ ہوں۔ گو پروان وہی لوگ پڑھے جنہوں نے دماغ اور ضمیر کا سودا کیا اور وقت نے بھی انہی کو حقیقت جاننا۔ حالانکہ وہ افسانہ تھے لیکن آئینہ ٹوٹ کر بھی دیکھنے والے کو بایوس ہمیں کرتا۔

انسان کا اگر اپنا ضمیر مطمئن ہو تو حالات کا بگاڑ راستے کی دیوار نہیں بنتے۔ کانٹے لاکھ مر

پھوڑیں پھول نکل ہی آتے ہیں۔ شاہ جی اگر مقبول ہو رہے تھے، یا شہرت ان کی پیشوائی کر رہی تھی تو ان کے سہارے تعلیم، دولت یا کوئی دوسرا طعم نہیں تھا، بلکہ خلوص، جذبہ، ایثار اور ایمان کی پختگی ایسی چیزیں تھیں، جو انہیں زمانہ پر فوقیت دے رہی تھیں۔ درویش کی زندگی کا مدار اس کی گوڈری تک ہوتا ہے۔ شاہ جی نے گھریلو حالات کو جلا دینے کے لیے وقت سے حارثاً مہلت مانگی اور امرتسر پرانی گندم منڈی مائی والی مسجد میں صبح کا درس اور جمعہ کے خطبہ پر متعین ہو گئے۔ یہ گاڑی ایک معینہ مدت تک چلی۔

امرتسر میں سونا چاندی یا گولڈ کناری خریدنے والے زرگر محلوں میں عام گشت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک غیر مسلم زرگر کو چوہ جدر پہلوان میں پھر رہا تھا کہ جدر پہلوان کے بھائی محمد سرور نے اچانک اس کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا دے مارا۔ آدمی کمزور تھا۔ ضرب کاری لگی اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ملزم محمد سرور کا دامنی توازن گزشتہ کئی برسوں سے درست نہیں تھا۔ اس کی اس حرکت نے سارے شہر کا امن خراب کر دیا۔ ملزم موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ فاتحہ سے تیسرے روز ہمایہ قوم نے جدر پہلوان کو اصل ملزم قرار دے کر گرفتار کر دیا۔

جدر پہلوان سیرت اور صورت کے لحاظ سے اپنے فن میں منفرد پہلوان تھا۔ پنجاب اپنے اکھاڑے کے اس جیلے جوان پر جی جان سے فریفتہ تھا۔ ہندوؤں نے جیسے ہی جدر کو قاتل ٹھہرا قانون کے حوالے کیا، امرتسر کا مسلمان فریق بن کر سامنے آ گیا۔ عید کا تہوار بھی قریب تھا اور عید کے دوسرے روز جدر نے کشتی رٹنی تھی۔ مقامی حکام اس حادثے کے باعث تعطل میں تھے۔ ہندو قوم نے دولت کے سہارے قانون کے سارے راستے مسدود کر دیے۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ میں جدر پہلوان کا نام درج نہیں تھا اور یہی ایک راستہ ایسا تھا، جہاں ہندوؤں کی دولت کوئی رکاوٹ نہ بن سکی۔

مقدمے کی سماعت ڈپٹی کمشنر نے خود سنبھالی۔ ہمایہ قوم نے لندن کے مشہور بیرٹر مسٹر بیٹ مین کو وکالت کے لیے پیش کیا اور مسلمانوں نے سر مشفیع کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔

مگر تھی دامن اور خلی ہاتھ سر شفیح کے اونچے محل تک پہنچنے سے قاصر تھے۔ غریب جان تو دے سکتا ہے مگر ایشا زراس کے بس کا روگ نہیں۔ ایشا پریشہ جیب دنیوی سرائے سے جاری ہو جاتا ہے تو جذبات کا سودا کر لے لگتا ہے۔ کٹھنہ مہانگہ کے لوگوں نے شاہ جی سے گزارش کی کہ۔

”حیدر پہلوان کے مقدمہ میں مسلمانوں کی غربت کہیں اسلام کی شکست کا نشان نہ بن جائے“

تو شاہ جی آبدیدہ ہو کر چہرہ مانگنے محلے میں نکل کھڑے ہوئے۔ شام تک امید نہ ڈھار س بندھائی لیکن دریا خشک ہو جائے تو آنسوؤں کی روانی اس کی پیاس ختم نہیں کر سکتی۔ اگلے روز باغبانپورہ لاہور میں میاں سر محمد شفیح کے مکان کے سامنے چوک میں تقریر کرنے کا ارادہ لے کر شاہ جی لاہور پہنچے۔ منادی ہوتی ہزاروں کا مجمع تھا۔ شاہ جی نے عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کی تو صبح کے چار بج گئے۔ تقریر کے دوران حیدر پہلوان کی شخصیت، مقدمے کی نوعیت مسلمانوں کی بے بسی اور ہندوؤں کے اتحاد و دولت پر تبصہ کیا، لیکن سر شفیح کا نام تک نہ لیا۔ آخر اذان کے وقت میاں سر شفیح بے اختیار ہو کر شاہ جی کے قدموں پر آگرے اور اسی وقت امر تر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے روز مقدمے کی پہلی پیشی تھی اور اس مقدمے کی چشم دید گواہ محلے کی لکھی دھوبن نامی ایک عورت تھی جس نے اپنی شہادت میں حیدر پہلوان کو موقع دارا پریخیر حاضر قرار دیا۔

دلایت سے آئے ہوئے سٹریٹ میں اور میاں سر محمد شفیح بیڑ سٹریٹ لا آئے سائے کھڑے تھے۔ عدالت سے باہر ہزاروں مسلمان جمع تھے کہ حیدر پہلوان ہتھکڑی کے ساتھ عدالت میں لائے گئے۔ اسے دیکھتے ہی مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں اور ساتھ ہی ہندوؤں نے اتنی سی کامیابی پڑ ہر ماد یوہ کے نعرے بلند کیے۔

شاہ جی عدالت میں نہیں آئے تھے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے اللہ کے حضور سربسجود

ہو کر دتار ہا اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا کرتا رہا۔

لکھی دھوبن کی گواہی کے بعد میاں سر محمد شفیع نے کہا کہ استغاثہ کی ابتدائی رپورٹ اور چشم دید گواہ کے بعد میرا عدالت سے صرف ایک ہی سوال ہے۔

ہ کیا عدالت کے نزدیک پولیس زیادہ معتبر ہے یا کوئی دوسرا گواہ؟

عدالت۔ پولیس!

سر شفیع۔ تو پھر پولیس کی ضمنی یا ابتدائی رپورٹ میں حیدر مہلوان کا نام بطور ملزم کے

درج نہیں بلکہ محمد سرور کا نام ہے۔ لہذا میری عدالت سے درخواست ہے

کہ ملزم حیدر مہلوان نہیں بلکہ محمد سرور ہے اور بس۔

استغاثہ کے ایک گواہ کی شہادت اور سر محمد شفیع کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے

دوسرے فریق کے دلائل سننے بغیر جلد مہلوان کو مقدمے کی پہلی پیشی پر باضرت بری کر دیا اور

محمد سرور کو پاگل قرار دے کر غیر معینہ مرہ کے لیے پاگل خانے بھیج دیا۔

حیدر مہلوان کو عدالت سے بری ہوتے ہی پچھلے دروازے سے نکال کر گھر بھیج دیا۔ جب

مسلمانوں کو یہ خوشخبری ملی تو وہ دیوانے ہو گئے لیکن اس دیوانگی میں انہوں نے کوئی غیر قانونی

حکمت نہیں کی۔

شاہ جی اور مسلمانان امرتسرا اپنی اس کامیابی پر بہت مسرور ہوئے۔ یہ ستمبر ۱۹۲۸ء کا

واقعہ ہے۔

جب قوموں کا گزرا نخطاط کے دور سے ہوتا ہے تو راستے کی ہر پکڑ بٹھی انہیں

منزل کا نشان دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ پکڑ بٹھی محض راستہ ہوتا ہے منزل

نہیں۔ لیکن جھٹکے ہوئے راہی ہر موڑ کو سنگ میل سمجھتے ہوئے اپنے قیاس میں کھو جاتے ہیں۔

اس دور کا مسلمان عقیدے کی پختہ چٹان سے پھسل کر ان پتھروں پر آگرا ہے جن سے تڑپنے

ہوئے صنم خدائی کے دعویٰ در ہیں۔ مخلوق اپنے خالق سے انحراف کر کے بغاوت کے اس دستور

کو اپنا رہی ہے، جس کی ہر تجویز انسانیت سے ماوراء معلوم ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہرِ خوبا  
صرف ہاتھ کی صفائی سے دل و نظر کو فریب دینے میں کامیاب ہو رہا ہے۔

۱۹۷۸ء کی بغضیں چھوٹ رہی تھیں کہ امرتسر کا مسلمان پیر کرم شاہ کے آستانے پر سجدہ ریز تھا۔

مسلمان عورت کا آئینہ حسمت اس دہلیز سے ٹکرا کر چور چور ہو چکا تھا۔ ایمان و توحید کی قدوس ہند  
کر کفر کے تارِ عنکبوت میں الجھ رہا تھا۔

تیس تیس کا سن، سواقد، سرخ و سپید رنگت جیسے میدے میں سندھ گوند کر بنایا گیا ہو۔

کشادہ پیشانی، چشم آہویں بلا کی چمک، جیسے کسی نے موتی کوٹ کر بھر دیے ہوں، تکیہ ناک،

جیسے تلوار کی دھارا، عناب کی طرح سرخ ہونٹ، سر پر لمبے اور سنہری بال، ایسے حال تھے، جن

میں راہ چلتی جو اینٹوں کا پھنس جانا معجزہ نہیں تھا۔ ان سب پر سیاہ ریشم کے عربی کاٹ کے

لباس کی سج سج۔ یہ تھا پیر کرم شاہ! جس کی شہرت نے گھروں کے گھر اس کے قدموں میں لا

ڈالے تھے۔ یہ اکثر چہرے پر نقاب رکھتا اور ملنے والوں کو دیدار کی ہوس رہتی تھی۔ امرتسر

قلعہ بھنگیاں کوچہ ستاریوں میں رہائش کے دنوں اس کا چہرہ چاند خوبو کی طرح پھیل گیا۔ امرتسر

کا سرکاری خطاب یافتہ طبقہ، شال مرچنٹ، پشیمیز کے سوداگر اس کے میزبان تھے لباس

گفتگو، نقش و نگار اور سرکاری رکھ رکھاؤ نے کرم شاہ کے متعلق محکمات قیاس آرائیوں

کو ہوا دی۔ کمزور اعتقاد مسلمان روحانی پیر سمجھ کر پوجا کرنے لگا۔ اور اکثر کی رائے تھی کہ کرم شاہ

درحقیقت دہی، کرنل لارنس ہے جس نے عربوں میں انقلاب برپا کیا تھا۔ اس رائے کے

باعث سرکاری خطابات کی چاہت کے لوگ کرم شاہ کے گرد زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے تھے

امیروں کی بیٹھ دیکھ کر غریبوں کے ایمان بھی متزلزل ہو گئے۔ فریب خوردہ حوام نے

آئندہ کرم شاہ پر جبر سائی کی انتہا کر دی۔ اولاد سے محروم عورتوں کی ڈولیاں صف باندھے

شب و روز کھڑی رہتیں۔ اس طرح جب سارا امرتسر حواس کھو بیٹھا تو شاہ جی خواجہ عبدالرحیم

عاجزی کی ہمراہی میں کرم شاہ سے ملنے گئے۔ معلوم ہوا آج یومِ خواتین ہے مردوں کے لیے

اجازت نہیں۔ گو شاہ جی کا اتنا میں سے ٹھنکا لیکن بادلِ نخواستہ دوسرے دن کا قصد لے  
واپس لوٹ آئے۔ دوسرے روز گئے تو موصوف سے دو گھنٹے تمنائی میں سیر حاصل گھنگو  
کے بعد شاہ جی مسکراتے ہوئے باہر آئے اور اگلے روز چوک خرایاں متصل ڈیرہ گرم شاہ، میں  
اہل امرتسر کو خطاب کرتے ہوئے شاہ جی نے کہا:-

» راہِ مستقیم سے بھلکے ہوئے مسلمانو! ہر جگہ تہی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جس  
آدمی کو تم نے روحانی پیشوا یا انگریزی جاسوس خیال کر لیا ہے یہ دونوں میں  
سے کچھ نہیں، برطانوی جاسوس نہ تو گلی، محلوں میں قیام کرتے ہیں اور نہ اس  
طرح کی بھیڑا نہیں راس آتی ہے، یہ روحانی آدمی بھی نہیں۔ یہ محض نفس  
پرست انسان ہے۔ ممکن ہے آج میری باتیں تمہیں کڑوی معلوم ہوں،  
لیکن عقرب سنو گے کہ یہ کسی محصوم لڑکی کو اغوا کر کے لے بھاگا۔ اگر تم  
اپنے ایمان نہیں بچا سکتے تو گھر دلی عزت کی حفاظت کرو۔ عورتوں کو وہاں  
جانے سے منع کرو۔

مجھ سے پوچھتے ہو تو میری نظروں نے فسق و فجور کے علاوہ وہاں اور  
کسی چیز کا اندازہ نہیں لگایا۔ وہاں روحانیت کی نہیں، معصیت کی تربیت  
دی جاتی ہے۔ جس شخص کو تم نے پیر بنا رکھا ہے، یہ بہت بڑا بدعاش ہے  
اشٹارلڈ میں بہت جلد اس کا سارا طلسم ختم کر دوں گا۔ تم چاہے آج میرا ساتھ  
نہ دو لیکن کل میرے ساتھی ضرور بنو گے۔

شاہ جی کی یہ تقریر رات دو بجے تک جاری رہی اور دوسرے دن اس سے تھوڑی دیر چوک  
کڑوا سفید میں جلسے کا اعلان کیا گیا۔ اس جلسے میں حاضرین کا اندازہ دو لاکھ سے اوپر بیان  
کیا جاتا ہے۔ پنجابی کے مشہور انقلابی شاعر خواجہ عبدالرحیم حاجر نے »دو سیلیوں کی باہم  
سکڑا کے عنوان سے ایک تمثیلی نظم اس جلسہ کے آغاز میں پڑھی، جس کے دو شعر یاد ہیں:-



چل درشن کر لے فی اچ رل کرم شاہ پیر دے

.....  
 بن گھر گھر وچ اڑیے اچ پر پے جس لے پیر دے

مروٹنگھن اتھے پچھ کے اندر اتے تینویاں سنگدیاں گھلیاں

اساں سنیا اتھے اچ او کھینڈن جینوے ڈنڈے نال گھلیاں

او تھے نقشے دسدے فی اساں سنیا رانجھن پیر دے

چل درشن کر لے فی اچ رل کرم شاہ پیر دے

شاہ جی کی تقریر صبح اذان کے وقت ختم ہوئی دافسوس ہے کہ تلاش کے باوجود

یہ تقریر نہ مل سکی،

ان تقاریر کے بعد کرم شاہ نے اچانک امرتسر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا اور بمبئی چلا گیا۔ وہاں اس نے پخت تجارت پیشہ لوگوں پر اپنا وار کیا۔ لیکن بہت جلد شراب نوشی اور دوسری بدعاشیوں کا انکشاف ہونے کے بعد یہ لاہور چلا آیا۔ یہاں اس کے گرد اسی قماش کے لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ پھر یہ اس قدر بدنام ہوا کہ لاہور میں لالہ لاجپت رائے کی ارتھی کے جلوس کے موقع پر دو سائمن کمیشن کے خلاف احتجاجی جلوس میں لاشیوں سے زخمی ہو کر فوت ہوئے تھے، کرم شاہ کو حوام نے کار میں دیکھ لیا اور اس قدر پٹائی کی کہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس جگانے کے بعد یہ کشمیر چلا گیا۔

کرم شاہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا، یہ خاک کہاں سے اڑی اور کہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اس اندھیر گردی میں کتنی عصمتیں ٹپیں، کتنے ایمان ضائع ہوئے، انسانیت کو کہاں کہاں ٹر مندہ ہونا پڑا، زمانے کے پاس اس کی کوئی فائل نہیں۔ حالات واقعات پر اسی طرح خندہ زن رہے۔ لیکن شاہ جی کی آواز سے جو گونج پیدا ہوئی تھی، اس کی صدائے بازگشت ہنوز سنائی دیتی ہے۔ ”مسلمانو —! ہر چکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی“

زندگی کے من و سال جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں، آدمی کی ذمہ داریاں بھی اسی قدر  
 ۱۹۲۹ء ترقی پذیر ہوتی ہیں۔ انسانی شعور کے بالغ ہونے تک گزشتہ زندگی کے راہ و رسم  
 احساس کے سہارے پروان چڑھتے ہیں۔ اگر یہ کڑی درمیان میں نہ ہو تو ساری زنجیر ٹوٹ  
 کر رہ جائے۔

اس سال شاہ جی کی عمر اڑتیس سال کے قریب تھی لیکن تبلیغی اور سیاسی فہم داریوں کا  
 بوجھ اس شدت سے آن پڑا کہ ان کے احساس نے انہیں جوانی کی سرحدوں سے دور کر دیا  
 تھا۔ حالانکہ یہی دن ایام بہاراں کہلاتے ہیں۔ جو راستہ روزِ ازل سے انہوں نے منتخب کیا  
 تھا وہاں بہاروں کا گزرنا ممکن تھا۔ اگر ۱۹۲۹ء کے سیاسی اور مذہبی واقعات میں سے شاہ جی  
 کے کردار کو الگ کر لیا جائے، تو اس سال کی تاریخ رنگ و روغن سے تھی معلوم ہوتی ہے  
 یہی سال دراصل شاہ جی کی شہرت کو کابل کی دیواروں سے راس کمارئی تک لے گیا اور اس  
 سے پیشتر پنجاب، سرحد اور یوپی کے چند اضلاع تک ہی متعارف تھے۔

شاتمِ رسول کا قتل عام | ایک طرف سائمن کمیشن کے ارکان ہندوستان کی سیاسی فضا میں  
 ایسی بوسونگہ رہے تھے جس سے انہیں اپنے لیے سکون میسر

نہیں تھا، دوسری طرف ماشہ راج پال کے برمی ہونے پر فرقہ پرست ہندوؤں نے منظم سازش  
 کے تحت تحریک شاتمِ رسول کو ہندوستان میں ہوادہی، جس سے آریہ سماجی ہندوؤں کے حوصلے  
 بڑھے اور انہوں نے پیغمبرِ آخرِ ازمان حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے سے زیادہ  
 تحریروں پر ہنگامہ شروع کر دیا۔

ہندوستان کے سیاسی حالات گوان حرکات پر نفرین بھیج رہے تھے، مگر ہندو اکثریت  
 کے رہنما مسلمانوں کو ہندوستان سے نکل باہر کرنے کے منصوبے باندھ رہے تھے اور ان  
 دنوں اس قسم کی گفتگو کھلم کھلا سننے میں آ رہی تھی۔

۱۔ جب مسلمانوں کا تعلق عرب سے ہے تو یہ کیوں وہاں نہیں چلے جاتے۔

یہاں ان کا کیا رکھا ہے۔

۲ ————— ہندو جاتی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلوں کو سمندر پار بھیج کر ہی دم لے گی۔

۳ ————— شرجی کا جھنڈا اب دہلی کی جامعہ مسجد پر لہرائے گا۔

۴ ————— (دشمنشاہ) اورنگ زیب عالمگیر نے جس تلوار سے یہاں کے ہندوؤں کو

بھڑٹ (مسلمان) کیا تھا ہم پر ماتا کی سوگند قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وقت آنے پر اسی تلوار سے مسلوں کو شہدہ (ہندو) کریں گے۔ وغیرہ!

دوسری طرف مسلمان رہنما چودھری افضل حق، مولانا داؤد غزنوی، مولانا ظفر علی خاں، سکھ رہنماؤں کو ناراض کر کے نہرو پورٹ پر لکھنؤ میں دستخط کر چکے تھے جس کے نتیجے میں پنجاب کا مسلمان ان پر ناراض تھا۔ بعد نامہ ریاستہ کے ایڈیٹر سید حبیب مخالفت میں پیش پیش تھے۔ گو یہ تحریک صرف لاہور تک محدود رہی لیکن صحافت کا مرکز ہونے کے باعث اس کے اثرات سارے ہندوستان میں پھیلے۔ چودھری افضل حق، مولانا ظفر علی خاں، مولانا داؤد غزنوی، شیخ حسام الدین، مولانا حبیب الرحمن، لڑھیا نومی اور شاہ جی نے سارے پنجاب میں نہرو پورٹ کے اثرات سمجھائے۔

مسلمانوں کے دو گروہوں میں یہ جھٹپٹش جاری تھی کہ ماتا گاندھی اور نپٹل مدن موہن، اولیہ تے ایک مشترکہ اعلان میں کہا۔

”نہرو پورٹ کے فیصلے میں سکھوں سے نا انصافی کی گئی ہے“

اس اعلان سے سکھوں اور ہندوؤں میں اتحاد کی ایک نئی لہرائی اور سارے ملک میں پھیل گئی۔ انہی دنوں مسلمان رہنماؤں نے بھی جو نہرو پورٹ پر دستخط کر آئے تھے اعلان کیا

”چونکہ مسلمان قوم نہرو پورٹ کے فارمولے کو قبول نہیں کرتی لہذا ہم اس کی ذمہ داری سے دستبردار ہوتے ہیں“

گاندھی اور اولیہ کے اعلان کے بعد پنجاب کے رہنماؤں کے نہرو پورٹ سے انکار پر

سائنس کمیشن کا منشا پورا ہو چکا تھا۔ لیکن وہ ہندوستانیوں کا مزید تماشہ دیکھنے کے لیے یہاں ٹھہرے رہے۔ ان واقعات سے ایک طرف ہندوستان کے مشترک مقصد کو نقصان پہنچا، دوسری طرف انگریز حکمرانوں کی سیاست گری کامیاب رہی۔

ایسے حالات میں اول الذکر گروہ (آریہ سماج) نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا فیصلہ سنجیدہ کر لیا۔ اس سلسلے میں وہ ایسی ایسی تحریریں سامنے لائے کہ مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے۔ غلامی کا جو ارمان کی گردنوں پر کوہ ہمالہ سے بھی زیادہ بوجھل معلوم ہونے لگا۔ غم اور غصے کے طے جلے جذبات سے وہ ہندوؤں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخر انہی دنوں شاہ جی نے عصمت انبیاء کے تحفظ کا فیصلہ کیا۔ درویش اپنی گودڑی سنبال کر بے سرو سامانی کے عالم میں نکل کھڑا ہوا۔ قانونِ افرنگ اور دولتِ ہنود اس کے ارادوں میں نہ تو کاٹھے بکھیر سکی اور نہ ہی ان کے قدموں کی رفتار دم ہو سکی۔

”مسلمانو! میں تمہاری سوئی ہوئی بغیرت کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ آج کفار نے توہینِ پیغمبر کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہیں شاید یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ مسلمان مر چکا ہے۔ آذاپنی زندگی کا ثبوت دیں۔ عزیز زو جو انو! تمہارے دامن کے سارے دافع صاف ہونے کا وقت آپہنچا ہے۔ گنبدِ خضر کے کینے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آہرو خطرے میں ہے۔ ان کی عزت پرکتے بھونک رہے ہیں۔ اگر قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہو تو پھر نبی کی توہین کرنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہیں“

ان خیالات کو شاہ جی نے برصغیر کے مسلمانوں میں بیان کیا۔ وہ شب و روز دیوانوں کی طرح تقریریں کرتے۔ گاؤں، قصبات، شہر اور رستوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا۔ ہندوؤں کے مسلمانوں کے منجدرخون میں حرارت پیدا ہوئی۔ بس پھر کیا تھا؛ خیر کی طرح پھر ہر مسلمان گستاخ ہندوؤں کی تلاش کرنے لگا۔ نگاہیں جہت کی تلاش میں موت سے ہم کھار ہونے کو

بمقرر نظر آنے لگیں۔ دلوں میں شوق شہادت کی لذت محسوس ہونے لگی۔ خود مسکراتی رہی مگر عشق منزل کی جانب دواں دواں رہا۔ اس طرح شاہ جی نے مسلمان نوجوان کو ابھار کر ایسے مقام پر لاکھا کیا کہ اس کے آگے وہی راستے تھے، یا تو ہندوستان میں داعی اسلام کی عزت ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے یا پھر غیر مسلموں کو آئندہ جرات نہ ہو کہ وہ حضور کی ذاتِ گرامی پر زبانِ طعن دلازہ کریں۔

دلوں کے اس فیصلہ کن مقام پر پہنچ کر سب سے پہلے ۶ اپریل ۱۹۲۹ء کو لاہور کے ایک بڑھئی نوجوان غازی علم الدین نے دوپہر کے وقت لاہور میں کتاب "نگینا رسول" رخصت ہونے کے ناشر ہاشمہ راج پال کو اس کی دکان (ہسپتال روڈ) میں قتل کر دیا۔ اس مقدمہ میں شاہ جی کی خواہش پر علم الدین نے راج پال کے قتل کا اقرار کر لیا تھا۔ حالانکہ مشر محمد علی خدح سمیت تمام وکلاء جو اس اہم کیس کی پیروی کر رہے تھے کی خواہش تھی کہ علم الدین ایسا نہ کرے۔

ایک خوفناک دھماکہ | غازی علم الدین کی گرفتاری کی سرخیاں ابھی اخبارات سے ماند نہیں پڑی تھیں کہ ۸ اپریل ۱۹۲۹ء کو دہلی سنٹرل اسمبلی میں بم کا ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ جب اس دھوئیں کے بادل چھٹے تو اسمبلی ہال کی گیلری پر دو نوجوان کھڑے تھے۔ سردار جگت سنگھ اور بنگال کے سٹرن، کے، دت۔ اسمبلی ہال کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ممبران حواس باختہ ہو کر کچھ تو فرنیچر کے نیچے پناہ گزین تھے اور باقی ہال چھوڑ کر جاگنے میں کامیاب ہو گئے۔

۸ اپریل ۱۹۲۹ء کو سنٹرل اسمبلی میں جس کی صدارت مشر ڈھل جھانی پٹیل کر رہے تھے، پبلک سیفٹی بل پیش ہونے والا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ دونوں ملزم گرفتار کر لیے گئے۔

ان مذہبی اور سیاسی قسم کے تشدد آمیز واقعات نے ہندوستان کے رہنماؤں اور علوم کو گھب انگ دھڑوں میں تقسیم کر دیا۔ عدم تشدد کی پالیسی کا عدم قرار دی جانے لگی اور نوجوان

جو سیاسی رہنماؤں کی نرم پالیسی سے تنگ آچکے تھے، امتیاز مسلحہ کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔  
 ہندوستان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ہرائنگریز کو جان کے لالے پڑ گئے چنانچہ  
 ۱۳- اپریل کو سائمن کمیشن کے ارکان حالات کا مزید انتظار کیے بغیر لندن واپس چلے گئے۔

انہی افراتفری کے دنوں خلیفہ قادیان مرزا بشیر الدین محمود کو بھی سوچی  
 خلیفہ قادیان کا خطیبہ | کہ انہوں نے جوہر کے خطبہ میں غازی علم الدین کے متعلق حسب  
 ذیل خطبہ دیا۔

وہ نبیث العظمت اور گندے لوگ جو انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں ہرگز اس  
 قابل نہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ ان کی قوم اگر اپنے اندر دین داری اور  
 اخلاق رکھنے کی مدعی ہے تو اس کا فرض ہے کہ ایسے افعال کی پور سے درد  
 کے ساتھ مذمت کرے۔ اسی طرح اس قوم کا، جس کے جو شیلے آدمی  
 قتل کرتے ہیں خواہ انبیاء کی توہین کی وجہ سے ہی وہ ایسا کریں، فرض ہے  
 کہ پورے نور کے ساتھ ایسے لوگوں کو دبا یا جائے اور ان سے ظاہر بات  
 کرے۔ انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔  
 وہ نبی بھی کیسا نبی ہے، جس کی عزت بچانے کے لیے خون سے ہاتھ  
 رنگنے پڑیں۔ جس کو بچانے کے لیے اپنا دین تباہ کرنا پڑے۔ یہ سمجھنا  
 کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی عزت کے لیے قتل کرنا جائز ہے،  
 سخت نادانی ہے۔ وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں  
 اور اپنی قوم کے دشمن ہیں اور جو ان کی پیٹھ ٹھونکتا ہے وہ بھی قوم کا دشمن  
 ہے۔ میرے نزدیک تو اگر یہی شخص را جپال کے قاتل سے جو گرفتار ہوا  
 ہے تو اس کا سب سے بڑا نیر خواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کے پاس  
 جائے اور اسے سمجھانے کہ دینیوں منزلت اب تمہیں ملے گی ہی لیکن قبل

اس کے کردہ طے تمہیں چاہیے کہ خدا سے صلح کرو۔ اس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔“

(۱۹- اپریل ۱۹۲۹ء اخبار الفضل قادیان)

ان دنوں جب کہ مسلمان نوجوان تحریک شاتم رسول کی بیخ کنی کے لیے کفن بردوش ہو کر میدان عمل میں آچکے تھے خلیفہ قادیان کا مندرجہ بالا بیان ان نوجوانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھا جو توہین رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بندوانہ سازش کو بے نقاب اور ختم کرنا چاہتے تھے۔

اپریل کا پورا مہینہ اسی ہماہی میں گزرا اور مئی کے شروع میں غازی علم الدین کا مقدمہ نمبر دفعہ ۳۰۲ عدالت میں پیش ہوا۔ استغنا کی ابتدائی شہادتوں کے بعد غازی علم الدین نے اپنے بیان میں کہا۔

”میں اس عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے کتاب زگیل رسول کے ناشر راہچال کو قتل کیا ہے۔ اس لیے کہ کتاب مذکور سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمخت توہین ہوئی تھی۔ راج پال کو اپنے اس فعل پر نہ تداامت تھی اور تہ افسوس۔“

اگر میں اس مقدمے میں بری کر دیا گیا تو میں توہین رسول کرنے والے کو پھر قتل کر دوں گا۔“

اس اقبال جرم کے بعد ۲۲ مئی ۱۹۲۹ء کو سیشن جج کی عدالت سے غازی علم الدین کو سزائے موت کا حکم ہوا۔

۱۵ جولائی کو ہائی کورٹ نے بھی اپیل خارج کر دی۔ پھر پریوی کونسل نے بھی فیصلہ بحال رکھا۔ آخر ۳۱ اکتوبر ۱۹۲۹ء کو میا نوالی جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔

مسلمانانِ لاہور کے مطالبے پر ۱۴۔ نومبر کو لاش لاہور لائی گئی اور لاکھوں مسلمانوں نے نماز جنازہ کے بعد اشک بار آنکھوں سے عاشقِ رسول کو قبرستانِ میانی صاحب میں سپردِ خاک کیا۔

شردھانتہ کے بعد راج پال کے قتل نے گستاخِ زبانوں کو قدر سے لگام دے دی۔ مگر کفر کے منظم فیصلے میں کوئی لچک نہ آئی۔ غازی علم الدین کی شہادت نے قتل کے واقعات کو ہندوستان بھر میں مسلسل ہوا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تصور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالے شاہ کو کلکتہ میں محمد عبداللہ اور عبدالعزیز نے لاہور سے جا کر بھولادرام کو، کراچی میں عبدالعقیم نے ننھورام کو، جہلم میں غلام محمد نے اپل سنگھ کو، پول ضلع حصار کے سکھ ڈاکٹر کو معافی مانگنی پڑی اور کیسبل پور میں عبدالمنان نے پیار سے لال کو قتل کیا۔

ہندو جبر بالاتمام نوجوانوں کو سزائے موت ہوتی اور صرف آٹھ لاکھ عبداللہ کو سزایں۔ سچ مٹھ ڈمی، جی اکھو سہ نے سات سال کی سزا دی اور فیصلے میں لکھا کہ کوئی مسلمان توہینِ رسول برداشت نہیں کر سکتا۔

تحریکِ شاتمِ رسول میں قتال کا یہ سلسلہ ۱۹۳۴ء تک جاری رہا۔ ان مسلسل اور پیہم واقعات نے کفر کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا۔

شاہ جی کی یہ تحریک کہ دو توہینِ رسول کرنے والی زبان نہ رہے یا توہینِ رسول سننے والے کان نہ رہیں۔ ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۴ء تک گاہے گاہے اپنا کام کرتی رہی۔ یہاں تک کہ گستاخِ زبانیں ہمیشہ کے لیے خاموش کرادی گئیں۔ وہ پھانسی کے پیر سے اور دار کے تختے چوم لینے کے قابل ہیں جن کے ذریعے ان نوجوانوں کو موت کی سزا دی گئی جنہوں نے شاتمِ رسول کے ناپاک جسم کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا کر اپنے لیے شہادت کا جام قبول کیا۔ ع

خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را



**ڈیرہ قازی خاں** تحریک شاقم رنول اندر اندر اپنا کام کر رہی تھی کہ شاہ جی کو ڈیرہ قازی خاں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ ۱۹۲۹ء کے وسط کی بات ہے۔ شاہ جی اس علاقہ کے اندرونی حالات سے ناواقف اور بے خبر تھے۔ غیر ملکی اقتدار کے باعث اس ضلع کی مسلم آبادی ایک طرف تمَن داروں اور دوسری طرف ہندو ساہوکاروں کے چکل میں پھنسی ہوئی تھی۔

سردار احمد خاں پٹانی اس ضلع کے مشہور زمیندار اور اہل دل مسلمان تھے۔ اللہ کا دیا بہت کچھ تھا لیکن اپنے ضلع کے مذہبی حالات سے غیر مطمئن تھے۔ جب انہیں شاہ جی کی آمد کا علم ہوا تو اپنے گھر دراجن پور ڈیرہ قازی خاں سے چند مخلص نوجوانوں کا ایک وفد لے کر شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

۱۔ اس ضلع کی دو رافتاہ سستیوں میں یہ رواج پڑ چکا ہے کہ غریب مسلمان اپنی مزدوروں کے لیے ہندو ساہوکار کے پاس معمولی رقم کے عوض اپنی بیٹیاں رہن رکھتا ہے اور قرض مح سود کی واپسی تک لڑکی ہندو ساہوکار کے پاس رہتی ہے اور اکثر ایسا ہوا کہ وہاں اس کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوئی۔

۲۔ ڈیرہ قازی خاں کے مسلمانوں نے ۱۸۶۲ء کے ہندو سبست میں فرنگی عدالتوں میں اپنے آپ کو قرآن کریم کی بجائے رواج کا پابند کھوایا، جس کے باعث انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم قرار دیا ہے جب کہ قرآن کریم سورہ نسا میں بیٹی کو بھی باپ کی جائیداد کا وارث قرار دیتا ہے۔

۳۔ ضلع کے تمَن داروں نے اپنی تفریح طبع کے لیے گتے اور سوڑ پال رکھے ہیں۔ جب یہ لوگ موج میں آتے ہیں تو ان جانوروں کے درمیان لڑائی کا تناشر دیکھتے ہیں۔ اگر کتا جیت جائے تو اس کا جلوس نکالتے ہیں اور سوڑ کو مار کر اس کے گوشت میں بہترین قسم کے بیگھی چاول ڈال کر پلاؤ پکا کر گتے کو کھلاتے ہیں۔

رشادِ نبویؐ و جبر ہے کہ اس ملاقات میں ایک مدت سے اچھی قسم کے چادری کی پیداوار ناپید

ہو چکی ہے)

مندرجہ بالا واقعات کے بعد سردار احمد خاں تپانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو دل کے ساتھ زبان اور نظر بصیرت عطا کی ہے۔ اگر آپ نے اس ضلع کی ناگفتہ بہ حالت کی طرف توجہ نہ کی تو عند اللہ آپ مجرم ہوں گے۔ میری دولت اس کام کے لیے آپ کی پوری طرح معاون ہوگی۔

شاہ جی حالات سن کر زار و قطار رونے لگے اور سردار احمد خاں سے وعدہ کیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا، اس علاقہ کے مسلمانوں کی اصلاح میں کوئی وقفہ فرودگذاشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ شاہ جی ہر سال جون اور جولائی کے چیتے ہوئے موسم میں جب کہ یہاں کا کسان اور مزدور پیشہ طبقہ فصل کی کٹائی اور بٹائی سے فارغ ہوتا تھا اس ضلع میں تشریف لے جاتے۔ شہری آبادیوں سے دور آباد کادول کی بستوں میں دوپہر کے وقت ان کی زبان میں خطاب کرتے۔ دس دس اور بیس بیس کوس سے آئے ہوئے دیہاتی شاہ جی کی باتیں سنتے۔ گفتگوں خطاب کرنے کے بعد شاہ جی ان سے سوال کرتے۔

”میںڈھی کافی گال سمجھ گدھی ہا“۔ (میری کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے)

اگر جلے میں ایک دیہاتی نے بھی کہہ دیا،

”سائیں کو“ یعنی کوئی نہیں

تو شاہ جی پھر اس ایک دیہاتی کو سمجھانے کے لیے سارے مجمع سے اسی طرح گفتگو خطاب کرتے۔ جب تک پورا مجمع بات سمجھ نہ لیتا تعزیرِ نغم نہ کرتے۔

اس طرح زندگی کے تیس برس مسلسل ڈیرہ فازی خاں کے عوام کو مختلف اوقات میں خطاب کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین فاروں نے کتے اور سوروں کی پرورش سے توبہ کر لی۔ اس علاقہ کے ڈیروں سے دو پیرے کر غریب مسلمان لڑکیوں کو ہندو ساہوکاروں کے

پگل سے نجات دلائی۔ شہری اور دیہاتی مسلمان کو مجبور کیا کہ شریعت کی رو سے اپنی جائیداد میں سے وٹکیوں کو بھی حصہ دیں۔ قانون تو تبدیل نہ ہو سکا لیکن ڈیوہ غازی خاں اور ضلع مظفر گڑھ کے اکثر لوگوں نے شریعت کے اس قانون کی پیروی شروع کر دی۔ شاہ جی جن دنوں اس علاقے کا دورہ کرتے، اگر جی کی شدت سے ان کے تمام جسم پر پھوڑے پھسپھسیاں نکل آتیں اس کے باوجود دروازے پر ایسی بے آب و گیاہ لہیتوں میں جاتے جہاں کے لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے مجبور ہو کر جو ہڑ کا پانی پیتے اور کھانے کے لیے انہیں پیاز، اچار یا مسور کی دال میسر تھی۔ جن گھروں میں گوشت یا دوسری بہتر خوراک میسر آ سکتی تھی، شاہ جی نے ان گھرانوں سے یہ کہہ کر ہمیشہ اجتناب کیا۔

میں جن لوگوں کو سمجھانے آیا ہوں، اگر ان کے ساتھ گھل مل نہ جاؤں تو ان پر میری بات کا اثر نہیں ہو سکتا۔

حالانکہ یہ ضلع پیر پستی میں پنجاب کے تمام اضلاع پر سبقت رکھتا ہے اور شاہ جی چاہتے تو یہاں کی غربت اور حوالم کی سادگی سے پورا فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ علاقے کے تمن دار انہیں سونے کے برابر وزن کرتے لیکن وہ دیہاتیوں کے ساتھ کھاتے پیتے اور انہی کے گھروں میں بٹرتے، جہاں ایک طرف ڈھور ڈھنگر بندھے ہوتے اور تمام کمرہ گوبر کی بدبو سے اٹا ہوتا گر شاہ جی کی پیشانی پر کبھی شکن نہ پڑتی۔ تیس برس اسی جلد جلد میں گزرے جس نے اسلام اور انسانیت کے حق میں بہتر نتائج پیدا کیے۔

ایک واقعہ | ڈیوہ غازی خاں سے چالیس میل دور حاجی پورہ نامی گاؤں میں ایک بزرگ کی خانقاہ پر عرس کے دنوں لوگ بڑے افعال کے مرتکب ہوتے تھے اتفاقاً شاہ جی کا گزر ڈیوہ غازی خاں سے ہوا، تو آپ نے مذکورہ گاؤں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس ارادے کی اطلاع جب ضلع کے انگریز ڈپٹی کمشنر مشرایل، اسے اگل کو ہوئی تو اس نے شاہ جی پر پابندی عائد کر دی کہ وہ حاجی پورہ نہیں جا سکتے۔ شاہ جی نے ڈپٹی کمشنر کا یہ حکم

ان یوں شہر میں اپنی تقریر کی مناوی کرا دی اور رات جلسے میں ڈپٹی کمشنر بھی متہ اپنی بیگم کے شاہجی کی تقریر سننے آیا۔ شاہجی کو اس کا پتہ چل گیا۔ دورانِ تقریر ڈپٹی کمشنر کو خطاب کرتے ہوئے کہا،

”مسطر ڈپٹی کمشنر! گو آپ نے مجھے شاہجی پورہ جانے سے روک دیا، اگر میں وہاں جاتا تو لوگوں کو جھنگ، پیرس اور اسی قسم کی دوسری منشیات سے متنع کرتا کہ بزرگوں کے مزارات فاتحہ خوانی کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ اس قسم کی بری چیزوں کے لیے۔ خیراب میں تمہیں اسلام سمجھاتا ہوں۔ اگر تم مچائی بیوی کے مسلمان نہ ہو جاؤ تو میرا نام بخاری نہیں۔“

پیرس کر ڈپٹی کمشنر فوراً جلد لگا سے چلا گیا۔

۱۹۳۹ء میں شاہجی! وہ غازی خاں گئے تو حلقہ انجباب سے پوچھا کہ میاں ستری دوست عمر لو ہار کون ہیں! میں انہیں ملنا چاہتا ہوں، دوستوں نے دوجر پوچھی تو کہنا ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہتھکڑی نے مجھے ہمیشہ آرام پہنچایا اور وہ میرے ہاتھ میں پوری اترتی ہے۔ جنوب مغربی پنجاب پولیس کے لیے ہمیشہ ستری دوست محمد نے ہتھکڑیاں میاں کیں اور ہر ہتھکڑی پر انگریزی کے حروف ایم۔ ڈی۔ ایم کندہ ہوتے ہیں جنہیں پڑھ کر شاہجی نے انہیں مٹنے کی خواہش کی۔ چنانچہ بڑی شکل سے ستری صاحب کو تلاش کیا گیا۔ شاہجی ان سے ملے تو وہ بہت خوش ہوئے اور شاہجی ہتھکڑی کے موضوع پر ان سے گفتگو کرتے رہے۔

ہتھکڑی کے لیے کس قسم کا لوہا استعمال ہوتا ہے، اس کے سانچے کیسے تیار کیے جاتے ہیں، اس پر کوئی سرکاری پابندی ہے یا نہیں، بعض مجرم پولیس کی موبہ دگی میں ہتھکڑی اتار کر فرار ہو جاتے ہیں، یہ کیسے؟

ان سوالات میں شاہجی نے اس قسم کا مزاج پیدا کیا کہ تمام محفل کشتب زعفران بنی رہی۔

**مٹان کا محرم** | حادثہ کربلا انسانیت کے دامن پر اس قدر عظیم دافع ہے کہ دریائے فرات، دجلہ اور نیل مل کر بھی اس دافع کو دھونا چاہیں تو اپنا سامنے کر رہ جائیں گے۔ اسلام نے جو اصول وضع کیے تھے خانوادہ نبوت نے اپنے خون سے ان اصولوں کی پائنتی اور قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات میں ایسا سنگ میل نصب کیا کہ آنے والا ہر مسافر اسلی گھنٹہ ہی پر گامزن نہ کر منزل حیات کا نشان پاسکتا ہے۔

صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بنی نوع انسان نے اس جانکاه حادثہ کو شدید سنج و غم سے محسوس کیا لیکن دو قسم کے حوام نے واقعہ کربلا کو بظاہر زیادہ محسوس کیا۔ اول وہ جنہیں احکام شریعت سے ناآشنائی رہی اور اس طرح سے وہ نمائشی جذبات کا مظاہر کرنے میں زیادہ کامیاب ہوئے، دوسرے وہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بطور پیشہ کے اپنایا۔ محرم الحرام کے دنوں میں تخریب داری میں جو لوگ نادر دشمنوں کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے افراد بھی شامل ہوتے ہیں جن کے پیش نظر مندوبہ بالا مقاصد کے سوا کوئی دوسرا اصول کارفرما نہیں ہوتا۔

سال ۱۹۲۹ء کی آخری سششاہی میں جب شاہ جی مٹان گئے تو محرم کی رسم تخریب داری کو دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ تیرہ روز تک شہر کے مختلف محلوں میں اس رسم کے خلاف تقریریں کیں۔ جس کی بنا پر مخصوص عقائد رکھنے والے لوگ اس قدر مشتعل ہوئے کہ شاہ جی کے خلاف شہر میں باقاعدہ محاذ قائم کر لیا گیا اور اس قدر اشتعال پھیلایا کہ آخری دن جب ”عام خاص باغ“ میں جلسے کا اعلان ہوا تو شہر کے خان بہادر آنیری مجسٹریٹ اور سرکاری قسم کے دوسرے لوگوں نے انگریز ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ اگر آج عطا اللہ شاہ نے مٹان میں تقریر کی تو وہ قتل ہو جائے گا۔ اس پر ڈپٹی کمشنر نے خان بہادر سید حسن بخش گردیزی آنیری مجسٹریٹ سے کہا۔

”اگر تمہارے اس اشارے کے بعد عطا اللہ شاہ قتل ہو گیا تو میں تمہیں بطور

جرم کے گرفتار کروں گا۔

لنمان کی نفاذ شیعہ سنی منافرت سے گدلی ہو چکی تھی اور واقعی اس دن یہ خوف تھا کہ شہابی قتل کر دیے جائیں گے۔ جماعتی دوستوں نے بھی شاہ جی کی خدمت میں درخواست کی کہ آج شہر میں آپ کے خلاف حالات اس قدر زہریلے کر دیے گئے ہیں کہ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ لہذا آپ اگر آج جلسہ میں کوئی ایسی بات نہ کہیں تو بہتر ہے اس پر شاہ جی نے کہا۔

”میرا جواب وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ کے معاملہ میں حضرت عمر فاروقؓ کو دیا تھا۔ اگر تم سب ڈرتے ہو تو میں آج اکیلا جلسے میں جاؤں گا اور وہی بات کہوں گا، جو میرا ضمیر کہے گا۔“

لنمان کی عوامی تاریخ میں اس قدر اجتماع دوبارہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ پولیس جلسہ کے چاروں طرف ہر طرح کے کیل کانٹوں سے لیس کھڑی ہے۔ تمام فرقے اپنی اپنی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ دلوں میں جذبات، آنکھوں میں خون، سینوں میں انتقام کے شعلے موزین ہیں کہ شاہ جی اپنے حلقہ احباب کی محبت میں جلسہ گاہ پہنچے۔

دن کی روشنی آج پھر ایک سید کے ایمان کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ شاہ جی نے اسٹیج پر آتے ہی کلام پاک کی تلاوت شروع کی۔ قریباً پون گھنٹہ قرأت کے بعد داستانِ کربلا اس انداز سے بیان کی کہ سارا مجمع آہ و فغاں کرنے لگا۔ جیسے جیسے دھوپ کی تمازت بڑھتی جاتی، شاہ جی کا زور بیان نکھرنا جا رہا تھا۔ دورانِ تقریر آپ نے کہا۔

”ان پاک شخصیتوں کے دن ضرور مناد! جو قومیں اپنے آباؤ اجداد کے نشان چھوڑ دیتی ہیں، ان کی تاریخ بے نشان ہو کر مٹ جاتی ہے۔“

شیعہ حضرات سے خطاب کرتے ہوئے کہا،

”کون بد بخت تمہیں اپنے عقیدے سے منح کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو! میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ امام حسینؑ، فاطمہ الزہراءؑ، بی بی زینبؑ اور مصوم سکینہؑ

کے ماتم کے لیے تمہیں بازاری حورتیں ہی ملتی ہیں؛ اس طاہر خاندان کے پاک اور صاف لباس پر گندی نالی کے پھینٹے اڑاتے ہو؛ تم کیسے حسین کے نام لیاؤ؟ اپنے ہاتھ سینوں پر نہیں الٹدے آگے پھیلاؤ کہ وہ ہمیں ان پاک روجوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ میں تو تمہیں نیکی کی بات بتا رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے قتل کا سامان کر رہے ہو۔ اگر واقعی عطا اللہ شاہ قتل کے قابل ہے تو یہ سیدنا حاضر ہے۔“

اس موقع پر شاہ جی نے جذبات سے اپنا گریبان چاک کر لیا۔ بس پھر کیا تھا، سارا مجمع بے اختیار چنچن مارنے لگا۔ اور شاہ جی بار بار کہہ رہے تھے:-

”نکالو اپنے اپنے نغز! سید کا سیدنا حاضر ہے۔ تم نے پہلے بھی ایک سید مسافر کو قتل کیا تھا، آج پھر اس سنت کو تازہ کرو! میں سید بھی ہوں اور مسافر بھی۔“

شاہ جی اس وقت قرآن کریم کی بار بار تلاوت کر رہے تھے۔ آخر جب سارا جلسہ اپنے آنسو ختم کر چکا تو آپ نے جلسہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔

جلسہ کے اختتام پر خان بہادر چودھری ناظر خاں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ منان اور حاجی راجنجا خاں مال آفیسر منان نے آگے بڑھ کر شاہ جی کے گھٹنوں کو چھوا اور کہا:-

”آج شہر کا امن آپ کے ایک ایک بول کا محتاج تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے امن بحال رکھنے میں ہماری امداد کی۔“

اس جلسہ کے بعد کئی سال تک تعزیر داری کے جلوس میں اس بازار کا داخلہ بند رہا۔

شارِ واپل | عیسائی توہین عالم اسلام کے خلاف ابتداء سے آفرینش سے عجیب و غریب حویلی استعمال کرتی آئی ہیں۔ کیس اپنی اکثریت کے سہارے اور کہیں

حکمرانی کے زور پر۔ لیکن اسلام باوجود مظلوم ہونے کے صرف اپنی عقانیت کی بنا پر

یروان پڑھتا رہا۔

متحدہ ہندوستان میں عیسائی حکمرانوں نے نئے نئے جیلے بہانوں سے اسلام اور مسلمانوں کو دوسری اقوام کی نظر میں اپنی غلامی کے زور پر رسوا کرنے میں ایسی حرکتیں کیں کہ جن سے خطرو ہونے لگا کہ مسلمان اپنی قدیں مٹا کر کھڑکی آخوش میں امان ڈھونڈنے جا رہے ہیں، لیکن دیوبند سے فارغ التحصیل رہنماؤں نے فرنگی حکمرانوں کی قلبی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے سید پلائی ہوئی دیوار کی طرح سامنے آکر حکمران جماعت کے تمام ہتھیار بیکار کر دیئے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد تو اکثر قانون ہندوستان میں ایسے وضع کیے گئے جن کی براہ راست زد اسلام پر پڑتی رہی۔ لیکن غیر ملکی نظام حکومت ان سے بیگانہ رہ کر اپنا کام کرتا رہا۔

۲۳- ستمبر ۱۹۲۹ء کو دہلی سنٹرل اسمبلی کے ہندو ممبر مسٹر ہربلاس شاردانے ایک مسودہ قانون پیش کیا جو آگے چل کر شاردابل اور شارداداکیٹ کے نام سے مشہور ہوا۔

شاردابل نبطا ہر ہندو سوسائٹی کی اصلاح سے متعلق تھا لیکن اس کے پس منظر میں ایک ایسا ادھار تھا کہ جس کی ضرب سے احکام شریعت براہ راست متاثر ہوتے تھے۔ چنانچہ بل پر بحث سے قبل یہ سوال سامنے آیا کہ یہ بل صرف ہندو عوام تک رہے گا یا ہندوستان کے تمام مذاہب اس سے متاثر ہوں گے۔ اور اکثر مسلمان ارکان اسمبلی نے بیئر ہلماہ کے مشورہ کے اس بل کی تائید کر دی۔ ۲۸- ستمبر ۱۹۲۹ء کو یہ بل پاس کر دیا گیا نیز یکم اپریل ۱۹۳۰ء سے اس بل پر عمل درآمد ہونا منظور کیا گیا۔

جمیعت العلماء نے ہند نے قرآن کریم کے واضح ارشاد کی روشنی میں شاردابل کو مخالفت فی الدین قرار دے کر اس کے نفاذ سے پیشتر اس قانون کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ انبالہ سے پرلی طرف مولانا احمد سعید اور پنجاب سے سرحد تک کے اضلاع شاہ جی کے سپرد کیے گئے۔

۲۸- ستمبر ۱۹۲۹ء سے یکم اپریل ۱۹۳۰ء تک دونوں رہنماؤں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں



کے پیش نظر ہزاروں نابالغ بچوں کے کھاج پڑھا کر اور عوام کو اس کی ترغیب دے کر انگریزوں کے اس قانون کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ آج بھی پنجاب اور سرحد میں سیکڑوں گھرانے ایسے ہیں گے جنہیں شاہ جی نے اس زمانے میں آباد کیا تھا۔

شاردا ایکٹ جس کا محرک بظاہر غیر مسلم تھا۔ جس کی رو سے اٹھارہ سال سے کم عمر کی اور اکیس سال سے کم عمر کے کی شادی قانوناً جرم قرار دے دی گئی تھی، عیسائی حکومت کی قانونی قوت نے اسے ایسی زندگی بخشی کہ اگر اس پر عمل درآمد ہوتا تو اسلام کے اصول بری طرح مجروح ہو کر سرگودھا، میانوالی، بگڑات، جہلم ایسے اضلاع ہیں کہ انگریزی عملداری میں یہ علاقے فوجی مرکز سمجھے جاتے تھے۔ ان پر کسی انگریزی قانون کا عاجلانہ اطلاق مشکل نہیں تھا، مگر شاہ جی نے شب و روز کی تقریروں سے ان علاقوں میں شاردا ایکٹ کو ناکارہ بنا دیا۔ ہر فرد نے شاہ جی کی آواز پر لبیک کہا اور شاردا ایکٹ کی دھجیاں بکھیر دیں۔

نہرو رپورٹ کی ناکامی کے باعث ہندوستان کے سیاسی افق پر

### مجلس احرار کی صدارت

واقعات کے نئے بادل اٹھ آئے۔ ہواؤں کا رخ اس انداز سے تبدیل ہوا کہ سارا ہندوستان تلخی محسوس کرنے لگا۔ سائن کمیشن کی ناکام واپسی کے بعد گاندھی جی نے انگریزوں کو چیلنج کیا کہ اگر ۱۹۲۹ء کے آئینک نہرو رپورٹ کے فارمولوں کو منظور نہ کیا گیا۔ اور اسے سرکاری حیثیت نہ دی گئی تو میں عدم تشدد کی لڑائی شروع کر دوں گا۔ برطانوی حکومت گاندھی جی کی اس تجویز کو ہواؤں میں اڑا کر مستقبل کا انتظار کرنے لگی۔ انگریزی حکومت کی اس بے اعتنائی کے سبب دسمبر ۱۹۲۹ء کو لاہور میں دریائے راوی کے کنارے آل انڈیا کانگریس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر گاندھی جی نے نہرو رپورٹ کو دریائے راوی کی لہروں کے سپرد کر دیا۔

مسلمان رہنماؤں نے گاندھی جی اور کانگریس کی اس حرکت کو سکھوں کی بے جا حمایت اور مسلمانوں سے ناانصافی قرار دے کر اپنی علیحدہ عظیم کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد

کی تجویز پر نیشنلسٹ مسلمانوں نے آل انڈیا کانگریس کے پنڈال میں چودھری افضل حق کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ جس میں شاہ جی کے علاوہ مولانا مظہر علی خاں، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، شیخ حسام الدین، خواجہ جبار خان غازی، مولانا مظہر علی خاں اور دوسرے مسلمان رہنما شامل ہوئے۔ اس اجلاس میں مجلس احوار کی بنیاد رکھی گئی اور شاہ جی کو پہلا صدر منتخب کیا گیا۔

**نہمکین ستیہ گرہ** | مجلس احوار کی بنیاد کے ساتھ ہی کانگریس نے اپنے سالانہ اجلاس میں مکمل آزادی کی قرارداد منظور کر کے اقوام ہند کو آزادی وطن کیلئے اشارہ قربانی کی نئی دعوت دی۔ مسلمان جس نے سلطان حیدر علی ٹیپو، حضرت شاہ ولی اللہ، رانی آف جہانسی اور ۱۸۵۷ء جسی تحریکات میں فرنگی سامراج کے خلاف جہاد آزادی میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ کانگریس کی اس دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ مجلس احوار کے رہنماؤں نے نئی عمارت کی تعمیر کو عارضی طور پر روک دیا اور سب کے سب کانگریس کے ہم نوا ہو کر آزادی کی نئی جدوجہد میں شامل ہو گئے۔

۱۹۲۹ء کے ڈوبتے ہوئے آفتاب کی آخری شعاعوں نے شفق میں ایسا رنگ بھرا کہ ۱۹۳۰ء کا سال غلام ہندوستان کے لیے مصائب و آلام کی بے شمار آرائشیں اپنے ساتھ لایا۔ شجھی اور سنگٹن، تحریک شاتم رسول، شاردا ایکٹ ایسی فرقہ وارانہ تحریکات ہنوز ہندوستان میں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ شاہ جی ان کے فیصلوں سے خارج نہیں ہوئے تھے کہ مجلس احوار کی صدارت نے شاہ جی کی فمرداریوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ جماعت نے جنگ آزادی میں کانگریس کے دوش بدوش لڑانی لڑنے کا فیصلہ کر کے شاہ جی کو مزید مجاہد کیا۔ غلام غیر ملکی آٹاؤں سے آزاد ہونے کے لیے زندگی کا آخری اثاثہ لے کر میدان کارزار میں اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ کفن بردوش مجاہد شہادت کی لے پر موت کے گیت چھڑ کر شہادت کاہ الفت کی طرف رواں دواں ہونے۔ جیل خانے، ہتھکڑیاں، پھانسی کے

تختے، مشین گنیں، بید زنی، لامٹی چارج، پولیس، فوج، انگریزی سامراج اپنے ظلم و جور کی یہ ساری پونجی جمع کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ وہی دن تھے جب لاہور میں سردار بھگت سنگھ اور مٹرنی۔ کے۔ دت کو موت اور عبور دیانے شور کی سزائیں سنائی جا چکی تھیں۔ اور پورا ملک انگریزی حکومت کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ مہاتما گاندھی نے ۱۲-۱۳ مارچ ۱۹۳۰ء کو ٹانڈی ضلع بھارت (کامپلیا وارڈ) میں نمک بنا کر انگریزی قانون کی خلاف ورزی کرنے کا اعلان کیا اور بہتر آدمیوں کا ہتھ لے کر اپنے مرکز سے روانہ ہوئے اور گرفتار کر لیے گئے۔ اس گرفتاری کے ساتھ ہی سارے ہندوستان میں نمک ستیہ گہ کی تحریک شروع ہو گئی۔

**امیر شریعت کا اعزاز** | پیشتر ازیں تحریر کیا جا چکا ہے کہ ہندوستان کی سیاسی اور مذہبی اہتری نے ملک کا امن و سکون تہرہ دیا کر دیا تھا اور یہ خانہ دیرانی اسلام کی ترقی کی راہ میں سنگ گراں تھی۔ ہندو کے طرز عمل نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے لیے شہادت کی موت تلاش کریں تاکہ ہندوستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو محفوظ رہ سکے۔ شہدائے سنگٹھن شارد ا ایکٹ، تحریک شاتم رسول کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے کمزور اور قلیل تعداد مسلمانوں کو اس قتلہ ہراساں کر دیا تھا کہ علمائے کرام کی اپنی ذمہ داریاں بھی مخدوش نظر آنے لگی تھیں۔ خطیب شہر کی اذان بے اثر ہو رہی تھی۔ صحن حرم اور مسجد کے مینار اپنی رونق کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ مارچ ۱۹۳۰ء کے آخری دنوں لاہور میں انجمن خدام الدین کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری نے فرمائی۔ وقت اور حالات کی موجودگی میں علمائے ہندوستان کا یہ تاریخی اجتماع تھا۔ دوسرے علمائے ساتھ شاہ جی بھی اس جلسے میں شریک ہوئے۔ ہزاروں کا اجتماع تھا۔ صدارتی تقریر ہو رہی تھی کہ شاہ جی جلسہ گاہ میں پہنچے۔ حضرت انور شاہ صاحب فرما رہے تھے،

» دین کی تقدیر بگڑ رہی ہے۔ کفر چاروں طرف سے ینخار کر چکا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو اپنے لیے ایک امیر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے لیے

میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کو منتخب کرتا ہوں۔ وہ نیک بھی ہیں اور بہادر بھی۔  
اس وقت تک انہوں نے قندہ شاتم رسول اور شاردہ ایکٹ کے سلسلے میں  
جس جرات اور دلیری سے دین کی خدمات انجام دی ہیں، آئندہ بھی ان سے  
ایسی ہی توقع ہے۔

یہ کہہ کر حضرت انور شاہ صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ شاہ جی کی طرف بڑھائے اور  
شاہ جی نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت انور شاہ صاحب کے ہاتھوں میں دے کر فرمایا:-  
”آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت نے میرے ہاتھ پر بیعت کی بلکہ حضرت نے مجھے  
اپنی خلائی میں قبول فرمایا ہے“

یہ جملے کہہ کر شاہ جی زار و قطار رونے لگے اور ان کا سارا جسم کانپنے لگا۔ اس کے بعد  
باقی علماء جی کی تعداد پانچ صدیقی اس وقت شاہ جی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان میں مولانا مظفر  
علی خاں، مولانا جلیب الرحمن لدھیانوی، مولانا احمد علی لاہوری، مہر فرست تھے۔

حصول زندگی میں مذہب ایسے جذبات کا مجموعہ ہے جس سے عقل انسانی احاطہ  
نہیں کر سکتی اور نہ ہی فکر و تدبیر میں ان کا وزن کیا جاسکتا ہے۔ جنون شوق ہی البتہ اس کسک  
کو محسوس کرتا ہے۔ پھر فرود کی آگ ہو یا دریا سے نیل کی موجیں وہ ان تمام خطرات کی دعوت  
پر لبیک کہتا ہے۔ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۰ء تک فرنگی حملہ داری میں کفر و ارتداد نے اصول اسلام  
داعی اسلام اور مسلمانوں پر وقت کے مختلف موڑوں سے جس طرح بے محابا سخت باری  
کی حضرت امیر شریعت سینہ سپر ہو کر ان سے ٹکرائے اور باراد ہوئے۔ حضرت انور شاہ  
صاحب اور دیگر پانچ صدی مقلد علماء کا سید عطا اللہ بخاری کو امیر شریعت کا اعزاز بخشنا انہی  
خدمات کا صلہ تھا اور ہنوز مستقبل کی کئی امیدیں ان سے وابستہ تھیں۔

امروہ میں جمعیتہ علمائے ہند کا اجلاس | ماتما گاندھی کی گرفتاری کے بعد ستیہ گرہ کی تحریک میں خاصا یہ جان پیدا ہو گیا اور سول نافرمانی کے

ذریعے رضا کار کارکن، رہنما جیل خانوں میں جا چکے تھے۔ مجلس احوار کے سوا باقی مسلم جماعتیں اور خاص کر جمعیتہ علمائے ہند جو نرورپورٹ میں اختلاف کے باعث کانگریس سے الگ ہو چکی تھی ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی آزادی وطن کی تحریکات میں کانگریس سے اشتراک کے حامی تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، الگ اپنی رائے رکھتے تھے۔ نرورپورٹ سے علیحدگی کے باعث علی برادران نے بھی جمعیتہ علمائے ہند سے الگ ہو کر وہ دوسرے گروہ کی تائید حاصل تھی۔

ہندوستان میں اس کشمکش نے مسلمانوں کو من حیث القوم کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ چنانچہ اول الذکر گروہ نے ۳- مئی ۱۹۳۰ء کو امر وہہ ضلع مراد آباد میں اپنا ایک اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمعیتہ علمائے ہند کا یہ تاریخی اجتماع تھا جس میں جمعیت کی آئندہ پالیسی پر غور ہونا تھا۔

امیر شریعت پنجاب میں سول نافرمانی کا آغاز کر چکے تھے۔ حکومت ان کے مقابل آچکی تھی اور گرفتاری کی تیاریوں میں تھی کہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے ہوان دونوں گرفتار ہو کر لدھیانہ جیل میں تھے، امیر شریعت کو کسی طرح جان بوجہ سے لدھیانہ بلا بھیجا۔ امیر شریعت لدھیانہ ڈسٹرکٹ جیل کے پرنٹنگ پریس من موبن کی موٹر میں لدھیانہ پہنچے اور نصف رات گئے پرنٹنگ پریس جیل کے ذریعے ہی مولانا حبیب الرحمن سے ملے وہیں فیصلہ ہوا کہ امیر شریعت راتوں رات پنجاب کی حدود سے نکل کر امر وہہ پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ جمعیتہ علمائے ہند کو مجبور کیا جائے کہ وہ بلا شرط آزادی وطن کی تحریک میں کانگریس سے اشتراک کرے۔ چنانچہ ۲- مئی کو امیر شریعت امر وہہ پہنچ چکے تھے۔

علی برادران کی جمعیتہ العلماء کا اجلاس بھی انہی تاریخوں پر دہلی میں ہو رہا تھا۔

جامعیتیں اپنی اپنی جگہ بصد تھیں۔ جمعیتہ علمائے ہند کے خلاف امر وہہ کے مخالفین نے مشہور کر دیا تھا کہ یہ ہندوؤں کی زر خرید ہیں، وہابی ہیں، نجدی ہیں، پیروں کے دشمن ہیں۔ انگریزوں سے بڑے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وغیرہ! اس پروپیگنڈے سے گمراہ ہو کر مقامی رضا کاروں نے جمعیت کے جلوس کا ارادہ ملتوی کر دیا لیکن امیر شریعت نے امر وہہ پہنچ کر حکم دیا:-

”آج ہم معنی ہیں۔ جلوس کے نکلے جانے پر ہمارا فتویٰ چلے گا۔ لہذا

امروہہ کے بازاروں میں جلوس نکلے گا اور اس کی رہنمائی ہم خود کریں گے“

جلوس عربی لباس میں جمعیتہ علمائے ہند کے رضا کاروں نے اونٹوں پر لکالا اور ہراول دستے میں امیر شریعت کا ادنٹ سب سے آگے تھا۔ یہ ۲۰ مئی کا واقعہ ہے۔ اسی رات امر وہہ میں امیر شریعت کی تقریر کا بھی اعلان کیا گیا جس میں مخالفین نے اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کیا۔ لیکن امیر شریعت کی تقریر جو بعد نماز عشاء شروع ہو کر رات تین بجے تک جاری رہی اس میں کسی کو لب کشائی کا موقع نہ ملا۔ دوران تقریر دو آدمی بے ہوش ہو گئے۔ یہ دونوں راتے میں اختلاف رکھتے تھے لیکن امیر شریعت کی تقریر سے ایسے متاثر ہوئے کہ ان کے اعضا شل ہو گئے۔

۳۔ مئی کو جمعیتہ علمائے ہند کا تاریخی اجلاس مولانا سید معین الدین اجمیری کی صدارت میں شروع ہوا جس میں مولانا حفظ الرحمن سوہاروی کی تجویز پر بحث شروع ہوئی کہ جمعیتہ علمائے ہند کو کانگریس کی تحریک سول نافرمانی میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اس تجویز کی تائید مولانا حسین احمد مدنی نے کی۔ اس قرارداد کی مزید تائید میں حضرت امیر شریعت نے تین دن (۱، ۲، ۳) تقریر کرتے ہوئے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔ اس تاریخی تقریر کے مختصر جملے ہاتھ لگے ہیں جو حسب ذیل ہیں:-

”علمائے کرام! خلافت کی تحریک کے بعد ایک اور وقت آیا ہے کہ ہم

عالم اسلام کے دشمن فرنگی سے جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا مگر اسلام کے غروب ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے ایسی جنگ لڑیں کہ وہ ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان انگریزوں کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیں اس سے نہ صرف عرب ریاستیں بلکہ تمام بلاد اسلامیہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔

میں ہندو کو بھی اپنا دوست قرار نہیں دیتا۔ لیکن ان کی دشمنی ساحلِ ہند تک محدود ہے مگر انگریز تو سمندر پار تک اسلام کا نقاب کر رہا ہے۔

اگر میں اپنے چھوٹے دشمن (ہندو) کے ساتھ مل کر انگریزوں کو ایسے اسلام کے بڑے دشمن کو شکست دے سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا کوئی متناہی نہیں ہوگا۔

علمائے کرام! اگر میرا بس چلے تو میں انگریزوں کو مارنے کے لیے سوڑوں سے اتحاد کرنے میں بھی گریز نہ کروں۔ کیونکہ اس کی زندگی سے اسلامی تہذیب و تمدن اور انسانیت کی موت ہو جائے گی اور اس کی موت سے اسلام اور مسلمان زندہ ہو جائیں گے۔ اسلامی ممالک میں اتحاد بڑھے گا۔ مسلمانوں میں روح جاگ اٹھے گی۔

جو مسلمان انگریزی فوج میں بھرتی ہو کر خانہ کعبہ پر گولی چلاتا ہے اور پیران پیر کے دھڑ پر حملہ آور ہوتا ہے وہ پھر اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے گا۔ لہذا میری درخواست ہے کہ آپ دین اسلام کے لیے مسلمانانِ عالم کی آزادی کے لیے کانگریس سے تعاون کریں۔

ہندو اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اس سے خائف ہو کر عالم اسلام کی امداد کو نظر انداز کر دیں۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان کو کھا جائے گا۔

حضرات ایسے قدر جھوٹ ہے۔ یہ مرغی کی ایک ٹانگ تو کھا نہیں سکتا وہ میرے ایسے مسلمان کو کیسے ہضم کر سکتا ہے۔

ہندو تہذیب یا اس کی دشمنی گنگا سے کاشی تک ہے لیکن اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جس کی بنیاد سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے آسمانوں کے آخری جانوں تک ہے۔ اگر اس بنیادی اور سچے مذہب کی حفاظت چاہتے ہو تو عیسائی حکمرانوں سے ہندوستان کو نجات دلاؤ۔

اپنی تقریر کے دوران امیر شریعت قرآن کریم سے سورہ بقرہ کے اکثر حصے تلاوت کرتے رہے۔ انہیں دن کی مسلسل بحث کے بعد ۶۔ مئی کو جمعیتہ علامتے ہند نے مولانا حفظ الرحمن کی قرارداد کو بغیر کسی اختلاف کے منظور کر لیا۔

**وارنٹ گرفتاری** | پنجاب پولیس امیر شریعت کے وارنٹ لے کر امر و بہرچی دہری طرف امر و بہر میں امیر شریعت نے جو تقریر کی قانون نے لے بھی پسند نہ کیا۔ چنانچہ ایک وارنٹ یہاں بھی تیار ہو گیا۔ اور امر و بہر کی پولیس آج کسی وقت امیر شریعت کو گرفتار کر لے گی۔ یہ سن کر مقامی کارکنوں نے ۷۔ مئی کو رات کو امیر شریعت کی تقریر کا اعلان کر دیا۔

پولیس اس خیال میں رہی کہ دن کی گرفتاری سے علوم میں جھگامہ نہ ہو۔ رات جب جلسے سے فارغ ہو کر قیام گاہ پر آئیں گے گرفتار کر لیں گے۔

جلسے کی ابتدائی تقریر مولانا احمد سعید دہلوی کی تھی لیکن لوگ امیر شریعت کی تقریر کے منتظر تھے۔ پولیس اپنی جگہ مطمئن تھی۔ رات دو بجے مولانا احمد سعید نے اپنی تقریر کے دوران گھڑمی دیکھ کر کہا:۔

”ادھو! کافی رات جا چکی ہے اور آپ لوگ سید عطاء اللہ شاہ کی تقریر کے انتظار میں ہوں گے چلو پھر سن لینا۔ اب میں جلسہ برخاست کرتا ہوں۔“



اس اعلان کے بعد پولیس امیر شریعت کی تلاش میں نکلی تو معلوم ہوا کہ وہ جلسہ شروع ہوتے ہی امر وہہرے نکل گئے تھے۔ اچھا آیا ہوا شکار ضائع ہوتے پر شکاری کس قدر شرمندہ ہوتا ہے۔۔۔ امر وہہرے پولیس پینہ اقدام کی ناکامی پر سخت شرمندہ ہوئی۔

دوسرے دن اطلاع ملی کہ امیر شریعت الہ آباد سوراج بھون میں پنڈت موتی لال نہرو کے ہاں مہمان ہیں۔ پنڈت جی امیر شریعت کی تقریر اور تلاوت قرآن کریم سے متاثر تھے۔ رات الہ آباد میں امیر شریعت کی تقریر ہو رہی تھی کہ پولیس نے چاروں طرف سے جلسے کا محاصرہ کر لیا۔ پولیس کی اس حرکت سے امیر شریعت کی گرفتاری کا شبہ ہوا تو دیکھتی نظروں نے جلسہ گاہ میں جو ایک منٹ پہلے ریشمی سے بچھ نور تھا تار ایک اندھیرا دیکھا اور اتنے میں معلوم ہوا کہ امیر شریعت اپنے میزبان کی کار پر الہ آباد سے جا چکے ہیں حالانکہ وہ سوراج بھون ہی میں مقیم تھے۔ دوسرے روز جب پولیس کو اطمینان ہو چکا کہ امیر شریعت ان کی حدود سے نکل گئے ہیں تب امیر شریعت پنڈت موتی لال نہرو کی ہلہری میں آگے پہنچے۔ جلسے کا اہتمام پیشہ سے ہو چکا تھا۔ پروگرام کے عین مطابق وقت پر امیر شریعت کی کار قلعہ کے میدان میں پہنچی۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں فرش راہ تھے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد حسب عادت جمع پر ایک طائرانہ نظر ڈالی تو ایک کونے سے آواز آئی۔

ہم نے اگر حکومت کے خلاف یا کانگریس کے حق میں کوئی بات کہی تو قتل کر دیے جاؤ گے۔

جیسے ہی امیر شریعت نے اس آواز کی طرف توجہ دی تو شہر کے قصاب ہاتھوں میں چھڑے اور کلھاڑیاں اٹھائے ایک کونے میں کثیر تعداد میں کھڑے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے جمع چیر کر امیر شریعت کے سامنے آکھڑے ہوئے۔ بوازیوں کی اس حرکت سے جلسے پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ خود پنڈت موتی لال نہرو پریشان ہوئے پولیس

بطور تماشائی کے سامنے کھڑی رکھیں دیکھتی رہی۔ اتنے میں امیر شریعت نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی اور سورہ بقرہ کے دو رکوع پڑھ کر ترجمہ کرنا چاہا لیکن مفسدوں نے اس کی بھی اجازت نہ دی۔ اسی کشمکش میں نصف رات بیت گئی۔ شاہی قلعہ اور تاج محل کی پر شکوہ عمارتیں مسلمان کے انحطاط کی ماندہ قابل غور دیواروں کو گرتے دیکھ کر اور خاموش ہو گئیں۔ جیسے جیسے رات بھگتی جا رہی تھی جیسے پرنیند کا غلبہ بڑھ رہا تھا۔ مگر امیر شریعت اور ان کے قاتل آمنے سامنے کھڑے تھے۔

ملک الموت کو ضد ہے کہ میں جاں لے کے طلوں  
سر بہ زانو ہے مسیحا کہ مری بات رہے

اس کھینچا تانی میں مربع سحر نے اذان دی اور امیر شریعت نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ رات کی موت پر طلوع سحر کا نمبر لاپتے ہوئے زندگی نے انگڑائی لی۔ اگرہ کے عوام نے رات بھر تماشہ دیکھا کہ قاتل درتول مقتل میں اپنی ذمہ داریوں کے تول تل رہے ہیں مگر نہ قاتل کے ہاتھ اٹھے اور نہ مقتول کی گردن بھکی۔

کلام اللہ اور امیر شریعت کی زبان انیسیم صبح کا ہی، ان سب نے قاتلوں کے عزائم پر نیند کا بوجھ ڈال دیا۔ امیر شریعت نے تقریر شروع کی جو دن کے نوبے تک جاری رہی۔ گو سامعین کی تعداد میں بدستور کمی آتی گئی، مگر محرز حق و باطل میں امتیاز کرنے والے عشاق بدستور لہجے رہے۔ اس دوران مخالفین کو زبان درازی کی جرأت نہ ہوئی تا آنکہ صبح سب کے سب امیر شریعت کے قدموں میں آگرے اور رات بھر کی گستاخیوں کی ہزار بار معذرت چاہی۔

قاتلانہ حملہ  
ملک کی متیہ گڑ کے دنوں حکومت کی طرف سے ہر ضلع کی پولیس کو اختیار تھا کہ جس مقرر کو چاہے گرفتار کر سکتی ہے۔ ہندوستان بھر کے سیاسی کارکن کچھ تو گرفتار ہو چکے تھے اور کچھ روپوش ہو کر تحریک کی رہنمائی کر رہے تھے۔ کانگریس کی سرگرمیاں خلاف آئین قرار دی جا چکی تھیں لیکن امیر شریعت کی سرگرمیاں گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے قابل اعتراض ہی نہیں، ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکی تھیں۔ اس وقت تک ہندوستان

اور صوبہ یوپی سے امیر شریعت کے خلاف بیس وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے اور انگریزی قانون کے محافظان پائے امیر شریعت کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ امر دہر اور اگرہ کی شکست کے بعد حکومت اور حکومت پرست نئے منصوبے باندھنے لگے جس سے وہ بڑھتے ہوئے طوفان کا راستہ روک سکیں۔

صوبہ یوپی سے فارغ ہو کر امیر شریعت یہی پہنچے۔ حالات فرنگی قانون سے بغاوت کا علم متاثرے کھڑے تھے۔ واقعات کے ہاتھ سامراج کے خلاف جلتی آگ کو اپنے دامن سے ہوا دے رہے تھے۔ ساحل سمندر سے مہم کوئی ہوئی موجوں نے آگے بڑھ کر امیر شریعت کے قدم لیے۔ رات بندر روڈ پر جلسے کا اعلان کر دیا گیا۔ لاکھوں کی آبادی کا شہر بندر روڈ پر اٹھ آیا۔ اگرہ کی شکست کا انتقام لینے خواجہ تاشان برطانیہ اپنے ارادوں سے مسلح جلسے کی صف اول میں جگہ سنبھال چکے تھے۔

قانون اور وقت جب ایک دوسرے سے متضاد ہوں تو دلوں سے بغاوت کا بیج نکلتا اچھی سے کی بات نہیں۔ آزادی ہند کی تحریک میدانوں سے نکل کر پہاڑوں اور سمندروں تک جا پہنچی تھی۔ بغاوت کے الاؤ اس قدر روشن تھے کہ برطانوی راج کا وجود خطرے کے قریب پہنچ چکا تھا! ایسے وقت میں برطانوی باغی کا یہی پہنچنا حکومت کے لیے ناپسندیدہ تھا۔ ٹیکریوں کا شہر جہاں چینیوں کے دھوکے، سمندر کی دستوں کو بادلوں کا فریب دیتے ہیں۔ یہاں کے انسان دولت کے انبار پر کھڑے ہو کر انسانیت کو بہت ادب پختی سے دیکھتے ہیں۔ کارخانہ امریکی بلند بالا چوٹیاں آدمی کو دیکھنے میں جہاں ہمیشہ فریب خوردہ ہوں وہاں انگریز کے خلاف بات کرنا اپنے نجات کو بگڑے ہوئے سانچے میں ڈھاندا ہے لیکن امیر شریعت نے یہی کے حوام کو خطاب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ انگریزی سامراج کے خلاف جلتی ہوئی بھٹی میں مزید ایندھن کا اضافہ ہو سکے۔

امیر شریعت نے خطبہ مسنونہ کے بعد تقریر شروع کی۔ وہ کہہ رہے تھے۔

”غلامی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر اس گناہ سے نکلنا ہے تو اس سے بہتر کوئی موقع نہیں کہ ہم انگریزوں کے خلاف پرامن لڑائی میں شریک ہو جائیں۔“

یہ فقرہ ابھی نامکمل تھا کہ مجمع سے کسی نے تیز دھار کی چھری امیر شریعت کی طرف زور سے پھینکی، جسے ایک نوجوان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے سینے پر روک لیا۔ یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ مقننوں نے دیر اندازہ زخمی نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ مقتول نورخان نامی کو ہٹ کار بننے والا اکیس سالہ نوجوان تھا۔ نورخان کی موت سے امیر شریعت کی جان بچی۔ لیکن نورخان کے خون سے غیر ملکی سامراج کا وقار آخڑ کو مٹ کر رہا۔ گو قاتل گرفتار نہ ہو سکا مگر تحقیق پر معلوم ہوا کہ چھری زور آور تھی۔ اس افراد فری میں امیر شریعت پولیس کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔

**گرفتاری** | اگرچہ اوربئی کے قاتلانہ حملوں کے بعد امیر شریعت نے اس ضلع کو چھوڑ دینا سب سے سمجھا۔ اور یہاں سے ایک ماہ کے پیدل اور سنگلاخ راستوں پر خاموشی سے سفر کرنے کے بعد کلکتہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہندوستان بھر میں ہر ضلع سے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے۔ حالات کے غیر مطمئن ہونے کے باعث امیر شریعت کے لیے ایک جگہ قیام غیر ممکن تھا۔ کلکتہ کے حوام جو ۱۹۰۵ء میں تقسیم بنگال سے انگریزوں کے خلاف دہشت پسندی اختیار کر چکے تھے، کانگریس کی تحریک سے بھی تعاون کر رہے تھے۔ امیر شریعت کے اس صوبہ میں دودھ سے سیاسی حالات کو اور جلال گئی۔ آپ نے دیہات، اقصیات اور شرعی حرام کو انگریزوں کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ آخر ۲۰ اگست ۱۹۲۳ء کو دیناج پور (بنگال) میں دفعہ ۱۰۸ کے تحت گرفتار کر لیے گئے۔ گو وارنٹ تو بہت تھے لیکن مقدمہ صرف ضلع علی پور کی ایک تقریر پر چلا۔ چونکہ کانگریس نے انگریزی عدالتوں سے عدم تعاون کا حکم دے رکھا تھا لہذا امیر شریعت عدالت کی تمام کارروائی سے الگ رہے۔ آخر ۲۰ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو چھ ماہ قید کی با مشقت سزا ہوئی۔

علی پور جیل سے آپ کو ڈوم ڈوم جیل میں تبدیل کر دیا۔ جہاں تمام ایام امیری گزارے۔

## باب سوم ————— ۱۹۳۰ء تا ۱۹۴۰ء

**ڈوم ڈوم جیل** | جیل خانہ اس متحرک دنیا میں ہونے کے باوجود اپنے آئین کی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ہر گوشے میں ظلم و انصاف کے درمیان ٹکراؤ رہتا ہے۔ اجنبی حکمران جیلوں میں سیاسی قیدیوں سے بعض ایسے ضابطے منواتے رہے جسے نہ ضمیر پسند کرتا تھا اور نہ ہی دماغ اس پر رضامند ہوتا تھا۔ ۲۰۔ اکتوبر ۱۹۳۰ء کو امیر شریعت جب ڈوم ڈوم جیل میں داخل ہوئے تو پرنٹنڈنٹ جیل سٹریٹسمن رجولجی میں جگالی دشت پسندوں کے ہاتھوں مارا گیا، نے امیر شریعت کو حکم دیا کہ وہ اپنے سر سے گانڈھی کیپ اتار دیں۔ یورپین پرنٹنڈنٹ کے مطالبہ پر امیر شریعت نے کہا:-

» اول تو یہ گانڈھی کیپ نہیں، ااجل کیپ ہے۔ اور یورپی کے اکثر شرفاے پھرتے ہیں۔ دوسرے میں اسے کلاس کا قیدی ہوں۔ مجھے اپنا ہر طرح کا ذاتی لباس پہننے کا قانوناً حق ہے۔«

پرنٹنڈنٹ نے جواب میں کہا:-

» علامتی رائے ہے کہ یہ گانڈھی کیپ ہے لہذا آپ اسے جیل کے اندر نہیں لے جا سکتے۔«

امیر شریعت:- » میں خود عالم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ دیوبند کے علماء عام طور پر یہی کیپ پہنتے ہیں لہذا میں اسے نہیں اتاروں گا۔«

یہ بحث تمام دن رہی۔ آخر امیر شریعت کا سیلاب جھوٹے۔ لیکن باہر کی

طوائف سزا کے اختتام تک وجہ نزع بنی رہی۔ جیل مینوں نے پریزنٹیشن جیل کو لامحدود اختیار سوئپ رکھے ہیں۔ تڑپتے ہوئے جانور کی طرح قیدی کا تماشہ تو کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بسمل کے زنجوں پر مرہم کارواج اس مقفل میں نہیں۔ امیر شریعت گوٹھی حیثیت کے قیدی تھے لیکن تھے تو قیدی۔ زنجیر سونے کی اور خوراک میں یا قوت استعمال ہوں تب بھی قفس قفس ہے۔ قفس ایشیاں نہیں ہوتا۔

دنیا کے شہ زنداؤن پہلوانی میں اپنے وقت کے رستم زان سے ملاقات  
 غلام حسین عرف گاما پہلوان نون والے کے آباؤ اجداد

سے قریباً ڈیڑھ صدی پیشتر مہاراجہ گلاب سنگھ والی کشمیر کے تشدد کے باعث کشمیر چھوڑ کر امرتسر آباد ہو چکے تھے۔ ان کے دادا بزرگ بخش پہلوان سیتا پور نامی ریاست کے سرکاری پہلوان تھے۔ اور ہمیں ان کی شادی ریاست کے نامی گرامی نون پہلوان کی رطکی سے ہوئی جس کے بطن سے غلام حسین نے جنم لیا۔ والد کی موت کے بعد غلام حسین کی پرورش ان کے نانا نون پہلوان کے سپرد ہوئی۔ چونکہ ابتدائی زندگی نون پہلوان کی گود میں پروان پر طھی تھی لہذا ساری زندگی گاماں پہلوان نون والے کہلواتے رہے۔

نسلی امتیاز کی آگ ایسے دلوں میں بھی روشن ہوتی ہے، جن کے نزدیک یہ امتیاز گناہ کی آخری منزل قرار دی گئی ہے۔ امیر شریعت اور رستم زان گاماں پہلوان کے نزدیک بظاہر کوئی ٹانڈا نہیں مٹا لیکن ڈوگرہ شاہی کے ستائے ہوئے کشمیری خاندان جب پنجاب آکر آباد ہوئے تو مہاجروں کا یہ ٹولہ ایک ایسی برادری اور خاندانی عصبيت اپنے ساتھ لایا کہ مقامی باشندوں کے رسم و رواج انہیں اپنے اندر جذب نہ کر سکے۔ امیر شریعت کشمیری اور رستم زان کشمیری دونوں امرتسر میں مقیم۔ اس کے علاوہ امیر شریعت کی یہ بانی (MS ۵۷۵) تھی کہ پڑیا گھر یا کرس میں شیر کو اور اکھاڑوں میں پہلوانوں کو دیکھنا بہت پسند کرتے۔ ان وجوہ کی بنا پر امیر شریعت اور رستم زان کے درمیان کئی رشتے مشترک تھے۔ چنانچہ جب کبھی فرصت ہوتی امیر شریعت

رستم زمان سے ملنے جاتے اور اکثر رستم زمان بھی لاہور یا امرتسر میں انہیں ملنے آتے۔

ان دنوں رستم زمان بنگال کے دورے پر تھے کہ انہیں امیر شریعت کے ڈوم ڈوم جیل میں قید ہونے کی اطلاع ملی۔ ملاقات کا قصد لے کر پہلوان جیل پہنچے تو امیر شریعت اور سپرنٹنڈنٹ کے درمیان چلبلیٹش اڑنے آئی۔ امیر شریعت کی خواہش تھی کہ پہلوان اندر آکر ملاقات کریں۔ اس میں ان کا احترام تھا۔ لیکن سپرنٹنڈنٹ کا تقاضا تھا کہ امیر شریعت عام قیدیوں کی طرح جینکے میں ملاقات کریں۔ اس میں امیر شریعت کی توہین تھی کہ وہ اسے کلاس کے شاہی قیدی تھے۔ سارا دن اسی کھینچا تانی میں گزر گیا۔ آخر سپرنٹنڈنٹ کو ہارمانی پڑی اور رستم زمان نے جیل کے اندر امیر شریعت سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بنگالی قیدیوں نے خواہش کی کہ پہلوان کپڑے اتار کر اپنے بدن کی نمائش کریں۔ قیدیوں کے تقاضے پر دونوں سکرائے اور رستم زمان نے لنگوٹا کے اپنے جسم کی نمائش کی تو بنگالی قیدیوں نے بے اختیار کہا — ”ہے مانس! (ارے یہ انسان)

امیر شریعت نے ایام امیری ضائع نہیں کیے بلکہ سوشل کما زامی بنگالی قیدی سے آپ نے انگریزی پڑھنی شروع کی اور سوشل کما زامی امیر شریعت سے قرآن کریم پڑھتا رہا۔ متبادل تعلیم کی دو نشستیں ہوتیں۔ صبح سوشل کما زامی قرآن کریم پڑھتا تھا اور شام کو امیر شریعت انگریزی پڑھتے۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔

۱۹۳۱ء میں ”کاندھی اردن پکیٹ“ کے تحت نمکین ستیہ گڑھ کی لڑائی بند کر دی گئی۔ تمام سیاسی قیدی رہا کر دیے گئے۔ امیر شریعت بھی اسی موقع پر رہا ہوئے۔

بہادر بہر حال بزدل نہیں ہوتا۔ امیر شریعت کے چچا سید معتم شاہ پولیس آفیسر تھے اور ان دنوں کلکتہ میں تعینات تھے۔ جیل سے رہا ہو کر امیر شریعت چند دنوں کے لیے انہی کے ہاں ٹھہرے تو خطرات نے احاطہ کر لیا لیکن دیندار آفیسر نے انگریز کے باغی کو

پناہ دینے میں کسی قسم کی تاخیر محسوس نہ کی۔ قانون اور فرانس کے درمیان دل و دماغ متصادم رہے لیکن خاندانی شرافت نے عہد شکنی کے لیے پیشانی کو شکن آلود نہیں ہونے دیا۔

مجلس احوار کی تشکیل تو ۱۱ جولائی ۱۹۳۱ء کو اسلام آباد کالج لاہور کے جینیہ ہال میں احوار کانفرنس کا پہلا اجلاس مولانا حبیب الرحمن لہیہانومی کی صدارت میں

مستعد ہوا جس میں امیر شریعت چودھری افضل حق، خواجہ عبدالرحمن قازی، مولانا ظفر علی خان شیخ حام الدین، مولانا محمد داؤد غزنوی، مولانا منظر علی انظر اور دوسرے مسلمان رہنما شامل ہوئے۔ اس اجلاس کی آخری قرارداد میں جداگانہ انتخاب کی پرزور حمایت کی گئی جس سے کانگریس اور ہندو پریس خصوصاً سوس باختہ ہو گئے۔ اجلاس کے اختتام پر پنجاب بھر میں احوار کے دفاتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کام حضرت امیر شریعت کے سپرد ہوا اور آپ اپنے رفقاء کو لے کر اس پروگرام کو سرانجام دینے کے لیے پنجاب کے دورہ پر روانہ ہو گئے۔

اسی سفر کے دوران پنجاب کی حدود سے نکل کر جب امیر شریعت دہلی اور یوپی کے اضلاع میں پہنچے تو گاندھی جی

گاندھی جی سے ملاقات کی لندن روانگی کا پتہ چلا۔

گاندھی جی دوسری گول میز کانفرنس میں شمولیت کے لیے لندن روانہ ہونے والے تھے۔ احوار رہنماؤں کی رائے تھی کہ انگریز کی میز پر بیٹھ کر ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ غلام ملک کالیڈر نہیں بلکہ غیر ملکی حکومت کا اقتدار ہی کر سکتا ہے۔

۲۔ اگست ۱۹۳۱ء کو گاندھی جی جب بمبئی پہنچے تو امیر شریعت مولانا حبیب الرحمن کے ساتھ انہیں ملنے کے لیے بمبئی پہنچ گئے۔ آپ نے گاندھی جی کو گول میز کانفرنس میں شمولیت سے منع کیا۔ گاندھی جی نے احوار رہنماؤں کی رائے کو وزن تو دیا لیکن لندن جانے کا ارادہ ترک نہ کیا۔

میکلینگن کالج کا حادثہ ستمبر ۱۹۳۱ء کے آخر کا واقعہ ہے کہ میکلینگن کالج لاہور کے انگریز پرنسپل مشروٹیکیر نے مسلمان طلباء کی دل آزاری کرتے ہوئے



کلاس میں پمیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر ایسے رنگیک جملے کیے جس سے مسلمان طلباء آپ سے باہر ہو گئے اور کالج میں سٹرائیک کر دی۔ محمدن ہال بیرون موچی دروازہ میں طلباء نے مرکزی کیمپ بنالیا اور پرنسپل کے خلاف باقاعدہ ایچی ٹیمیں شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں طلباء کا وفد شاعر مشرق علامہ اقبال کی قیامگاہ پر پہنچا۔ واقعات سن کر ڈاکٹر صاحب نے انہیں اجازت دینا ہواؤں سے ملنے کا مشورہ دیا۔

جبئی سے واپسی پر دفتر مجلس انوار میں امیر شریعت گاندھی جی سے ملاقات کی رپورٹ اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ طلباء کا وفد انہیں ملنے کے لیے آن پہنچا۔ حالات اور واقعات سے تحریک کے زیادہ پھیلنے کا احتمال ہوا۔ اسی رات موچی دروازہ کے باغ میں امیر شریعت کی تقریر کا اعلان کر دیا گیا۔ لاکھوں کا مجمع تھا۔ حکومت پنجاب انگریز پرنسپل کی پشت پناہ تھی۔ رات دس بجے امیر شریعت نے تقریر شروع کی اور دو بجے رات تمام مجمع کو ساتھ لے کر راتوں رات میکلیگن کالج کے دروازے پر پہنچ کر ڈیرہ ڈال دیا۔ صبح ہونے تک سارا کالج پور میکلیگن کالج کے دروازے پر تھا۔ پولیس کے انتظامات کے باوجود حالات ہر آن بگڑتے جا رہے تھے۔ لیکن امیر شریعت میرا اپنے رفیق مولانا محمد داؤد خزنوی، مولانا جلیب الرحمن لدھیانوی، حوام کوہر قسم کی قانون شکنی سے روکتے رہے۔ گرفتاریاں شروع ہوئیں تو مولانا محمد داؤد خزنوی اور مولانا احمد علی گرفتار کر لیے گئے۔ دن بھر کی ہنگامہ آرائی نے شام ہونے تک جھگڑے کو اس قدر مختصر کر دیا کہ پرنسپل نے طلباء سے معافی مانگی اور کالج سے خارج شدہ طلباء دوبارہ داخل کر لیے گئے۔ گرفتار ہونے والے رات ہونے تک رہا کر دیے گئے۔ اس طرح حضرت امیر شریعت اور جماعت کی ایک دن کی ہمت نے انگریز پرنسپل کو سچاڑ دیا۔

تحریک کشمیر میں مجلس انوار کی شرکت کا سبب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تحریک کا مختصر پس منظر سمجھ لیا جائے۔

تحریک کشمیر

ملا جہ ہری سنگھ والی کشمیر نے ریاستی نظم و نسق سنبھالتے ہی غریب عوام اور کسانوں پر ٹیکسوں کی بھرا کر دی۔ مظلوم طبقہ کی کمائی کی ساری پونجی مایانہ اور آریانہ کی نظر ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ کشمیر کے فریب عوام موسم سرما میں کشمیر سے نکل کر پنجاب کے میدانی علاقوں میں محنت مزدوری کے لیے پھیل جایا کرتے تھے۔ ان حالات میں عوام نے اپنے جائز حقوق منوانے کے لیے باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا۔ انہی دنوں ریاست جوں میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس سے ہندو حکمران اور مسلمان رعایا کے تعلقات خاص طور پر ابھ گئے اور آخر کار یہ تحریک ریاست سے باہر تک پھیل گئی۔

حادثہ یہ تھا کہ جوں میں ریاستی پولیس کا ایک مسلمان سپاہی اپنی بیڑک میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ بغیر کسی نزاع کے ایک ہندو دنیا سی نے سپاہی کے ہاتھ سے قرآن کریم چھین کر زمین پر دسے مارا۔ کتاب اللہ کی توہین نے تمام نظم و نسق کو پریشان کر دیا۔ عوام، کسان اور خصوصاً مسلمان حکومت کشمیر کے خلاف نبرد آزما ہو گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ شیخ عبداللہ کشمیری عوام میں لیڈر کی حیثیت سے روشناس کرائے گئے۔ ان کی تقریروں نے کشمیری عوام کو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا کر مہاراجہ کے سامنے لاکھڑا کیا۔ اس تصادم میں حکومت کی طرف سے نئے مسلمانوں پر گولیاں چلیں اور خون بے گناہ سے دیا تے جہلم کی بھری ہوئی موجیں کناروں سے ٹکرائے گئیں۔

ایسے حالات نے پنجاب کے مسلمان کو بھی چونکا دیا اور پریس نے حالات کو بیدار کرنے میں خوب معاونت کی۔ انہی دنوں سر فضل حسین نے شملہ میں چند رجعت پسند مسلمانوں کے تعاون سے کشمیر کمیٹی کی بنیاد رکھی جس کے صدر قادیان کے مرزا بشیر الدین محمود اور سیکرٹری عبدالرحمان دلد (مرزائی) کو نامزد کیا۔ میاں صاحب اس کمیٹی کے نگران مقرر ہوئے۔ کشمیر کمیٹی کی تشکیل کے ساتھ ہی مرزائی خلیفہ نے سرکار پرست مسلمان رہنماؤں کو اس کمیٹی کا رکن نامزد کر دیا۔ چنانچہ علامہ سر محمد اقبال کو بھی اس کمیٹی میں شامل کر لیا گیا۔

احرار نہاؤں کو جب اس ڈرامے کا علم ہوا تو وہ علامہ اقبال سے ملے۔ انہیں حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کی وجہ سے نہ صرف کشمیر کا تیس لاکھ مسلمان مرزائی ہو جائے گا۔ بلکہ بیرونی ممالک کے مسلمان بھی اس فریب سے متاثر ہوں گے۔ لہذا آپ کو کشمیر کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دینا چاہیے۔ چنانچہ دوسرے ہی روز برکت علی محمد نال میں کشمیر کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس میں تحریک کشمیر کی ساری ذمہ داری مجلس احوار کے سپرد کر دی گئی۔ مجلس احوار کی ورکنگ کمیٹی نے اپنے لاہور کے اجلاس منعقدہ ۱۸۔ اگست میں تحریک کشمیر کو باضابطہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ انگریز، ریاستی حکام اور مرزائی حالات سے ہر گھڑی باخبر تھے۔ مجلس احوار کے فیصلے کی روشنی میں آنے والے نئے طوفان کا خوف دلا کر انگریز نے اپنے بااعتماد آدمی ہرشن کول کو کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا۔

**دند کی روانگی** | اوائل اکتوبر ۱۹۳۱ء کو پودھری افضل حق، مولانا مظہر علی اظہر اور خواجہ غلام محمد دند کی صورت میں کشمیری حکام سے بات چیت کے لیے جموں روانہ ہوئے۔

انگریز اور مرزائی اپنی اپنی اوت سے جھانک رہے تھے کہ احوار نہا سرنگر پہنچے۔ ڈوگر شاہی منتظر تھی کہ دند کے ارکان کو کسی شیشے میں آنا سکیں۔ بسین راج محل کا تمام جاہ جلال اپنی امیدوں میں ناکام رہا۔ احوار نہاؤں کا ضمیر بخیر نے والے شاہی سوداگر گداؤں کی طرح ملاقات کو اتے کر دیا۔ جہلم کی موجوں پر تیرنے والا شاہی بوٹ ہر روز دیکھتا کہ شاہی فقیروں سے شکست کھا رہی ہے۔ آخر دند ناکام لوٹ آیا۔

**شاہجی کی گرفتاری** | دند کے کشمیر جانے سے پیشتر حضرت امیر شریعت نے پنجاب کو اپنی تقریروں سے گرامر میدان کارزار کے لیے تیار کر لیا تھا۔ احوار کے سرخ پوش جوش کشمیر کی سرحدیں عبور کرنے کے لیے حکم کے منتظر تھے۔ دند کی ناکام واپسی پر ڈوگر شاہی کی سینگین اور برطانوی جیل خانے مجاہدین کے انتظار میں تھے۔

مجلس احوار منور سال نادرمانی کے نعتیے سوچ رہی تھی کہ ۱۵۔ اکتوبر ۱۹۳۱ء کو

امپرشپ لیت کو دہلی میں دفتر ۱۲۲ء کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تحریک کشمیر کے ڈکٹیٹر اول مولانا منظر علی انظر نے ۱۸۔ اکتوبر کو وائسرائے ہند کے نام حسب ذیل مکتوب تحریر کیا۔

”عام طور پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ سید عطا اللہ بخاری کے خلاف جو دفعہ ۱۲۲ء لگائی گئی ہے۔ اس میں مرزا بشیر الدین محمود کا بھی ہاتھ ہے۔ میری اطلاع ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے خلاف کارروائی کرنے کی منظوری دینے کی ذمہ دار صرف حکومت دہلی ہی نہیں ہے۔

بہر حال حکومت ہند اور حکومت پنجاب کی پوزیشن خواہ کچھ ہی ہو (عام ناثر یہی ہے کہ حکومت پنجاب نے دوسری پارٹی (مرزائی) کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پارٹی کو ہدف بنایا ہے۔

ہماری جماعت (احرار) کے لوگ کسی سیاسی مقصد کے حصول کیلئے جیل جانے سے نہیں ڈرتے۔ لیکن ایک دوسری جماعت کی خاطر ہماری جماعت کو تختہ مشق بنانا کسی طرح کوئی سازگار فیضا پیدا نہیں کر سکتا۔

سرکاری اعلان یا کسی دوسرے ذرائع سے اس امر کی تردید کافی نہ ہوگی اگر حکومت رائے عامہ کو مطمئن کرنا چاہتی ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مقدمہ واپس لے لے۔ اور اگر کسی صوبے کی حکومت سید عطا اللہ شاہ کو مجبوس زنداں کرنے کی مشاق ہے تو وہ اس کے لیے دوسرے مواقع تلاش کر سکتی ہے۔

مولانا منظر علی انظر کے اس مکتوب کے جواب میں حکومت خاموش رہی اور اس مقدمہ میں امپرشپ لیت کو تیس سال قید با مشقت کی سزا دی گئی۔

## بورسل جیل

نومبر ۱۹۳۱ء میں مجلس احرار نے کشمیری عوام کی امداد کے لیے ریاست پر  
 یلغار شروع کی۔ جہلم سے میرپور، راولپنڈی سے کوہاڑا، سیالکوٹ سے  
 سمیت گڑھ کے راستے احرار رضا کار ریاست کی حدود میں داخل ہوتے۔ انہیں یا تو گرفتار  
 کر لیا جاتا یا وہ ریاستی حکام کے ظلم و جور کا نشانہ بن کر زخمی ہوتے۔ اس طرح تقریباً ۱۰ ماہ  
 کی مسلسل لڑائی کے نتیجے میں چالیس ہزار مسلمان جیلوں میں گئے اور بائیس نوجوانوں نے  
 جام شہادت نوش کیا۔ اجنبی حکمران اس دوران تماشائی بنا رہا۔ مگر ڈوگر شاہی کا خیر ڈھیلا  
 پڑ چکا تھا۔ لہذا اس نے ایک طرف انگریزی حکومت اور دوسری طرف جمعیت علمائے  
 ہند کو درمیان میں لا کر احرار سے گفتگو کرنا چاہی اور اس سلسلہ میں احرار و کنگ کمیٹی کے  
 تمام ممبران کو پنجاب کی مختلف جیلوں سے لاہور بورسل جیل میں منتقل کیا گیا، جن میں  
 حضرت امیر شریعت بھی شامل تھے۔

دہلی سے مولانا مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید ناظم جمعیت علمائے ہند حکومت  
 کی دعوت پر احرار رہنماؤں سے صلح کی گفتگو کے لیے لاہور پہنچے۔ دونوں حضرات  
 صبح نو بجے جیل ٹرین لائے اور چار بجے شام واپس چلے جاتے۔ آخر ایک ہفتہ  
 کی ناکام گفتگو کے بعد جمعیت علمائے ہند واپس چلے گئے۔ حالات نے نئی کر دہلی  
 صدارت کی درخواست پر انگریزی حکومت نے احرار رضا کاروں کی گرفتاریاں شروع  
 کر دیں اور ریاست کے تمام قیدی انگریزی جیلوں میں تبدیل کر دیے گئے۔

حضرت امیر شریعت ان دنوں بورسل جیل کی بارڈر لائن میں تھے۔ جیل کا یہ  
 حصہ دس سال سے کم عمر بچوں کے لیے مخصوص ہے، جو معصوم احرار رضا کاروں سے  
 بھرا ہوا تھا۔ امیر شریعت ان بچوں کے درمیان رات دن کھیل کود میں مصروف  
 رہتے تاکہ انہیں گھراؤ والے دین کی یاد نہ تائے۔ اس طرح ایشیا کے عظیم خطیب اور  
 ہندوستان کے سیاسی اور مذہبی رہنما نے جس کی ایک لاکھ ایلوان برطانیہ میں زلزلہ پیدا

کردیتی تھی، جماعت کے بلند مقاصد اور کشمیری حوام کی غلامی کے خلاف قیہ خانے کو کارِ پغلاں بنا دیا۔

انگریز اور مہاراجہ کے سمجھوتے کے تحریک اوزار کا رخ براہ راست برطانیہ کی طرف موڑ دیا۔ اب ہندوستان میں کانگریس اور اوزار کی تحریکیں ایک ساتھ چلنے لگیں۔ نیز امیر شریعت اور دوسرے اوزار رہنماؤں کو نیوسٹرل جیل متان تبدیل کر دیا گیا۔

کانگریس کی جدید سول نافرمانی کے باعث جمیہ علماء اور کانگریس کے رہنما جو پہلے سے متان جیل میں موجود تھے، اب ان میں اوزار رہنماؤں کا بھی اضافہ ہو گیا۔ ان مذہبی اور سیاسی شخصیتوں کے باعث جیل کا احاطہ شب و روز علمی مجالس میں منتقل ہو گیا۔ ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۲ء تک یہ ردئیں جاری رہیں۔ جیل کے پرنسٹنٹ سبجکٹس اور فضل الدین جو انگریزی کے علاوہ جوہمی، لٹری اور ایرانی زبان پر قدرت رکھتے تھے بھی ان علمی محفلوں میں برابر کے شریک رہتے اور مستفید ہوتے۔

ایک ماں کا ایشار | یوں تو ہزاروں ماں نے اپنے بچوں کو تحریک کشمیر کے لیے اپنے ہاتھوں کفن بردوش روانہ کیا لیکن بورسٹل جیل لاہور میں ملاقات

کے دوران جب ایک ماں اپنے بچے کو تسلی دے کر اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی مگر شریعت نے جو ملاقات کے وقت پاس کھڑے تھے نے بچے کی ماں سے کہا

”بچے سے پوچھو اسے کوئی تکلیف تو نہیں؟“

ماں نے مسکراتے ہوئے ابدیدہ لگا ہوں سے کہا:

”دیتا! میں تے اپنا گودی دا پترو دی تیرے حوالے کرن آئی آں“ (دشاہ جی! میں

تو اپنی گود کا بچہ بھی تمہارے سپرد کرنے آئی ہوں)

جواب میں امیر شریعت نے ماں کے ان جذبات کو اسلام کے لیے زندہ رہنے

کی دعا فرمائی۔

جیل سے رہائی اور سکھوں سے ہلکے اور دوسری گول میز کانفرنس کی ناکامی کے بعد  
گاندھی جی اور دوسرے رجحیت پسند ہندو

اور مسلمان رہنماؤں نے برطانوی وزیر اعظم مسٹر ریمزے میکڈونلڈ کو اپنا ثالث مقرر کر لیا۔ برطانوی  
وزیر اعظم نے ۱۶۔ اگست ۱۹۳۲ء کو اپنا ثالثی فیصلہ سناتے ہوئے تمام ہندوستان میں مخلوط  
انتخاب رائج کرنے کی تجویز دی۔ اس ثالثی فیصلہ کی تفصیلات میں پورے ملک میں مخلوط  
انتخاب، سندھ کی علیحدگی، اچھوتوں کے لیے باجیثیت ایک قوم جداگانہ انتخاب کا حقیقی  
ادری پنجاب و بنگال میں مسلم اکثریت کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔

اس ثالثی فیصلہ سے سکھ بے حد برہم ہوئے۔ چنانچہ اکتوبر میں مسٹر تارا سنگھ نے  
تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ:

”اگر پنجاب میں مسلم راج قائم کرنے کی طرح ڈالی گئی تو ہم خون کی ندیاں بہادیں گے“

سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے اس قسم کی ہنگامی محفلیں گرم تھیں کہ ۲۰۔ اکتوبر  
۱۹۳۲ء کو امیر شریعت ملتان نیو سنٹرل جیل سے اپنی میعاد اسیری گزرنے پر رہا کر دیے گئے  
ان دنوں دیگر حواری رہنما بھی پیشتر ازیں رہا ہو چکے تھے۔ سکھوں کی مسلسل اشتعال انگیزی  
کے باعث پنجاب کا مسلمان حالات سے مقابلہ کے لیے تیار تھا کہ مجلس احوار نے سکھوں  
سے نبرد آزما ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جماعت نے حضرت امیر شریعت کو منتخب کیا کہ ایک بہت  
بڑے اجتماع میں سکھوں کے چیلنج کا جواب دیں۔ چونکہ امرتسر سکھوں کا مرکزی شہر تھا اس  
لیے قصہ زمین برملز میں کے مہدلاق اس شہر کا انتخاب کیا گیا۔ اس اجتماع کی تشریح ایک  
ہفتہ پیشتر سے شروع کی گئی۔ پنجاب کے اکثر شہروں سے مسلمان امرتسر پہنچ چکے تھے۔  
عید گاہ (بیرون رام باغ) کے وسیع میدان میں لاکھوں مسلمانوں کا سمندر اٹھ آیا کہ عید گاہ کو  
اپنی تنگ دامن کا گلہ کرنا پڑا۔ ہواؤں نے اپنے دامن سنبھال لیے ادھوپا لے نمازت  
کم کر دی، آسمانوں کے ستارے سورج کی کرنوں سے جھانکنے لگے۔ راج اوقت قافلہ

کے محافظ آتشیں اسلحہ سے لیس ہو کر دوسرے حکم کا انتظار کرنے لگے۔  
 نماز عصر کے بعد امیر شریعت اپنے اصحاب کے جلو میں عید گاہ پہنچے۔ خطبہ مسنونہ  
 کے بعد مسلم نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

”غیرت حیران ہو کر آج نوجوان مسلمان کا منہ تکتی ہے کہ یہی اس قوم کے بے  
 غیر فرزند ہیں جن کو انگلیوں پر گنی جاتے جالی قوم خون کی دھمکیاں دے رہی ہے۔  
 جس قوم نے دجلہ اور فرات کو اپنے پاؤں تلے روندنا اور تلواروں کے درمیان  
 کھڑے ہو کر موت کی زندگی کی دعوت دی۔“

بے خبر نوجوان! ہوش سنبھال اور عقل کے ناخن لے۔ سکھوں سے  
 کہہ دو کہ ہمیں اپنی پایاب ندیوں سے نڈھرائیں وہم تو خون کے بحر بیکراں  
 میں گھوڑے دوڑانے کے عادی ہیں۔

آخر میں سکھوں سے خطاب کرتے ہوئے صرف دو فقرے کہے۔

”مسکھ صاحبان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ  
 ہاتھوں سے دی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑے اور جس قوم کے سہارے  
 وہ مسلمان کو خون کی ندیاں بہا دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں وہ ہندو  
 قوم تو نو سو سال تک ہمارے گھٹنوں تلے رہی ہے۔“

امیر شریعت کی یہی تقریر امرتسر کے بعد سارے پنجاب میں گونجی۔ جس سے سکھوں  
 کی لٹکار دم پڑ گئی۔ آخر گوردوان پر بندھک کیٹی لاہور کے ذمہ دار کن سردار پر تپ سنگھ  
 ایڈوکیٹ نے امیر شریعت کی تقریروں کے بعد اپنے پریس بیان میں کہا:-

”مسلمان دوستوں نے ہماری بات کا غلط مفہوم لیا ہے۔ ہمارا جھگڑا تو  
 تو صرف حکومت اور کانگریس سے ہے۔ مسلمانوں سے ہماری کوئی لڑائی  
 نہیں۔ سکھ اپنے حقوق کے لیے صرف حکومت برطانیہ سے ٹکرائیں گے۔“



امیر شریعت کو زہر دیا گیا | مئی ۱۹۳۳ء میں امیر شریعت کو مدرسہ عربیہ کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے لیے شجاع آباد جانا پڑا۔ خان محمد انور خاں کی حویلی میں قاضی احسان احمد کی زیر صدارت امیر شریعت نماز ظہر کے بعد تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو قاضی صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

”پان نہیں کھلاؤ گے؟“

قاضی صاحب نے حاجی نور محمد کو پان لانے کے لیے کہا۔ حاجی صاحب تعین ارشاد کے لیے چلے ہی تھے کہ برابر کھڑے ایک آدمی نے کہا۔

”میں شاہ جی کے لیے پان لے آیا ہوں۔“

یہ کہہ کر پان حاجی نور محمد کے ہاتھ میں دے دیا اور انہوں نے قاضی صاحب کو دیا۔ امیر شریعت نے تقریر کے دوران جب یہ پان منہ میں رکھا تو ایک منٹ کے بعد کہا۔

”قاضی جی زہر دے دیا۔“

یہ کہتے ہوئے پان متوک دیا اور قاضی جی نے اسے اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ آن کی آن میں امیر شریعت کے پھرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا اور قاضی صاحب کا ہاتھ بھی پھول کر ڈبل روٹی کی طرح ابھرا۔ تقریر سمیٹ لی اور جلسہ ختم کر دیا گیا۔ اس واقعہ نے شہر کے عوام کو پریشان کر دیا اور قاضی جی کا تمام گھر پاگل ہو گیا۔ ڈاکٹر چھمن داس ریٹائرڈ سول سرجن نے امیر شریعت کو دیکھ کر تشخص کی کہ انہیں واقعی زہر دے دیا گیا ہے۔

اس وقت پیاز کا پانی بڑی مقدار میں تیار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر نے اس پانی سے دوا دینا شروع کی تو جسم سے زہر کا رنگ پشاب اور پانخانے کے راستے خارج ہونا شروع ہوا۔ پیاز کے مسلسل استعمال سے تین بجے تک جسم کا تمام زہر خارج ہو گیا۔ اس دوران ڈاکٹر چھمن داس امیر شریعت کے سر ہانے بیٹھے رہے۔ آخر ساڑھے تین بجے

رات ڈاکٹر نے قاضی صاحب کو مبارک باد دی کہ اب شاہ جی خطرے سے باہر ہیں۔  
 زہر دینے والے کو پولیس صبح ہونے تک گرفتار کر چکی تھی۔ اس کا نام سید عنایت اللہ  
 شاہ پادلاہیت شاہ تھا۔ بہر حال جب اسے امیر شریعت کے سامنے لایا گیا تو امیر شریعت نے  
 اپنے زہر دینے والے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ۔۔

» بھائی میں نے آپ کا کیا نقصان کیا تھا؟

پھر پولیس افسر سے کہا

» میں اس سے کوئی انتقام لینا نہیں چاہتا۔ خدائے تعالیٰ اسے معاف فرمائیں

آپ بھی معاف کر دیں «

اگر ملزم پر قانون گرفت کرتا تو ممکن ہے کہ اس کا جرم کا انکشاف ہوتا مگر امیر شریعت  
 کی بلند حوصلگی نے یہ راز نہ کھلنے دیا کہ زہر کیوں دیا گیا تھا اور اصل مجرم کون تھا۔  
 اگر وہ اور بھئی کے بعد امیر شریعت پر قتل کا یہ تیسرا حملہ تھا۔ گوجھلوں کی نوعیتیں  
 مختلف رہیں مگر مقصود میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ قاتل اور مقتول بھی ایک دوسرے سے  
 اوجھل نہیں ہوئے۔ چونکہ موت و حیات کے مابین انسانی ارادے کو کوئی دخل نہیں اس لیے  
 موت کا ہر ادھچکا دار زندگی کی راہ میں مرگ ناگہاں ثابت نہ ہو سکا اور نہ ہی امیر شریعت  
 کے مقاصد میں کوئی دیوار حائل ہو سکی۔

پندرہت کرپا رام بھرجپاسی | انہی دنوں میر پور کشمیر کی انجمن اصلاح المسلمین کے سالانہ  
 اجلاس میں امیر شریعت کو شمولیت کی دعوت ملی جسے انہوں

نے منظور کر لیا۔ لیکن ریاستی حکام اور برطانوی سامراج کسی طرح بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ  
 امیر شریعت کشمیر کے کسی حصے میں داخل ہوں۔ چنانچہ اگست ۱۹۳۳ء کے دوسرے ہفتے کی  
 صبح کوچہ دگر یزاں امرتسر ضلع پولیس کے محاصرہ میں تھا۔ پولیس افسران امیر شریعت سے ایک  
 نوٹس کی تعمیل کرنا چاہتے تھے۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ امیر شریعت کشمیر کی حدود میں داخل نہ ہو سکیں۔

پولیس اپنے ارادے میں ایوس ہوئی کیونکہ امیر شریعت گھر نہیں تھے۔ اس ناکامی کے بعد پنجاب بھر کے تمام پولیس ایٹیشنوں کو مطلع کر دیا گیا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کو کسی صورت اور کسی راستے سے بھی کشمیر کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ نیز تمام ریوے ایٹیشنوں، لاریوں کے اڈوں اور دوسرے پیدل پہاڑی راستوں پر ضخیم پولیس تعینات کر دی گئی اور اس طرح امیر شریعت کے کھوج میں پوری مشینری حرکت میں آگئی۔ امیر شریعت کو حکومت کے اس ارادے کی اطلاع ضلع جالندھر کے ایک گاؤں میں دی گئی۔

انسان اگر اپنے فزم میں محض ہو تو آسمانوں کی بلندیاں اس کے قدم لیتی ہیں بتارے فرشِ راہ ہوتے ہیں۔ سورج کی کرنیں اسے چاند کے ہالے تک لے جاتی ہیں لیکن حوصلے کی پستی غصوں کی مزاج تک پہنچ کر بھی انسان کو اس کی شکست سے نہیں بچا سکتی۔ تمام آئینی یا نذیریوں کے باوجود امیر شریعت نے اپنے وعدے پر میر پور پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس اس یقینی پر کہ امیر شریعت اب گھر نہیں آئیں گے اس سوچ پر سے غافل ہو گئی۔ اسی رات بارہ بجے امیر شریعت گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ میر پور سے کوئی صاحب آپ کو لینے آئے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ محلہ کی مسجد میں سو رہے ہیں۔ امیر شریعت نے انہیں بیدار کیا اور صبح چھ بجے کی گاڑی روانگی کا فیصلہ کر کے وہیں سو گئے۔ رات چار بجے ایٹیشن کے ایک ویران کو لے میں جا

پہنچے۔ نیز ساتھی سے کہہ دیا کہ تم گاڑی میں میرے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اگر مجھے آواز دینے کی ضرورت ہو تو شاہ جی کی بجائے پنڈت کپارام برہمچاری کہہ کر آواز دینا۔ ہندی میں پنڈت کے معنی اونچی ذات کے ہیں اور مسلمانوں کے ہاں سید اسرار کے معنی میں مستعمل ہے۔ کہ پابندی میں عطا کرنے کو کہتے ہیں اور رام اللہ کے ہم معنی استعمال ہوتا ہے۔ ہندی میں برہمچاری مجرد کو کہتے ہیں۔ امیر شریعت نے بخاری کا وزن برابر رکھنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ اس طرح پنڈت کپارام برہمچاری، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہم معنی بن گیا۔ یوں امیر شریعت نے اپنے بلند مقاصد کی ادائیگی اور پولیس کی گرفت سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے نام کا ہندی ترجمہ

کر لیا تاکہ پولیس یا کوئی دوسرا سرکاری آدمی چوکس نہ ہو۔

نیلے رنگ کا تہ بند، نیم آستین کی واسکٹ، سر پر موٹے کھدک کی سفید کپڑھی اور ہاتھوں سے خالی۔۔۔۔۔ لیکن پنجاب پولیس ایمر شریعت کو مندرجہ ذیل لباس میں دیکھنے کی عادی تھی۔۔۔۔۔ سر پر کپڑے کی گول ٹوپی، نیم آستین کا مبارک تہ اکھٹوں سے اور پنجا پاجامہ اور ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا۔

اجنبی لباس میں ایمر شریعت نہ تو پولیس سے بچانے گئے اور نہ ہی سفر میں کسی دوسرے مسافر سے۔ جہلم کے اسٹیشن پر اترتے وقت ضرورت پڑی تو ہماری تہ ایمر شریعت کو تلاش کے لیے پنڈت کو پارام کہہ کر مسلسل پکارا۔ مگر ایمر شریعت اسے ریلوے حدود سے دور جا کر ملے۔

ہو چکیں غالب بلائیں سید۔ تمام۔ ایک مرگ ناگمانی اور ہے۔  
میرپور، جہلم سے نو میل دور دریائے جہلم کے اس پار آبادی کا نام ہے۔ یہ کشمیر کے ان باشندوں پر مشتمل ہے جن کے اکثر افراد پہلی جنگ عظیم میں بھرتی ہو کر استعماری فوج کے دوش بدوش لڑ چکے تھے۔ تحریک کشمیر کے دنوں بھی اسی لہجے کے حوام نے اپنی آزادی کے لیے محس ازار کے تحت بڑی قربانی کی تھی۔ پولیس کے انتظامات امرتسر سے جہلم تک مکمل ہو چکے تھے لیکن مجرم محافظوں کی آنکھوں میں دھول جو بوتل کا پانی منزل کے سامنے کھڑا تھا۔

میرپور کے سامنے سے گزرتے ہوئے دریائے جہلم کی چیخ و پکار سے پتھروں کے دل دھڑک رہے تھے۔ ناخدا کشتیوں کے پتوار مچھیلانے موجوں سے برسر پیکار تھے کہ ایمر شریعت نے پتین پر قدم رکھا۔ پولیس ہر مسافر کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے ایمر شریعت نے پتین سے دیرا کو جو روکنا مناسب نہ سمجھ کر دو میل اوپر جا کر دریائے جہلم کو پار کیا اور پھر کچی میل پیدل سفر کے بعد میرپور میں داخل ہو گئے۔

ہمراہی کو متنبہ کیا کہ تم جاؤ لیکن میری آمد کی اطلاع نہ کرنا۔ میں آپ سے آپ جلسہ میں پہنچ جاؤں گا۔

انجمن کے سالانہ اجلاس کا آخری دن تھا۔ ریاستی حکام مطمئن تھے۔ برطانوی پولیس نے کارنامے پر خوش تھی کہ عطا اللہ شاہ بخاری ریاست میں داخل نہیں ہو سکا۔ منتظمین نے اس خوف سے کہ انجمن کی پدنامی نہ ہو اور رات کے اجلاس میں لوگوں کی حاضری کم نہ ہو قہر میں منادی کرادی کہ رات آخری اجلاس میں ایمر شریعت حوام سے خطاب کریں گے۔ اجلاس شروع ہوا تو صدر جلسہ نے قوم سے معذرت کی۔

”ہمیں افسوس ہے کہ ایمر شریعت ریاستی اور برطانوی قانون کی پابندیوں کے باعث تشریف نہ لایا۔“

ابھی یہ فقرہ ادا ہوا تھا کہ ایمر شریعت نے جلسے کے ایک کونے سے آواز دی۔ ”آپ غلط کہتے ہیں۔ یہ فقرہ کہتے ہوئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھتے گئے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کون دیہاتی ہے کہ صدر استقبالیہ کی بات کاٹ رہا ہے اب ایمر شریعت اسٹیج پر تھے اور بخاری بھر کم کھدکی پگڈمی اتار کر حوام کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت مجمع کا حال دیکھنے والا تھا۔ آخر ایمر شریعت نے صبح چار بجے تک تقریر کی۔ ایمر شریعت کے میرپور پہنچنے کے نتیجے میں پنجاب پولیس اور ریاستی حکام کے کئی آفیسر محفل ہوئے اور انہی دنوں میرپور کے اکثر دیہاتوں میں بغاوت پھیل گئی جس کے نتیجے میں کئی سرکاری عمارت کو نذرِ آتش کیا گیا۔“

قاویاں کا افسر | ضلع گورداسپور کا قصبہ قادیاں مرزا غلام احمد کی نبوت کا مرکزی مقام تھا اور مرزائی امت بہت بڑی اکثریت میں یہاں آباد تھی۔ مرزا یوں کی باعث نے یہاں حکومتی طرز پر اپنا نظام قائم کر رکھا تھا، جس کے تحت مختلف شعبے اور دفاتر قائم تھے۔ عملاً اس قصبہ میں علیغہ مرزا بشیر الدین محمود کی حکومت تھی۔

غیر مرزائی حوام مسلمان، ہندو اور سکھ اپنی مذہبی اور معاشی زندگی میں آزاد رہے۔ یہاں تک کہ خلیفہ قادیان کی جانب سے ہر غیر مرزائی دکاندار کو یہ حکم تھا کہ اپنی دکانوں پر درج ذیل عبارت نمایاں طور پر آویزاں رکھیں۔

”میں آئندہ سے مرزا غلام احمد کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کوں گا“

میں اپنے کسی مذہبی اجتماع میں شامل نہیں ہوں گا اور نہ ہی قادیان میں اپنے کسی عقیدے کے بزرگ کو آلے کی دعوت دوں گا۔

میں کسی ایسے دکاندار سے لین دین نہیں کروں گا جس کے پاس یہ اقرار نامہ نہیں ہوگا“

۱۹۲۸ء مولانا عبد الکریم اور ان کے خاندان نے مرزا نیت سے تائب ہونے کا اعلان کیا جس کے نتیجے میں انہیں سخت اذیتیں دی گئیں اور ان کی غیر مستقولہ جائداد کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ۱۹۳۰ء میں یہ خاندان ترک مرزائیت کے بعد قادیان سے ہٹا کر منتقل ہو گیا۔ احرار رہنماؤں کی نظر میں مرزائی دین اسلام کے بانسی اور برطانوی سامراج کے کھلے ایجنٹ تھے۔ مرزائیوں کے مظالم انتہا کو پہنچ چکے تھے لیکن کوئی باز پرس نہ تھی۔ اس پر احرار رہنماؤں نے ریاست کشمیر کی طرح قادیان کے حوام کی خدمت کرنا بھی دینی اور سیاسی ثواب سمجھا۔

پنشنچہ ۱۹۳۳ء میں احرار نے قادیان میں اپنا دفتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور درپودہ دفتر کے لیے مکان کی تلاش شروع کر دی۔

قادیان کے مظلوم اور بیکس حوام کی زبردست خواہش تھی کہ کوئی ان کے زخموں کی مرہم بن کر یہاں آئے مگر ان کے دل خلیفہ قادیان کی قوت کے خوف سے دمپخت رہے تھے وہ ہر جنبی کو قادیانیوں کا جاسوس سمجھ کر نگاہیں ملانے سے کتراتے تھے۔ انہوں نے مولانا عبد الکریم

کے نیم سوئٹہ مکان میں دفتر مجلس احرار کی بنیاد رکھی گئی۔ ملاؤ الدین اور غریب شاہ نامی دو شاہکاروں کو یہاں متعین کیا گیا۔ مرزائیوں کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے دونوں رضا کاروں کی خوب پٹائی کی اور مولانا جید لکیریم کے مکانوں کو مزید جلا کر خاک کر دیا۔ ان واقعات کی روشنی میں مجلس احرار نے اپنی تمام توجہ قادیاں کی طرف مبذول کرنے کا فیصلہ کیا۔

۱۹۲۳ء اپنے مخصوص سیاسی حالات اور فرقہ وارانہ فضا کی بدولت ایک ہجر گیر سال تھا۔ اس سال اور کسی دوسری تحریک کو ہوا دینا غیر ملکی حکمرانوں کی عمر پڑھانے کے مترادف تھا۔ لیکن ۱۸۵ء کے بعد انگریزی سامراج نے جن تحریکات کو از خود جہم دے کر پروان چڑھایا تھا، مرزائیت اسی پودے کا اہم بیج تھا۔ احرار ہٹاؤں کے تدبیر نے اس سے چشم پوشی کو ہندوستان سے غداری اور اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت سے انحراف سمجھ کر قادیان کے نظام حکومت میں دراڑ ڈالنا ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ۲۱-۲۲-۲۳ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو قادیان میں امیر شریعت کی صدارت میں تبلیغی کانفرنس کرنے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے سے مرزائی اور حکومت اپنی اپنی جگہ سوچ میں پڑ گئے۔ پنجاب میں خصوصاً احرار رضا کاروں نے کانفرنس میں شمولیت کی تیاریاں شروع کر دیں۔

برطانوی سامراج ذہنی طور پر اس تحریک سے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ کانفرنس اور دوسرے مسلمان رہنما حقوق قومیت اور سوراخ کی سر وجنگ میں مصروف تھے۔ دوسری جانب انگریز بین الاقوامی سیاست میں جرمن اور روس کے اتحاد میں الجھا ہوا تھا۔ بایں ہمہ احرار کشمیر کی لڑائی میں جس قوت کا مظاہرہ کر چکے تھے، حکومت اس سے بھی غافل نہیں تھی۔ تاہم احرار سے الجھاؤ نامناسب سمجھ کر کانفرنس کی تیاریوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی گئی۔ حکومت کی اس سر دہری کو دیکھتے ہوئے مرزائیوں نے واویلا کیا تو حکومت نے قادیاں کی میونسپل حدود میں دفعہ ۱۴۴ نافذ کر دی۔ حکومت کے اس رویہ

نے احرار کو ایک نیا دلولہ دیا لیکن وہ لڑائی کے موڈ میں نہیں تھے۔ لہذا قادیان کی میونسپل  
 حدود سے باہر غیر مسلموں سے کانفرنس کے لیے جگہ حاصل کر لی گئی۔ ہندو سبھا ہائی اسکول  
 کی عمارت معانوں کے لیے اور سردار ایشر سنگھ کی زمین کانفرنس کے پنڈال کے لیے لی گئی۔  
 پنجاب کے مختلف شہروں سے احرار رضا کاروں کے قادیان پہنچنے کے لیے  
 ریلوے حکام نے سپیشل گاڑیاں چلانے کا انتظام کیا۔ دہلی تک کے رضا کار لدھیانہ  
 ریلوے اسٹیشن پر اور پشاور تک کے رضا کار لاہور ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو گئے۔ دونوں  
 اسپیشل گاڑیاں جب مقررہ اوقات پر قادیان کو روانہ ہوئیں تو یہ نظارہ بھی دیدنی تھا۔  
 گاڑی کے انجن اور ہر ڈبے پر مختلف مقام کے رضا کاروں کے سرخ جھنڈے اپنی بہار  
 دکھا رہے تھے۔ جب دونوں اسپیشل گاڑیاں امرتسر پہنچیں تو امیر شریعت ان کے استقبال  
 کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ دونوں کے درمیان امرتسر سے امیر شریعت کے لیے  
 ایک تیسری گاڑی کا علیحدہ انتظام تھا۔ جس میں بیٹا اور دوسرے اصحاب کے رضا کاروں کو  
 سوار ہونا تھا۔ احرار کا یہ سرخ اثر دبا امیر شریعت کی معیت میں جب قادیان پہنچا تو اس سرزمین نے  
 ایک نئی کروشلی۔ کفر پر اسلام کی مینار اس عہد کا عظیم واقعہ تھا۔

امیر شریعت قادیان ریلوے اسٹیشن سے ہزاروں رضا کاروں کے جلو میں پیدل پتال  
 تک پہنچے، جہاں ایک نیا شہر آباد تھا۔ ہر طرف چھو لڑائیاں اور نیچے نصب تھے۔ ان پر  
 لراتے ہوئے سرخ پرچم ہواؤں سے کھیل رہے تھے۔ سرخ دردیوں میں احرار رضا کار  
 اس طرح لگتے جیسے بیرہوٹیاں پہاڑوں کی شاہراہوں پر کبھری پڑی ہوں۔

احرار رہنماؤں کے علاوہ ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اس اجتماع میں شرکت کی۔  
 ۲۱۔ اکتوبر ۱۹۴۲ء کو لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں نماز عشاء کے بعد احرار تبلیغ کانفرنس کا  
 پہلا اجلاس حضرت امیر شریعت کی صدارت میں شروع ہوا۔ حسب عادت امیر شریعت  
 رات دس بجے صدارتی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ آسمانوں نے ستاروں کو رات بھر



جاننے کی تاکید کر دی۔ ہواؤں نے ممانوں پر اپنے سائے پھیلا دیے۔ چاند نے رات کے اندھیرے پر اپنی سفید چادر ڈال کر کفر کا مکروہ چہرہ ڈھانپ دیا۔ امیر شریعت گویا ہوتے تو کفر گوش برآداز تھا۔ تمام رات دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اور سنتے رہے۔ صبح کی اذان کے ساتھ امیر شریعت نے اپنی تقریر ختم کی۔ کانفرنس کی باقی کارروائی تین دنوں میں مکمل ہوئی۔

**گرفتاری** | سانحہ شجاع آباد نے حرم امیر شریعت کو ایسا غم دیا کہ وہ دائم المرعین ہو کر رہ گئیں۔ زہر تلے کی اطلاع جیسے ہی امرتسر پہنچی۔ گھر میں اعلیٰ محترمہ کو خون کی تے آئی۔ بعد میں ڈاکٹروں کی تحقیق نے ٹی بی کی نشاندہی کر دی۔ امیر شریعت کی تھی دامنی اس شاہی مرض کے علاج کی متحمل نہیں تھی۔ وہ خاصے پریشان رہنے لگے۔ سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں میں تعطل آ گیا۔ مسکراتا چہرہ گھریلو پریشانیوں کی نظر ہو گیا۔ مخالفت موسم مرض کا ہمنوا ہوا ڈاکٹروں نے رائے دی کہ مرلیفٹہ کو کسی پہاڑی مقام پر رکھا جائے لیکن گروہ میں اس قدر حوصلہ کہاں تھا کہ پہاڑوں کا بوجھ سہر سکے۔ تاہم بادل خواستہ دوستوں اور حکما، کی رائے پر تسلیم غم کرنا پڑا۔ بیوی بچوں کو مسوری لے گئے۔ وہاں علاج شروع کر دیا گیا۔

**ایک دلچسپ واقعہ** | اگر گھریلو معاملات میں اطمینان نہ ہو تو قلب و نظر کا سکون بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ امیر شریعت دیکھنے کو مسوری ایسی خوشنما اور دلفریب فضا میں رہ رہے تھے مگر رفیقہ حیات کی بیماری نے یہ جنت بھی جہنم بنا دی تھی۔ اسی عالم میں ایک دن امیر شریعت کی چھ سات سالہ بچی گھر سے کھیلنے بازار اتری کہ غائب ہو گئی۔ بچی کی گم شدگی نے سارے گھر کے ساتھ ساتھ حلقہ احباب کو بھی پریشان کر دیا۔ مسوری کے نشیب و فراز کھنکال ڈالے گئے گزبچی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بستر پر مرلیفٹہ کی حوالت بڑھ گئی۔ برطانیہ جیسی سلطنت کو لڈکارنے والا پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگا۔ دوستوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسی طرح دن گزر گیا اور شام کے چراغوں نے مسوری کو جگمگا دیا۔ اتنے میں ایک انگریز خاتون بچی کو لے کر گھر پہنچی۔ دیکھتے ہی

امیر شریعت نے بچی کو سینے سے لگایا اور انگریز عورت سے معنی اور غصے میں کہا۔

”تم نے یہ کیا کیا؟ تم کون ہو! میرے گھر کا نظام تو نے دہم برہم کر دیا۔“

انگریز خاتون! امیر شریعت کی یہ گفتگو نہ سمجھ سکی۔ مگر اس نے انگریزی میں کہا۔

”عرصہ ہوا میری بچی جو شکل و صورت میں بالکل ایسی ہی تھی فوت ہو چکی ہے۔ مجھے

یہ بچی بہت بھلی معلوم ہوئی۔ میں آپ کی اطلاع کے بغیر اسے لے گئی۔ مجھے معاف کریں۔

لیکن آئندہ ہر صبح میں اسے یہاں سے لے جایا کروں گی اور شام کو چھوڑ جایا کروں گی۔“

اس پر امیر شریعت نے کہا:

”تو ماں ہے! اگر ماں کے دکھی دل کو میرے دل کے کھڑے سے کوئی

سکون مل سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ دیکھنا کہ اس کی بیٹ

والدہ بھی اسی کے سہارے زندہ ہے۔“

چنانچہ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد انگریز خاتون اپنے خاوند

کے ساتھ مسوری سے جانے لگی تو اس نے بیٹوں کا نہایت خوبصورت بوٹا اپنی کے

کھیننے کے لیے دیا۔ بلیاں اچھی نسل کی تھیں۔ گھر کے ہر فرد سے مانوس ہو گئیں۔ بچی

کو کھیننے کے لیے جیتے جاگتے کھونے مل گئے۔

قادیاں، تبلیغ کانفرنس نے مرزائی خلافت اور ایوان برطانیہ میں ارتعاش پیدا کر دیا

تھا۔ مرزائیت کی اڑتی ہوئی خاک میں خلیفہ قادیاں کو موت کے نقشے ابھرتے دکھائی

دینے لگے۔ باطل ہوؤں کی ایک ایک لیکر مٹنے لگی۔ آخر خود کا شہ پودے کی حفاظت

کے لیے امیر شریعت کو قادیاں کانفرنس کی تقریر کی بنا پر دفعہ ۱۱۰ کے تحت مسوری سے

۶۔ دسمبر ۱۹۳۴ء کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن دوسرے ہی دن ڈیرہ دون سے انہیں ضمانت پر

رہا کر دیا گیا۔ یہ ضمانت ڈاکٹر محمد امیر صاحب نے دی جو ان دنوں ڈیرہ دون وٹرنری

ہسپتال کے انچارج تھے۔

امیر شریعت کی گرفتاری پر اہل خانہ تو بہر حال پریشان تھے لیکن بیوں کے جوڑے میں سے نرنے تمام دن اور رات بغیر کچھ کھانے مکان کی چھت پر کھلی فضا میں وقت گزارا مالا ٹک گھر کے سب لوگ اسے دودھ پینے کے لیے بچکا رتے رہے مگر وہ بچے نہ اترتا۔ جیسے ہی امیر شریعت ضمانت پر رہا ہو کر مسووی پہنچے اور گھروالوں نے ان سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو انہوں نے فوراً آواز دی۔ بلا جلدی سے بچے اتر کر امیر شریعت کے پاؤں چاٹنے لگا اور دودھ بھی پی لیا۔

**مجدوب کی دعا** مقدمہ گورداسپور کی مصروفیت کے باوجود امیر شریعت اپنے مشن کے لیے رداں رداں رہے۔ ۱۹۳۴ء کا سال آخری دنوں پر تھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر امیر شریعت کو ملتان جانا پڑا۔ جلسے کی حاضری تاحد نظر تھی اور اس پر خاموشی کا یہ عالم جیسے انسانی سروں پر پرندے بیٹھ رہے ہوں۔ رات کے اس سکوت کو صرف امیر شریعت کی آواز توڑ رہی تھی۔ واقعہ معراج النبی کا ذکر کرتے ہوئے اسے تمثیلی انداز میں پیش کیا۔ اور حاضرین کی محویت کا یہ عالم تھا کہ وہ محسوس کرنے لگے جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ میں ایسے دقت پر منح سے ایک مجذوب امٹا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اس نے ملتان کی زبان میں کہا۔

«سیدنا! شالا اتھائیں دفن تھیویں! داسے سید! خدا کرے آپ ہمیں ملتان میں دفن ہوں»

شاید یہ قبولیت کا وقت تھا کہ دل سے نکلی ہوئی بات حقیقت بن کر رہی۔

**مقدمہ کی روئیداد** بظاہر ۱۵۳ و کا مقدمہ اپنے اند کوئی ایسی جازیت نہیں رکھتا کہ قانون اور ملزم کے درمیان انصاف کرنے والی عدالت کو الجھاؤ محسوس ہو۔ لیکن امیر شریعت کے اس مقدمہ نے نہ صرف عدالت کو بلکہ حکومت کی

پوری مشینری کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مقدمہ کے دوران ہر پیشی پر ہزاروں انسانوں کا کچھری کے احاطہ میں ہجوم، عدالت کو بارگراں ثابت ہوتا۔ اس روز دیگر عدالتوں کا کام بھی معطل ہو جاتا۔ امرتسر سے گورداسپور کے درمیان ریل گاڑیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔

**جمعہ الوداع** انہی دنوں مجلس احرار نے اعلان کیا کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ گورداسپور میں امیر شریعت پڑھائیں گے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پنجاب بھر کے مسلمان گورداسپور پہنچنے کے لیے پرتولنے لگے۔ حکومت پنجاب نے بھی جو شروع سے مسلمان اور قادیانیوں کے درمیان تماشائی تھی، جمعہ کے اجتماع میں مداخلت مناسب نہ سمجھی۔

شہر سے باہر کھلے میدان میں نماز جمعہ کا انتظام کیا گیا۔ گورداسپور کی سرزمین اس روز اپنے مہاتوں کو سنبھالنے سے قاصر تھی۔ شہر کا دامن اپنی ساری دستگتوں کے ساتھ تہی دامن کا شکوہ کر رہا تھا۔

امیر شریعت سر پر عربی طرز کا رومال باندھے، ہاتھ میں کھٹاری سنبھالے جب جمعہ کے خطبہ پر کھڑے ہوئے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی عربی شہسوار ہے جو ابھی گھوڑے سے اتر کر فوج سے میدان جنگ میں خطاب کر رہا ہے۔ زبان کی شیرینی کلام کی صورت میں بانٹی جا رہی تھی۔ جس سے لاکھوں انسانوں کی دلوں کی جھولیاں بھر رہی تھیں۔ نظریں تھیں کہ امیر شریعت کو چاٹ رہی تھیں۔ دل تھے کہ بیوں اچھل رہے تھے اور امیر شریعت تھے کہ لاکھوں انسانوں کے جذبات سے کھیل رہے تھے۔

نماز سے فارغ ہو کر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے امیر شریعت کے ہاتھ پر بیعت کی تجویز پیش کر دی جسے امیر شریعت نے قبول کر لیا۔ ایک ایک آدمی آگے آگے بیعت

کے لیے آتا تو ہفتنوں گزر جاتے مگر امیر شریعت نے حکم دیا کہ میرے رومال کے ساتھ ایک پگڑھی کو گرہ دے لو اور پھر اس سے تولیے، رومال، چادریں اور پگڑیاں باندھتے جاؤ جس کا ہاتھ ان پگڑیوں سے لگ جائے وہ میری بیعت میں اپنے کو داخل سمجھے۔ بس پھر کیا تھا۔ لاکھوں انسانوں کے سروں پر پگڑیوں، چادروں، تولیوں اور رومالوں کا ایک جال بن دیا گیا۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو امیر شریعت نے بیعت ہونے والوں کو شرعی احکام سمجھائے نیز فرمایا کہ کل ہر شخص اپنے اپنے گھر پہنچ کر ایک پوسٹ کارڈ پر اپنا نام اور پتہ درج کر کے مجھے بھیج دے۔

۲۳-۲۴ مارچ ۱۹۲۵ء کو جب خلیفہ قادیان مرزا بشیر الدین محمود، امیر شریعت کے مقدمہ میں بطور گواہ صفائی اپنی شہادت دینے آئے تو خطوط سے بھری ہوئی سات بوریاں امیر شریعت نے عدالت کے سامنے پیش کیں جو بیعت کرنے والوں نے اطلاقاً لکھے تھے۔ تاکہ حکومت اور خلیفہ قادیان کو معلوم ہو سکے کہ میرے روحانی مریدوں کی تعداد بھی کئی لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔

خلیفہ قادیان کی شہادت چار دن تک جاری رہی اور اس دوران اس کی نگاہیں بار بار خطوط سے بھری ہوئی ان بوریوں سے مگراتی رہیں۔

فر د جرم | عدالت نے امیر شریعت پر فر د جرم عائد کرتے ہوئے لکھا:۔  
 ”مذم نے اپنی تقریر کے دوران مکہ معظمہ کی رعایا کے دو طبقات احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان دشمنی یا حسرت پیدا کرنے کی کوشش کی“  
 لفظ ”طبقات“ مذہبی فرقوں پر اطلاق پاتا ہے۔

امیر شریعت نے فر د جرم کے جواب میں کہا:۔

”میرمی تقریر کے جن حصوں کے متعلق شکایت کی گئی ہے وہ مسخ شدہ جہاز میں ہیں جس سے میری اصل تقریر کے معنی ہی بدل دیے گئے ہیں۔“

میں اقبال کرتا ہوں کہ میں نے اپنی تقریر میں یہ لفظ کہے تھے کہ نبی دھوکے باز نہیں ہوتا۔ تبلیغ کانفرنس میں جہاں میں نے سچے اسلام کی اشاعت کے لیے خطبہ صدارت پڑھا تھا مرزا بشیر الدین اور مسلمانوں میں مختارت پیدا کرنے کا کوئی موقع ہی نہ تھا۔ مرزائی چالیس کروڑ مسلمانوں کو مرزا غلام احمد کو نبی زمانے کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں اور چونکہ یہ مذہبی اختلافات ہیں۔ اس وجہ سے احمدیوں اور غیر احمدیوں میں شادی بیاہ کے اور دوسرے تعلقات ممکن ہی نہیں۔ مرزائی مسلمانوں کے بچوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے اور وہ مسلمانوں کے متعلق خنزیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتا ہے بھی برے لفظ استعمال کرتے ہیں۔

اگر ضرورت ہوتی تو میں ایک تحریری بیان شامل کروں گا۔

دیوان سکھانند ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گورداسپور نے امیر شریعت کے تحریری **تحریری بیان** کے حسب ذیل اقتباسات اپنے فیصلے میں نقل کیے ہیں۔

”شعبہ تبلیغ مجلس احرار کا فرض تھا کہ اسلامی دنیا کو متنبہ کر دے کہ وہ اپنے تئیں

جماعت قادیانی کے قریب، دھوکوں، غلط الزامات اور حیلوں سے بچائیں۔

”ضمیمہ انجام آتھم اور نزول المسیح جو مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت کی لکھی ہوئی

کتابیں ہیں جو یہ مرہ علی شاہ گولڑوی اور دیگر معتقد حسبتوں کے خلاف سخت الفاظ اور گالیوں پر مشتمل ہیں۔“

”خداوند یسوع المسیح کو بھی اس مسیح موعود نے نہیں چھوڑا۔“

”تربیاق القلوب“ و ”نور الحق“ اور بہت سی کتابیں مرزا غلام احمد کی لکھی ہوئی

اور انگریزوں کے ساتھ ہانسی کی وفاداری اور چالیسی اور برٹش گورنمنٹ کی بے نظیر

خدمات کا ثبوت ہیں۔“

”لورالٹی“ میں مرزا غلام احمد نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ (برطانیہ) سے فدائی خدا اور رسول سے فدائی کے برابر ہے اور اگر اس بار سے میں مرزائی بھی خدا رہ جائیں تو ان سے بڑا خدا کوئی نہ ہوگا۔“

”میں نے کہا تھا کہ اوبھڑھیا! تو نبی بنا تھا تو مجھے وہی وقار قائم رکھنا چاہیے تھا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو تمہیں انگریزوں کے کتے نہ بننا چاہیے تھا۔ تم انگریزوں کے بغیر دم کے کتے ہو۔“

”موجودہ خلیفہ کے وقت میں قادیان کے لوگوں پر ہر قسم کا دباؤ ڈالا جاتا ہے اور تشدد کا استحصال کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس ڈر کے مارے کوئی عینی شاہد واقع شدہ مظالم کی گواہی دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ محمد امین کو دن دہاڑے مار ڈالا گیا۔ مہابہ بڈھاگ گرا کر جلادی گئی لیکن حکومت مجرموں کو پکڑ نہ سکی۔ نہ ان کا چالان کیا گیا اور نہ کوئی اور کارروائی ان کے خلاف کی گئی۔ یہ موجودہ خلیفہ کی حکومت کا نتیجہ ہے۔ اس کا اثر مظلوموں اور ان کے ہم خیالوں کے دلوں پر ظاہر ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ سوائے خلیفہ کے انگریزوں کی کوئی حکومت قادیان میں نہیں اور خلیفہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ محمد امین کے قتل سے ان مسلمانوں میں تبلیغ کرنے کا راستہ کھل گیا جن کے دل پہلے ہی ڈر سے زخمی ہو گئے تھے۔“

”ملازم نے اس شخص کو چیلنج کیا جسے اپنی طاقت کا گھنٹہ تھا اور جس سے تمام ڈرتے تھے۔ مرزائیوں اور ان کی نبوت اور خلافت کے متعلق ملازم نے کہا کہ اب یہ نہیں رہے گا۔“

”ملازم نے بیان کے آخری حصے میں بطور صفائی کے کہا کہ جامعیت احمدیہ نے اپنے کاموں سے اپنے خلاف دنیا میں اتنی نفرت پیدا کر لی ہے کہ میرے لیے ان کے خلاف

نفرت پیدا کرنا یے فائدہ تھا۔ بالخصوص اس حالت میں میرا مقصد یہ نہ تھا کہ میں نے انہیں  
 حکوٹے حکوٹے کر دینے کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔“

(امیر شریعت کی تقریر جسے عدالت نے اپنے فیصلے میں نقل کیا)

اب ہم ملزم کی تقریر کی طرف آتے ہیں۔ سامعین جو کہ اکثر گنوار تھے انہیں مخاطب  
 کرتے ہوئے ملزم نے دوران تقریر کہا۔ اس علاقہ میں جہاں بت خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں  
 ہم عربوں کا اکٹھا ہونا جن میں سے اکثر کا کوئی گھر بھی نہیں، کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر  
 ملزم نے کہا، افرعون کا تخت اللہ جبار ہا ہے اور خدانے چاہا تو یہ نہیں رہے گا۔ پھر قادیان  
 کے متعلق ملزم نے کہا۔ اس علاقہ میں حکومت کے اندر ایک اور حکومت پیدا ہو گئی ہے  
 جہاں ظلم، انانصافی، تکبر اور غرور اتنا بڑھ گیا ہے کہ جب بخاری مسودی سے امر ترس کو آیا  
 تو پولیس سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی رہی اور امر ترس بچنے پر اسے دفعہ ۴۴۱ کے تحت  
 دو سب انسپکٹروں نے نوٹس دیا۔ اس موقع پر ملزم نے پولیس کو جنوں کی فوج قرار  
 دیا۔ پھر تقریر کرتے ہوئے کہا، اللہ اللہ! قادیاں میں غریب شاہ پٹ جاتا ہے نظام  
 سمجھتا ہے کہ وہ مر گیا اور حکومت کمتی ہے کہ گواہ نہیں ملتا۔ یہ چشم پوشی ہے۔ اور ہم  
 اتنے ذلیل ہیں۔ اس لہجہ میں ملزم نے قادیاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میلان چیل  
 نے ریاست بہاولپور، پٹیالہ اور کشمیر جیسے اختیارات حکومت سے حاصل کر لیے ہیں اور  
 ہمیں استنجا تک کرنے کی اجازت نہیں۔

پھر اس موقع پر قیام امن کے لیے پولیس متعین کیے جانے کی طرف اشارہ کر کے  
 اور اصرار کی اس کا فرانس کے ناکام کرنے کی کوشش کی طرف اشارہ کر کے ملزم نے کہا  
 کہ اگر یہ اصرار کی تبلیغی کا فرانس نہ ہوتی تو نہیں معلوم کیا ہو جاتا۔ آج پیروان حسین بھگتیاں  
 پھنسنے ہوتے۔

ملزم نے لوگوں کو تلقین کی کہ دلیری سے تکلیفیں برداشت کریں اور اپنے رطل ارم



صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی پیروی کریں۔ ملزم نے خلیفہ قادیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ ایک نبی کا بیٹا ہے۔ میں نبی کا نواسہ ہوں۔ وہ آئے تم خاموش بیٹھے رہو سہ میرے ساتھ اردو، پنجابی، عربی اور فارسی میں تمام مسائل پر بحث کرے تو اس بھگٹے کا آج ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ پردے سے نکلے، گھونگٹ اٹھائے اور حکومت کو ہارے اختلاف کے بارے میں درمیان میں نہ لائے۔ وہ کشتی کر لے اور مولانا علیؒ کے جوہر دیکھے اور جن زمان سے چاہے آئے۔ وہ موٹر میں آئے، میں پیدل آؤں۔ وہ حمیر پرہن کر آئے میں کھدرا کرتے پہن کر آؤں۔ وہ اپنے ابا کی سنت کے مطابق عذر، جھناہو، گوشت، یا قوتیاں اور پلومر کی ٹٹا تک وائٹن پی کر آئے اور میں اپنے نانا کی سنت کے مطابق جو کی روٹی کھا کر آؤں۔ اسے حکومت سے مدد نہیں مانگتی چاہیے اکیلا آئے اور بخاری کے جوہر دیکھے۔ اگر ہم یہاں دو چار سال رہے تو خدا کے فضل سے یہ بالکل تباہ ہو جائیں گے۔

اخبارہ زمیندارہ اور اس کے ایڈیٹر مولانا ناظر علی خاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اپنے اس کانفرنس کے صدر ہونے کی طرف اشارہ کر کے ملزم نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے کسی مولوی میں اس طرح قادیان میں آنے کی طاقت نہیں۔ یہ کسی اکیلے آدمی کا کام نہیں۔ یہ ایک جماعت کی طاقت ہے۔ جماعت کے سر پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حکومت آج آزما کر دیکھے کہ باوجود پابندیوں کے جو حکومت نے لگادی ہیں اور باوجود جماعت احمدیہ کی مخالفت کے فلاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعداد میں نظر آتے ہیں۔

پھر قادیان اور خلیفہ کا ذکر کر کے ملزم نے کہا کہ ہم سب کو ایک عزم میاں لایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ناپاک زمین کو پاک، کیا جائے۔ خدا اس زمین کو پاک کرے۔ کیونکہ یہاں خاتم النبیینؐ کی توہین ہوتی ہے۔ اس جگہ پیارے مدنی، مکی رسولؐ موجود نہیں ہیں۔ یہاں شرک ہے اور یہاں چالیس کروڑ مسلمانوں کے تیرہ سو سالہ قبلہ کے احترام کی ہتک کی جاتی ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں کہ خواہ کوئی شخص مکہ میں پیدل ہو

اور مکہ ہی میں مرے لیکن اگر اس نے رسول سے محبت نہ رکھی تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ میں غریب ہوں اور اپنے دلی خیال کا اظہار کرتا ہوں۔ حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص نبوت کی قیاس تک نہیں چھوڑتا ہم اس کے لیے طاعون اور سیف کی طرح ہیں اگر حکومت کوئی اور ہاتھ دیکھنا چاہتی ہے تو اس کی مرضی؟

تم نے ہمیں سینکڑوں بار آزمایا ہے۔ قبل ازیں خلافت اور مقامات مقدرہ کے احترام کا سوال اٹھا۔ رسول اکرم کی عزت پر حملہ کیا گیا تو یہ احمدی نوشی کے مارے اٹھل پڑے جب ملک کا سوال اٹھا، انہوں نے کہا کہ یہ (مرزائی) ہندوستان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں اور صرف خدا کے رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ حکومت نے ہماری طاقت کو نہیں آزمایا۔ اب گیاں بچے ہیں۔ سورج نکلنے میں ابھی سات گھنٹے باقی ہیں اور یہاں ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ حکومت کو اپنی طاقت بٹالینی چاہیے۔

میں گورنمنٹ کے سامنے مسلمانوں کے مطالبات پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس شخص کا کیا حشر ہو گا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ انگلستان والوں کے دم کٹے کتے ہیں اور انگریزوں کی چابوٹی بھی کرتے ہیں اور ان کی جوتیوں کے تلے صاف کرتے ہیں۔ میں فخر نہیں کرتا اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اگر مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے تو تم میرے بطن بستر کے معرکے دیکھو۔

میں کیا کموں لفظ تبلیغ نے مجھے شکل میں ڈال رکھا ہے۔ یہ پولیٹیکل کانفرنس نہیں ہے۔ اگر باہیں ڈھیلی چھوڑ دی جائیں تو مرزا تو! میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم پشیاہ کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاؤ۔ ہم نے کبھی حکومت سے امداد حاصل نہیں کی۔ ان کی نبوت اور خلافت حکومت کے سہارے کھڑی ہے۔ تمہیں کیا پتہ پانچ سال کے عرصہ کے اندر نڈیرہ پولیس ہمارے قبضہ میں ہوگی۔

پھر علماء سے جو ایٹج پر بیٹھے تھے لازم نے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آیا جو شخص پانچویں جماعت میں فیل ہو جائے وہ نبی بن سکتا ہے؟ ہندوستان میں تو اس کی ایک مثال موجود ہے کہ ایک شخص نے فیل ہو کر نبی کا دعویٰ کیا۔

پھر لازم نے کہا کہ حدیث اور تفسیر سے ثابت ہے کہ مرزا غلام احمد نبی نہیں تھا اور کہ نبی دھوکے باز نہیں ہوتا۔ پھر اب دفعہ ۴۴ نافذ کر دی گئی ہے۔ غریب شاہ کو مارا گیا محمد بن کو قتل کیا گیا۔

اویسح کی بھیلو! تم سے بیٹنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ ہاں اب تمہارا مجلس احوار سے مقابلہ ہے۔ اس نے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ یہ مرزائی ہر جگہ ایک ہی ہیں انگریز اگر کہہ پر بھی قبضہ کر لے تو یہ وہاں بھی ان کی امداد کریں گے۔ اور مرزائی تو ایہ تمہاری نبوت کی تصویر ہے اور یہ حکومت سے مخفی نہیں ہے۔ تم اس کی دیر تک خدمت کرتے رہے ہو اور تم اس کے ناصح اور خیر خواہ ہو۔

یہ ہندوستانی نبی ڈپٹی کمشنر کے پاس جا جا کر کہتا ہے کہ میں نے اور میرے باپ نے حکومت کی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ اور حدیث! اگر تم نبی ہو گئے تھے تو تمہیں اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے تھا۔

لازم نے ایک جھوٹے مدعی کی مثال بیان کی جس نے شہتاء عالمگیر کو گمراہ کیا تھا اور کہا اگر نبوت ہی کا دعویٰ تھا تو پھر تمہیں انگریزوں کا کتا نہیں بننا چاہیے تھا۔ ٹف ہے اور لاکھ لعنت ہے اس نبوت پر۔ کتاب "آئینہ کمالات" کا ذکر کر کے لازم نے کہا۔ مرزا غلام احمد نے لکھا ہے کہ وہ جو مجھے نہیں اتنا حرامی ہے!

میں حکومت سے دریافت کرنا چاہتا ہوں اور حکومت کو جواب دینا ہوگا۔ اگر ایسا ہی کوئی لفظ "زمیندار، احسان، سیاست، اجازت" میں چھپ جائے تو یہ تمام اخبارات ضبط ہو جائیں گے لیکن یہ مرزائی حرامی کا لفظ استعمال کریں تو کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔

”نور اسلام“ میں بھی جو مرزا غلام احمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے کتا ہے کہ مرزا غلام احمد کے مخالفین جو اس پر ایمان نہیں رکھتے سو ردِ فخریہ ہیں اور ان کی بیویاں کتیاں ہیں۔  
تقریر ختم کرنے سے پہلے مزم نے حکام کو جو خطب کر کے کہا کہ کانفرنس کے انعقاد سے ہماری غرض لڑائی نہیں بلکہ اس علاقے کے مظلوم مسلمانوں کا بچاؤ ہے۔ پھر سامعین کو یاد دلایا کہ مرزائی دفعہ ۴۴ تعزیرات ہند کے نافذ کر لینے پر بھی شرمندہ نہیں ہیں۔

فیصلہ | میں مزم کو زیر دفعہ ۱۵۳ و تعزیرات ہند حضور ملک معظم کی رعیت کے ذوقوں میں یعنی احمدیوں اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان نفرت ڈھونڈنے کے الزام میں مجرم قرار دیتا ہوں۔ فیصلہ کے متعلق اس بات کا پورا احساس رکھتے ہوئے کہ یہ تقریر ایک تبلیغی کانفرنس میں ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ چھ ماہ قید با مشقت اس کے لیے کافی ہوگی پس میں مزم کو چھ ماہ قید با مشقت سزا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ بی کلاس کے قیدیوں کا سا برتاؤ کیا جائے۔  
دستخط سکھانند

محکمہ ریٹ درجہ اول گورداسپور مورخہ ۲۰/۲۵

سیشن کورٹ میں اپیل | ماتحت عدالت کے فیصلہ کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ ابتدائی سماعت میں امیر شریعت ضمانت پر

رہا کر دیے گئے۔

مقدمہ کی پیروی کے لیے بخاری ڈیفنس کونسل قائم ہوئی جو چار وکلاء پر مشتمل تھی۔

۱- مولانا مظہر علی انظر ایڈووکیٹ ۲- شیخ شریف حسین پلیڈر

۳- شیخ جوانح الدین (جو بعد میں پنجاب ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے)

۴- لالہ پشوری مل ایڈووکیٹ۔

مرزائیوں کی جانب سے چوہدری سرفخر اللہ خاں اور ان کے بھائی چوہدری اسلم اللہ خاں پیرو کار تھے۔

اپیل کا فیصلہ | مسٹر جی۔ ڈی۔ کھوسہ سیشن جج گورداسپور نے فریقین کے دکار کی  
بحث کے بعد حسب ذیل فیصلہ دیا۔

اپیلانٹ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو تعزیرات ہند کی دفعہ ۱۵۳ و کے  
تحت مجرم قرار دیتے ہوئے ۶ ماہ قید با مشقت کی سزا اس تقریر کی بنا پر  
دی گئی ہے جو اس نے اوار تبلیغ کانفرنس کے موقع پر ۲۱-۲۲ اکتوبر ۱۹۳۲ء  
کو کی تھی۔

اپیلانٹ کے خلاف فرد جرم پر نظر ڈالنے سے پہلے چند واقعات کا بیان کرنا ضروری  
ہے، جو معاملہ زیر بحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقریباً پچاس برس کا عرصہ ہوا قادیان کے  
ایک شخص سہمی غلام احمد نے دنیا کو اعلان کیا کہ وہ مسیح موعود ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی  
اس نے اسلام کے اعلیٰ پادری کی حیثیت اختیار کر لی جس کے ارکان اگرچہ مسلمان ہونے  
کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے بعض عقائد اور اصول اسلام کے عام مسلمہ اصولوں سے  
بالکل متضاد تھے۔ اس فرقے کا جو قادیانی، مرزائی یا احمدی کہلاتا ہے امتیازی نشان یہ  
ہے کہ اس کے ارکان اس فرقے کے بانی کی (جسے مرزا کہا جاتا ہے) نبوت پر کامل اعتقاد  
رکھتے ہیں۔ جو تحریک اس طرح شروع کی گئی اس نے جلد ہی ہی شکل پکڑی اور آہستہ آہستہ  
لیکن غیر مشتبہ طور پر بڑھنا شروع کیا اور اس کے پیروچند ہزار کی تعداد میں ہو گئے۔ قدرتاً  
کچھ مخالفت ہوئی اور مسلمانوں کی اکثریت بانی فرقہ کی مذہبی فوقیت کے گھمنڈ سے سخت  
ناراض ہوئی۔ مذہب کے مخالفوں نے "کافر" کے الزام کا جو مرزانے ان پر لگایا شدت  
سے جواب دیا۔ مگر قادیانیوں نے اس بیرونی تنقید کا بالکل خیال نہ کیا اور اپنے وطن قادیان  
میں مقامی طور پر محفوظ ہونے ہوئے جہاں تک ہو سکا حالات کے مطابق خوشحال رہے۔  
مقابلتاً محفوظ ہونے کی اس حالت نے غرور پیدا کر دیا جس نے قادیانیوں میں تہذیب  
کی شکل اختیار کر لی۔ اپنے دلائل کو منوانے اور فرقے کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے

ان ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا جن کو عام طور پر نہایت ناپسندیدہ کہا جائے گا۔ انہوں نے ان اشخاص کے دلوں میں جنہوں نے ان کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ نہ صرف بایکٹا، اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی بدتر مصائب کی دھمکیوں سے دہشت انگیزی پیدا کی۔ بلکہ اکثر انہوں نے ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا کر اپنے تبلیغی سلسلے کو مضبوط کیا۔ قادیاں میں ایک والٹیر کو ر مقرر کی گئی۔ جس کا منشا غالباً اپنے احکام کو منوانے کے لیے قوت پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے عدالتی اختیارات کا استعمال بھی اپنے ذمے لے لیا۔ دیوانی مقدمات میں ڈگریاں صادر کی گئیں اور اجراء بھی کیا گیا۔ فوجداری مقدمات میں سزا کے حکم سنائے گئے اور سزائیں بھی دی گئیں۔ لوگوں کو فی الحقیقت قادیان سے نکال دیا گیا۔ قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ قادیانیوں پر صریح الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مکانوں کو تباہ کیا، جلایا اور قتل بھی کیے گئے۔

اس خیال سے کہ ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ مذکورہ بالا واقعات محض امر کے تخیل کی ایجاد ہیں یہ لازمی ہے کہ میں چند واقعی مثالیں بیان کر دوں جو اس مقدمے کی رسل پر لائی گئیں۔

کم از کم دو اشخاص کو اپنے وطن قادیان سے باہر نکالا گیا۔ کیونکہ ان کے خیالات مرزا کے خیالات سے متفق نہ تھے۔ وہ اشخاص حبیب الرحمن نمبر ۲ اور اسماعیل ہیں۔ اسل پر ایک چھٹی ڈمی۔ زیڈ نمبر ۲۳ موجود ہے جس کا کاتب خود موجودہ مرزا ہے اور جس میں یہ حکم دیا گیا کہ حبیب الرحمن گواہ صفائی نمبر ۲ کو قادیاں میں آنے کی اجازت نہیں۔ اس چھٹی کو مرزا بشیر الدین محمود گواہ نمبر ۲۴ نے تسلیم کیا ہے۔ گواہ صفائی نمبر ۲۵ (خان صاحب فرزند علی) نے تسلیم کیا ہے کہ اسماعیل کو جماعت سے خارج کیا گیا اور قادیان میں داخل نہ ہونے کا حکم دیا گیا۔ بہت سے دیگر گواہوں نے تشدد اور ظلم کی داستانیں بیان کی ہیں۔ بھگت سنگھ گواہ نمبر ۲۹ بیان کرتا ہے کہ مرزائیوں نے اس پر حملہ کیا۔ ایک شخص غریب شاہ کو قادیانیوں

نے مارا اور جب اس نے دعویٰ کرنا چاہا تو کوئی شخص اس کی شہادت دینے کے لیے آگے نہ آیا۔ قادیانی حجوں کے فیصلہ شدہ مقدمات کی ملیں پیش کی گئیں جو مسل میں موجود ہیں۔ مرزا نے تسلیم کیا ہے کہ عدالتی اختیارات قادیان میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ان معاملات میں وہ خود آخری عدالت اپیل ہے۔ عدالت کی ڈگریوں کا اجرا کیا جاتا ہے اور ایک مثال بھی موجود ہے۔ جہاں ڈگری کے اجراء میں ایک مکان کو نیلام کیا گیا۔ قادیان میں ایک والٹیر کور کی موجودگی کی شہادت گواہ صفائی نمبر ۴ (مرزا شریف احمد) نے دی ہے۔ علاوہ ازیں سب سے سنگین معاملہ عبد الکریم کا ہے۔ جس کی داستان حقیقتاً ایک داستانِ درد ہے اس شخص نے مرزائی مذہب قبول کیا اور قادیان چلا گیا۔ مگر وہاں اس کے دل میں مذہبی شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور اس نے مرزائیت سے توبہ کر لی۔ تب اس پر ستم آرائی کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ایک اخبار ”مبادلہ“ نامی جاری کیا، جس کا مقصد مرزائی جماعت کے اعتقادات پر تنقید کرنا تھا۔ مرزا نے ایک تقریر میں جو دستاویز ڈی زیڈ نمبر ۳ (الفضل مورخہ ۱۱) میں شائع ہوئی ہے۔ اس تقریر میں ان لوگوں کی طرف اشارہ بھی کیا جو اپنے مذہب کی خاطر قتل کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ اس تقریر کے فوراً بعد عبد الکریم پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن وہ بچ گیا۔ ایک شخص محمد حسین عبد الکریم کی امداد کرتا تھا اور ایک فوجداری مقدمہ میں جو عبد الکریم کے خلاف چل رہا تھا اس کا ضامن تھا۔ اس پر فی الحقیقت حملہ ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا ہوئی۔

پھانسی کے حکم کی تعمیل ہوئی اور پھانسی کے بعد لاش قادیانی لائی گئی اور اس کو

۱۔ مرزا کو جو عرضیاں دی جاتی ہیں۔ ان پر قادیانی ساخت کا اسٹامپ اور کورٹ فیس تیار کر کے فروخت اور استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ سب پوشیدہ طور پر کیا جاتا ہے۔

دھوم دھام سے اسے اس جگہ دفن کیا گیا جس کا نام ”بشتی مقبرہ“ ہے۔ افضل اخبار میں جو مرزائی جماعت کا اخبار ہے قتل کی تعریف اور قاتل کی مدح سرائی کی گئی ہے لکھا گیا ہے کہ قاتل مجرم نہیں تھا اور امر واقع سے قبل ہی جان دے کر پھانسی کی بنیام کندہ سزا سے بچ گیا۔ خدا نے اپنے عدل و انصاف میں یہ مناسب سمجھا کہ پھانسی کی ذلت سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لے۔

جب عدالت میں مرزا کا ایک معاملے کے متعلق بیان لیا گیا تو اس نے بالکل مختلف کہانی بیان کی اور کہا کہ محمد حسین کے قاتل کو باعزت طریق پر اس لیے دفن کیا گیا تھا اس نے اپنے جرم پر اظہارِ مذمت کیا تھا اور اس طرح گنہ سے بری ہو گیا تھا لیکن دستاویزی ڈیڑھ نمبر ۴۰ اس کی تردید کرتی ہے اور مرزا کی نیت اور اس کی دلی کیفیت کا پتہ اس اظہارِ خیال سے بالکل عیاں ہے۔ (ڈیڑھ نمبر ۴۰)

میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ اس دستاویز کا مضمون لاہور ہائی کورٹ کی توہین بھی ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جو محمد امین کے قتل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ محمد امین بھی مرزائی تھا اور یہ امر واقعہ ہے کہ وہ اس فرقے کا ایک مبلغ تھا اس کو بنجارا بھیجا گیا تھا۔ لیکن کسی وجہ سے اس کو ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ اس کی موت کھارڑی کی ایک ضرب سے ہوئی جو چوہدری فتح محمد گواہ صفائی نے لگائی۔ عدالت ماتحت نے اس معاملے کو سرسری نظر سے دیکھا ہے لیکن اس پر نظر خائر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ محمد امین اگرچہ مرزائی تھا لیکن وہ مرزا کا موردِ خطاب ہو چکا تھا۔ اس لیے ہستی بزرگ نہیں رہا تھا۔ اس کی موت کے واقعات کچھ ہی ہوں یہ امر ناقابل انکار ہے کہ محمد امین تشدد کی موت مرا۔ پولیس کو واقعے کی اطلاع دی گئی لیکن بالکل کارروائی نہ کی گئی۔ یہ بحث کرنا فضول ہے کہ قاتل حفاظت، خود اختیار کی کر رہا تھا کیونکہ یہ فیصلہ تو اس عدالت کا کام ہے جو مقدمے کی سماعت کرے۔ یہ امر کافی تعجب انگیز ہے کہ چوہدری فتح محمد



نے براقرار صالح بیان دیا ہے کہ اس نے محمد امین کو قتل کیا تھا مگر پولیس کچھ نہ کر سکی اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ مرزائی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کوئی گواہ سامنے آکر سچ بولنے کو تیار نہیں تھا۔ ہمارے سامنے عبدالکریم کے مکان کا معاملہ بھی ہے۔ عبدالکریم کو قادیان سے نکالنے کے بعد اس کا مکان جلا دیا گیا۔ اسے قادیاں کی سماں ٹاؤن کمیٹی سے حکم حاصل کر کے نیم قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش بھی کی گئی۔

یہ افسوس ناک واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف الملوک کی تھی جس میں آتش زنی اور قتل بھی ہوتے تھے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکام ایک غیر معمولی درجے کے فاج کا شکار ہو چکے ہیں اور دیوبندی معاملات میں مرزا کے حکم کے خلاف کبھی آواز نہ اٹھائی گئی۔ مقامی افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایات کی گئیں لیکن انسداد نہ ہوا۔ سب پر ایک دو ایسی شکایات ہیں لیکن ان کا حوالہ دینا غیر ضروری ہے اور اس مقدمے کے اعتراض کے لیے یہ بیان کرنا کافی ہے کہ قادیاں میں ظلم و جور جاری ہونے کے متعلق غیر مشتبہ الزامات عائد کیے گئے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف مطلق توجہ نہ کی گئی۔

ان کارروائیوں کے سدباب کے لیے مسلمانوں کے اندر منتقدانہ روح حیات پیدا کرنے کے لیے احوار تبلیغ کانفرنس بلائی گئی۔ قادیانیوں نے قدرتنا اس اقدام کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور انہوں نے کانفرنس کے انعقاد کو کلیتہً روکنے کے لیے دیرانہ کوشش کی۔ احوار کانفرنس کے انعقاد کے لیے ایک شخص ایشر سنگھ کی زمین حاصل کی گئی تھی۔ قادیانیوں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا اور اس پر دیوار کھینچ دی۔ اس طرح ایک ہی قطعہ زمین سے بھی محروم کر دیے گئے جو ان کو قادیان میں حاصل ہو سکتا تھا اور اس لیے مجبور کر دیے گئے کہ قادیان سے ایک میل کے فاصلے پر ایک جگہ اپنا اجلاس کریں۔ دیوار کا بنایا جاتا ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت فریقین میں تعلقات کس قدر کشید تھے۔

اور مرزا یوں کا تمرد کس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ اپنی دست درازمی کے قانونی انجام سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ و مامون سمجھتے تھے۔

لیکن اجلاس ہوا اور یہی اجلاس تھا جس کے لیے اپیلانٹ کو کہا گیا جو بے انداز مقناطیسی جذب اور اعلیٰ درجے کی فصیحانہ خطابت کا مالک ہے۔ اس نے اس اجلاس میں وہ تقریر کی جسے دلولہ انگیز خطاب کہا جاسکتا ہے۔ تقریر کی گھنٹے جاری رہی اور بیان کیا گیا ہے کہ حاضرین کی یہ کیفیت کہ گویا مسحور ہیں۔ اس تقریر میں اپیلانٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کس قدر صاف گوئی سے کیا اور اس نے اس بات کو پوشیدہ نہ رکھا کہ اس کے دل میں مرزا اور اس کے پیروؤں کے خلاف کس قدر ناپسندیدگی بلکہ نفرت ہے۔ تقریر اخبارات میں شائع ہوئی اور اس پر اعتراض کیا گیا۔ معاملہ حکومت پنجاب کے سامنے پیش ہوا جس نے موجودہ مقدمہ کی اجازت دی۔

اپیلانٹ کے خلاف جو فرد جرم ہے اس میں اس کی تقریر کے سات جھوٹے بیانی جن کو خاص طور پر قابل اعتراض اور قابل گرفت بتایا گیا ہے۔ وہ جھوٹے ہیں۔

”فرعونی تخت اٹھا جا رہا ہے النوار الہدیہ تخت نہیں رہے گا۔ وہ نبی کا بیٹا ہے، میں نبی کا نواسا ہوں۔ وہ آئے تم سب چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ وہ مجھ سے اردو فارسی پنجابی میں ہر معاملے پر بحث کرے۔ یہ جھگڑا آج ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ پروے سے باہر آئے۔ نقاب اٹھائے۔ کشتی رٹے۔ مولا علیؑ کے جوہر دیکھے۔ وہ ہر رنگ میں آئے۔ وہ موٹر میں بیٹھ کر آئے میں ننگے پاؤں آؤں۔ وہ ریٹیم پن کر آئے میں کھدکا کرتا۔ وہ زعفران کباب، یا قوتیاں اور پلومر کی ٹانک اپنے ابا کی سنت کے مطابق کھا کر آئے میں اپنے نانا کی سنت کے مطابق جو کی روٹی کھا کر آؤں۔

یہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ برطانیہ کے ڈم کٹے گتے ہیں۔

وہ خوشامد میں برطانیہ کے بوٹ کی ٹو صاف کرتا ہے۔ میں تکبر سے نہیں  
 کتا بلکہ خدا کی قسم کھا کر کتا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ پھر بشیر کے اور برے  
 ہاتھ دیکھو۔ کیا کروں لفظ تبلیغ نے میں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہ  
 سیاسی مجلس نہیں ہے۔ اور مزایو! اگر باگیں ڈھیلی ہوتیں۔ میں کتا  
 ہوں کہ اب بھی ہوش میں آؤ۔ تمہاری طاقت اتنی بھی نہیں جتنی پیشاب  
 کی جھاگ ہوتی ہے۔

جو پانچویں جماعت میں فیمل ہوتے ہیں، بنی بن جاتے ہیں کیونکہ  
 ہندوستان میں ایک مثال موجود ہے۔ جو فیمل ہوا وہ بنی بن گیا۔ اور  
 مسیح کی بھیڑ و اتم سے کسی کا ٹکراؤ نہیں ہوا۔ جس سے اب مقابلہ پڑا ہے  
 یہ مجلس احرار ہے۔ اس نے تم کو ٹکڑے کر دینا ہے۔  
 اور مزایو! اپنی نبوت کا نقشہ دیکھو۔ اگر تم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا  
 تو نبوت کی شان تو رکھتے۔

اگر تم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو انگریزوں کے کتے نہ بنتے۔“

اپیلانٹ نے عدالت ماتحت میں بیان کیا کہ اس کی تقریر درست طور پر نہیں  
 لکھی گئی۔ اس نے جملہ نمبرہ کے متعلق خاص طور پر کہا کہ وہ اس کا کہا ہوا نہیں ہے۔  
 اگرچہ اس نے تسلیم کیا کہ باقی جملوں کا مضمون میرا ہے لیکن اس نے عبارت کے غلط ہونے کا  
 عذر اٹھایا۔ عدالت ماتحت کے فیصلے پر کہ جملہ نمبرہ کی رپورٹ غلط ہے اور اپیلانٹ کو  
 اس کے متعلق مجرم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اپیلانٹ کی سزا باقی چھ فقروں پر مل رہی تھی  
 ہے۔ اپیلانٹ کے وکیل نے بحث کے وقت فوراً تسلیم کیا کہ فقرہ جات نمبر ۱ تا نمبر ۱۲ اور  
 نمبرہ ۱ تا نمبرہ ۱۱ فی الحقیقت اپیلانٹ نے کہے۔ اور اس مرتبے رپورٹ کی عبارت کی  
 درستگی کو بھی زیر بحث نہیں لانا چاہتا۔ اس لیے میرے حوالے سے اس قابل فیصلہ ہے

کہ آیا یہ چھ جملے زیر دفعہ ۱۵۳ قابل گرفت ہیں اور کیا یہ الفاظ کہہ کر مرافعہ گزار نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔

”مرافعہ گزار نے عدالت میں بہت سی تحریری شہادتیں پیش کیں اور دیکھ لے  
کی کوشش کی ہے کہ اس کی تقریر کا مقصد مرزا اور اس کے متبعین کے  
جبر و تشدد اور ستم رانیوں پر جائز اور معقول تنقید کرنا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ  
اس کی تقریر کا واحد مقصد سوتے ہوئے مسلمانوں کو دعوت بیداری دینا  
اور مرزائیوں کے مذموم افعال کا راز طشت از باہم کرنا تھا۔“

اس نے اپنی تقریر میں جا بجا مرزا کے ظلم و تشدد کا ذکر کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے  
کہ ان مسلمانوں کی شکایات کا ازالہ کرایا جائے جو صرف مرزا کی نبوت اور اس کے خود ساختہ  
اقتدار کے منکر ہونے کی وجہ سے ہدف جو دہم بنے ہوئے ہیں۔

میں نے مرافعہ گزار کی تقریر پر ان حالات کی روشنی میں غور کیا ہے جو تاہاں میں  
رو نما ہو رہے تھے۔ اول یہ کہ وہ مرزا اور اس کے متبعین کے افعال پر تنقید کرے دوم  
یہ کہ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دینا چاہتا تھا کہ وہ مرزائیوں کے مقابلے میں بیدار  
ہو کر اپنی شکایات کے ازالہ کی کوئی صورت نکالیں۔

مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ تقریر مسلمانوں کی طرف سے صلح کا ایک اعلان تھی۔ لیکن  
اسے سرسری طور پر پڑھنے سے کوئی محقول آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ  
اعلان صلح کی بجائے یہ تقریر سپکاہ آزمائی کی دعوت تھی۔ مرافعہ گزار نے قانون کے اندر  
رہنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی ہو لیکن اپنی سانسیت اور جوش فصاحت میں وہ  
قانون کی استعاجی حدود کو پھاڑ گیا اور اس نے ایسی باتیں کہہ دیں جو اس کے سامعین  
کے دلوں میں مرزائیوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے سوا اور کوئی اثر نہیں کر سکتی تھیں۔  
ایک نکتہ کار مقرر کی طرح مرافعہ گزار نے رومہ کے ہارک انٹونی کی سنت پر عمل کرتے

ہوتے براعلان تو کر دیا کہ وہ احمدیوں سے برسرِ پیکار نہیں ہونا چاہتا لیکن صلح و اتحاد کا یہ اعلان ایسی سخت کلامی سے مملو تھا جس کا مقصد سامعین کے دل میں احمدیوں کے خلاف منافرت و حقارت پیدا کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ مرافعہ گزار کی تنقید میں ایسے حصے بھی ہیں جو مرزا کے افعال کی جائز اور معقول تنقید پر مبنی ہیں۔ تقریر کے دوران غریب شاہ کو زود کوب کرنے کا واقعہ، محمد حین اور محمد امین کے واقعات قتل اور مرزائے قادیان کے جبر و تشدد کے متعدد ایسے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے جن پر تنقید کرنے کا ہر سچے مسلمان کو حق ہے۔ نیز اس تقریر کے دوران اس توہین کا بھی ذکر کیا گیا جو احمدی پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان میں روا رکھے ہیں ادب جن سے لازمی طور پر مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کے نزدیک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خاتم النبیین ہیں۔ لیکن مرزائیوں کا حقیقہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد بھی کئی نبی آ سکتے ہیں اور ان پر وحی نازل ہو سکتی ہے اور یہ کہ مرزائی فرقہ کا بانی نبی اور مسیح موعود تھا۔ اس حد تک مرافعہ گزار کی تقریر قانون کی زد سے باہر ہے لیکن جب وہ سخت کلامی سے کام لیتا ہے اور مرزائیوں کو ایسے ایسے فارمولے سے خطاب کرتا ہے جنہیں سننا کوئی معقول آدمی گوارا نہیں کر سکتا تو وہ جائز اور معقول تقریر کی حدود کو پھانڈ جاتا ہے اور خواہ اس نے یہ باتیں دیدہ و دانستہ کہیں یا جذبات کے جوش میں قانون ان سے اغماض ہمیں برت سکتا۔

مرافعہ گزار کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس سامعین کی اکثریت ناخواندہ و پست پر مشتمل ہے اور یہ کہ اس قسم کی تقریر ان کے دل میں احمدیوں کے خلاف بغض و عناد کے جذبات کی پرورش کرے گی۔ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریر نے سامعین پر مزاحمہ اثر ڈالا اور مقرر کی سانپیت سے مسحور ہو کر لوگوں کو دود و فوجوں کا مظاہرہ کیا۔ یہاں اس امر پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ سامعین نے اس وقت اپنے اپنے

کے خلاف متشددانہ اقدام کیوں نہ کیا اس تقریر نے نفرت کو کچھ زیادہ ہی کر دیا۔  
 فرد جرم میں جن سات حصوں کو قابل گرفت ٹھہرایا گیا میرے نزدیک ان میں سے  
 تیسرا اور ساتواں سب سے زیادہ قابل اعتراض تھے ہیں۔ ان فقروں میں مرافعہ گزار نے  
 احمدیوں کو برطانیہ کے دم بریدہ کتے کہا ہے۔ میرے نزدیک دوسرے حصے تعزیرات ہند  
 کی دفعہ ۱۵۳ کے تحت قابل گرفت نہیں ہیں۔

پہلا حصہ یعنی فرعونیت تحت الٹا جا رہا ہے میرے نزدیک بالکل بے ضرر ہے۔  
 دوسرا حصہ مرزا کی خوراک کے متعلق ہے۔ یہ امر قابل دلچسپی ہے کہ مرزائے اول نے  
 اپنے عقیدت مندوں میں سے ایک کے نام خط لکھا تھا جس میں خوراک کی ایسی تمام  
 تفصیلات موجود تھیں۔ یہ خطوط کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں اور ان کا ایک  
 نسخہ اس مقدمے کے کاغذات میں شامل ہے۔

میری رائے میں تیسرے اور ساتویں حصے کے سوا اور کوئی حصہ قابل گرفت  
 نہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ مرافعہ گزار کی تقریر میں صرف دو حصے ہی قابل اعتراض ہیں  
 تقریر کے کوائف سے پتہ چلتا ہے کہ مرافعہ گزار کا مقصد جہاں احمدیوں کے افعالِ شنیعہ  
 کا تار پود بکھیرنا تھا وہاں مسلمانوں کے دل میں ان کے خلاف جذباتِ خفارت پیدا  
 کرنا بھی تھا۔ یہ امر کہ سامعین نے اس کی تقریر سے متاثر ہو کر تشدد اور امن شکنی کا  
 مظاہرہ کیوں نہ کیا۔ اس کے جرم میں صرف تخفیف کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔

مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مرافعہ گزار احمدیوں پر تنقید کرنے میں خفیہ سبب  
 تھا۔ تاہم میرے خیال میں اس نے قانون کی حدیں توڑ دیں۔ اگرچہ مرافعہ گزار نے  
 اصطلاحی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو بھی قانون کی ہمہ گیری کا تحفظ ضروری معلوم ہوتا ہے۔  
 اس مقدمے کے تمام پہلو پر غور کرنے اور سامعین پر اس تقریر کے اثرات  
 کا اندازہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرافعہ گزار نے تعزیرات ہند کی دفعہ

۱۵۳ وکے ماتحت ازکاب جرم کیا ہے اور اس کے جرم کو قائم رہنا چاہیے۔ مرزا کی کمی اور بیشی کا اندازہ کرتے وقت یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات کو بھی پیش نظر رکھا جائے جو قادیان میں رونما ہو رہے تھے۔ چنانچہ میں اس کی سزائیں تخفیف کرتے ہوئے اسے تا اختتام عدالت قید محض کی سزا دیتا ہوں۔

دستخط

۶۔ جون ۱۹۲۵ء جی۔ ڈی۔ کھوسلا سیشن جج۔ گورداسپور

تقریر امیر تسر | ماتحت عدالت گورداسپور میں ابھی مقدمہ زیر سماعت تھا کہ امیر شریعت نے امر تسر میں ۲۲۔ اپریل ۱۹۲۵ء کو رات نو بجے مسجد خیر الدین میں

مولانا عبدالغفار غزنوی کی زیر صدارت تقریر کرتے ہوئے کہا

”بعض نا عاقبت اندیش لوگ کہتے ہیں کہ مرزائیت کے ساتھ ہمارے شیعوں، سنی اور وہابی کی طرح کے فروعی اختلافات ہیں اور اسی سلسلے میں گورنر بہادر انجن حمایت اسلام کے جلسہ میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دے چکے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے خود کا شتر پودے کی مخالفت ناقابل برداشت ہے۔ ہم انشاء اللہ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر رہیں گے۔“

مرزائیت کے وجود میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرہ سو سال سے عیسائیت کے جگر میں ایک کانٹا تھا جو کسی طرح نکلنے میں نہیں آتا تھا۔ وہ کانٹا یہ تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحدت ملی یا مرکزیت عطا ہوئی تھی یہ دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہ تھی۔ عیسائیت چاہتی تھی کہ اسلام کی اس وحدت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کی بربادی کے لیے پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا۔ اور اس نے ایڑی چوٹی کا

زور وحدت ملی کو تباہ کرنے میں لگایا۔ یہ اختلافات فروری میں ہو کر نبی کے مقابلے میں نبی کھڑا کر دیا گیا ہے اور مدینۃ النبی کے مقابلے میں مدینۃ المسیح اور جنت البقیع کے مقابلے میں بہشتی مقبرہ بنایا گیا ہے۔

اس وقت ضرورت ہے کہ مرکزی شعبہ تبلیغ مجلس احرار کو مضبوط کیا جائے محلہ محلہ شعبہ ہائے تبلیغ قائم کر دیے جائیں اور قادیان میں زمین اور جائداد خریدی جائے۔ جس دن ہمارا اپنا ہائی سکول، اپنا تبلیغی کالج، اپنی مسجد اور مہمان خانہ قادیان میں تیار ہو گیا، سمجھو کہ مرزائیت کا خاتمہ ہو گیا۔

مرزا بشیر الدین نے پیش گوئی کی تھی کہ ۱۹۰۶ء کے بعد احرار کا کام ختم ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں گے مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام اب شروع ہوا ہے۔

قادیان کانفرنس کے خطبے کی بنا پر جس دفعہ ۱۹۰۳ء کے تحت مجھے گرفتار کیا گیا ہے اس کی سزا زیادہ سے زیادہ صرف دو سال ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ اس جرم میں یہ سزا بالکل کم ہے۔ میں خاتم الانبیاء کے ناموس پر ایسی ہزار جہاں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے شیروں اور چیتوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر کھا جائے کہ تمہیں سچا عسکر محمد تکلیف دہی جا رہی ہے تو میں خذہ پیشانی سے اس سزا کو قبول کروں گا۔ میرا آٹھ سالہ بچہ عطا المنعم اور اس جلیے، خدا کی قسم، ہزار بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر سے نچاؤ کر دوں۔

۳۰۔ اور ۳۱ مئی ۱۹۳۸ء کی درمیانی رات جب کہ نظام کائنات محو خواب  
زلزلہ کوٹھکتا تھا اور صرف آسمان کے ستارے جاگ رہے تھے، کوڑھ میں ایسا زلزلہ



ایا کہ ہندگانِ خدا عذابِ الہی کے باعث نیند کے راستے موت کی پگڈنڈی پر سفر کرنے لگ پڑے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ رات کو صبح کی آس لے کر سوئے تھے کہ زلزلے نے انہیں لاکھوں من بلبہ کے ڈھیر تلے دبا دیا۔ اس عظیم حادثہ میں ہزاروں انسان جان و مال سے محروم ہو گئے۔

یوں تو کوئٹہ زلزلہ کے حادثات کا عادی تھا لیکن انسانی تباہی کا یہ منظر اپنی نوعیت میں عظیم تر تھا۔ ان دنوں مجلسِ احرار کا آفتاب نصف النہار پر تھا، جس کی روشنی سے غیر ملکی سامراج کی آنکھیں بھی چڑھیا رہی تھیں۔ مجلسِ احرار نے کوئٹہ سے دہلی تک اپنے ریڈیف کیمپ کھول دیے۔ ہزاروں باوردی رضا کار مصیبت نندگان کی امداد کے لیے رات دن مصروف ہو گئے۔

مجلسِ احرار کی اس بے لوث خدمت سے متاثر ہو کر دائرہ ہند نے احرار ہناؤں کو دہلی آنے کی دعوت دی تاکہ انہیں ان خدمات کے صلے میں سرکاری سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ دائرہ ہند نے اس دعوت پر جماعت میں قدرے اختلاف تھا۔ درکنگ کمیٹی نے اپنے ایک غیر رسمی اجلاس میں اس دعوت پر غور کیا۔ اجلاس میں امیر شریعت بھی امرتسر سے پہنچ گئے۔ جب انہیں دائرہ ہند نے اس دعوت کا علم ہوا تو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

”مملک ہمارا ہے، نقصان بھی ہمارا ہی ہوا ہے۔ بھائی بھی ہمارے مرے ہیں۔ ان کی خدمت کرنا بطور انسان کے ہمارا فرض تھا، سو ہم نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا۔ اس میں دائرہ ہند نے کون ہے جو ہماری خدمات سے خوش ہو کر ہمیں سرٹیفکیٹ دے۔ ہم تو اپنے خدا سے انعام چاہتے ہیں۔ انگریز کا سرٹیفکیٹ ہمارے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اگر مجلسِ احرار نے کوئٹہ ریڈیف کیمپ دائرہ ہند کو خوش کرنے

کے لیے کھولا تھا تو پھر اس کی دعوت پر فوراً دہلی جانا چاہیے اور اگر  
 مصیبت زدگان کی امداد خدا کے لیے کی ہے تو پھر میری رائے میں  
 دوستوں کو اس قسم کے مشورے پر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے  
 امیر شریعت کی اس رائے کو درگنگ کمیٹی نے پسند کیا اور وائسرائے کو اطلاع  
 کر دی گئی کہ گورنر ریلیف کمیٹی کے سلسلے میں آپ کی دعوت کا شکر یہ بعض مہروفیتوں  
 کی بنا پر ہم ملاقات کے لیے نہیں آسکتے۔

مسجد شاہ چراغ | بساط سیاست پر بیٹھنے والے کھلاڑی جب حالات و واقعات کی  
 نبض پرائنگلیاں رکھتے ہیں تو ان کے فکر کی داغی نایاں ابھر کر حالات  
 کے نقشے کو کچھ اس ترتیب سے نکیرتی ہیں کہ واقعات آپ سے آپ سلجھتے جاتے ہیں۔

جھوٹ اور فریب کا خوبصورت نام ہے سیاست اور سیاسیات میں اقتدار کے  
 گھوڑے پر سفر کرنے والے لوگ عموماً اسی لباس سے آرامتہ رہے ہیں۔

۱۹۳۵ء کے آئین نے ہندوستان کو بوجہ حایت دی، وقت کے دانشور کرسوں کا  
 لباس اتار کر حوام میں شاہین بن کر پرواز کرنے لگے، حالانکہ وہ شاہین کی طرح شکار کرنے  
 کے عادی نہیں تھے۔ لیکن کرسوں میں پرورش پانے والے جب بال پرستوار کرسا منے  
 آئے، تو ننگا ہیں فریب کھا گئیں۔

ایک ۱۹۳۵ء کے نفاذ کے بعد میاں سرفضل حسین جب دائرے کی کونسل سے فارغ  
 ہو کر پنجاب میں آئے تو ان دنوں سرسکندر رھیات آئندہ انتخاب کے لیے دوسری سیاسی  
 پارٹیوں کے علاوہ مجلس احرار سے بھی رشتہ گانٹھ رہے تھے۔ ان کی رائے میں مجلس احرار  
 اس وقت ایسی جماعت تھی جو پنجاب کی سیاست پر غالب تھی۔

سرفضل حسین زیرک آدمی تھے، اور ہوائی قلعے تعمیر کرنے کے عادی تھے۔ اس گٹھ جوڑ  
 پر اپنے مستقبل کو روشن نہ پا کر حکومت سے سازش کر کے سرسکندر رھیات خاں کو ٹیٹ بنک

آٹ انڈیا کا ڈپٹی گورنر بنا کر کلکتہ بھیجا دیا۔ راستے کی اب دوسری بڑی دیوار صرف مجلس احوار تھی، جس کے رضا کاروں کی سرخ دریاں گرتے ہوئے فرنگی دقار کے اُفق پر پڑھائیاں ڈال رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کے گرانے کو سیاسی استادوں نے مسجد شہید گنج کا منصوبہ تیار کیا۔

سات اور آٹھ جولائی ۱۹۲۵ء کی درمیانی رات کو چند سکھ مزدوروں نے لنڈا بازار کی تاریخی مسجد "شہید گنج" کو بلا کسی وجہ کے گرانے شروع کر دیا۔ ان دنوں پنجاب کا گورنر مسٹر ایمرسن تھا۔ یہی وہ انگریز آفیسر ہے جو ۱۹۲۷ء میں ملتان کا ڈپٹی کمشنر تھا، جس نے تعزیر داری کے موقع پر ہندو مسلم فساد کرایا تھا، مسجد گرانے سے لاہور اور باقی پنجاب کی ساری فضا پھر سے مکدر ہو گئی، سیاسی اُستاد گھات میں تھے، اور مسجد کا تمام بلبہ مجلس احوار پر گرا دیا گیا۔ اس سارے کھیل تماشے کے پس منظر میں مولانا ظفر علی خاں اور سرفضل حسین کی سیاست کام کر رہی تھی۔

مجلس احوار نے اعلان کیا کہ مسجد گری نہیں گرائی گئی ہے، اور یہ سب الیکشن کی سیاسی تدبیریں ہیں۔ مگر انگریز، امرزانی اور رجعت پسند مسلمان اس تیز روی سے پنجاب کی سیاسی زندگی کو اپنے قبضے میں کر چکے تھے کہ وقت کی سب سے بڑی فعال جماعت و احوار کو سنبھالا لینا دشوار ہو گیا۔ اس ہنگامہ آرائی میں امیر شریعت نے لاہور شاہی مسجد میں تقریر کے دوران کہا:

”مسجد شہید گنج آج ہی سکھوں کے قبضے میں نہیں آئی، بلکہ سلطنتِ مغلیہ کے زوال کے ساتھ ہی واقعات نے نئی کروٹ لی اور، ۱۹۲۷ء میں ہمارے رجحیت سنگھ حکومت کے سنگھاسن پر براجمان ہوئے تو پنجاب کی قسمت نے پٹا کھایا۔ ایک ہزار برس تک اٹھارہ لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی مسلمان قوم بھی ان کی غلامی میں چلی گئی۔“

موجودہ مسجد شہید گنج جو کبھی مسجد عبداللہ خاں کے نام سے مشہور تھی، سکھوں کی غلامی میں جا کر اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا۔ یہ عبداللہ خاں شہزادہ داراشکوہ کا خانساں تھا۔ یاد رہے کہ خانساں سے مراد انگریزی عہد کا کھانا پکانے والا نہیں، بلکہ اس دور میں خانساں کے معنی «خان سامان» یا «امیر سامان» تھا۔ یعنی سامان کی حفاظت کرنے والا تھا۔

آج ایکشن کی ضرورت نے انگریز پرست لوگوں کو مجبور کیا کہ مسجد گرا کر اور اس کے کھنڈرات کو میٹریاں بنا کر پنجاب اسمبلی میں جائیں۔ ان مسجد کے شہداءوں سے پوچھو کہ کیا لاہور میں کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں آج کل سرکاری دفاتر قائم ہیں۔ اس کی بازیابی کے لیے تو آواز بلند ہوتی، مگر ایک ایسی مسجد کو گرا کر کونسل کی میٹریاں بنایا جا رہا ہے جس کے گرنے سے پنجاب ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں خون کی ندیاں بہ جانے کا احتمال ہے۔

یہ تقریر صرف آدھ گھنٹہ جاری رہی، اور امیر شریعت کے اس فقرے نے کہ کیا لاہور میں کوئی اور دوسری مسجد نہیں جس میں آج کل سرکاری دفاتر قائم ہیں، حکومت اور عوام کو گہری نگر میں ڈال دیا۔

مسجد شاہ چراغ کے متعلق رائے بہادر کتھیا لال اپنی کتاب «تاریخ لاہور» میں لکھتے ہیں:-

«محلہ سید چراغ شاہ، محلہ موج دیدیا بخاری کے مشرقی جانب واقع تھا۔ سادات گیلانی اس میں سکونت رکھتے تھے۔ یہ محلہ شاہ جہانگیر کے عہد میں آباد ہوا، اور مدت تک آباد رہا۔ آخریے انتظامی کے باعث سکھ

۱۔ امیر شریعت کا یہ اشارہ مسجد شاہ چراغ کی طرف تھا جس میں ان دنوں سرکاری دفتر تھا

غازنگروں نے اس کو دیران کر دیا۔

سید چراغ شاہ کا مقبرہ مسجد نچترہ اب تک موجود ہے، مسجد تو کمری

قبضے میں ہے اور اس میں اکاؤنٹنٹ جنرل کا دفتر ہے“

حکومت پنجاب نے یہ سوچ کر کہ شہید گنج کی مٹی جو سکھ مزدوروں کے ہاتھوں اٹری اول مجلس اجراء کے وامن سے لپٹ گئی، ایسا نہ ہو کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی اس تقریر کے بعد مسجد شاہ چراغ کی اینٹیں حکومت کو بھی زخمی کر دیں، پانچاچھ تقریر کے دوسرے ہی دن اخبارات میں یہ خبر جعلی عنوان سے شائع ہوئی، کہ

”حکومت نے مسجد شاہ چراغ مسلمانوں کو واگزار کر دی ہے اور اس کا

انتظام انجمن اسلامیہ کے سپرد کر دیا ہے“

پھول جب اپنی بہار چھوڑ دیتا ہے، تو نسیم سحرگاہی کا ایک ہی جھونکا  
قتل کی سائش | اسے شاخ سے علیحدہ کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔

جو قومیں حصول زندگی کے سانچے اپنی تن آسانی کے ہاتھوں توڑ دیتی ہیں، پھر نہیں  
اپنے مستقبل کے راستے اندھیرے دکھائی دیتے ہیں۔

ایکٹ ۱۹۳۵ء کے تحت انتخاب کی ضرورت نے مسلمان قوم سے وہ شعور بھیس  
لیا، جس سے امتیاز کی دیوار قائم تھی، اور اپنے پرانے کے درمیان نشان دہی کی جاسکتی تھی۔  
سیاسی شعبہ بازوں نے اچھی بھلی قوم کو نکر کی تمام صلاحیتوں سے بیگانہ کر دیا، اور ایسے  
سبزبانہ دکھائے کہ اپنے پرانے میں امتیاز مشکل ہو گیا۔ مسجد شہید گنج کی ہر اینٹ مجلس اجراء  
کے دفتر کی طرف اٹھنے لگی۔ سیاست کے کھلاڑی مردوں کو اس انداز سے حرکت دیتے کہ سبلا  
کی ساری بازی انہی کے حق میں معلوم ہوتی۔ انہی دنوں قادیان کے بٹوں نے بھی خدائی  
کا دعویٰ کیا، وہ بھی اپنے راستے کے پہاڑ سے ٹکرانے کو نکل پڑے۔

امیر شریعت اپنے رفیقوں کی معیت میں مجھ (ضلع سرگودھا) سے اس مشن پر یوپی

سنگ دورہ کرنے کا ارادہ لے کر روانہ ہوئے کہ مسلمانوں کو سمجھائیں کہ مسجد شہید گنج گری نہیں گرائی گئی ہے۔ اس کے لیے کن کن ہاتھوں نے کیا کیا حرکتیں کیں ہیں۔ چنانچہ مجلس احرار کا یہ وفد امیر شریعت مولانا جلیب الرحمن ایضاً حسام الدین اور (جاننا مرزا) راقم المرحوفہ پر مشتمل مسلسل سفر کے بعد پنجاب کی سرحدوں کو عبور کر کے یو۔ پی میں داخل ہوا۔ یہاں سے مولانا جلیب الرحمن اور شیخ حسام الدین جماعتی ضرورت کے لیے واپس کر دیے گئے۔ اب امیر شریعت اور راقم اس سفر کے لیے..... باقی رہ گئے۔ یہی وہ تاریخی سفر ہے جس کے دوران لکھنؤ میں امیر شریعت پر انکشاف ہوا کہ یہاں (لکھنؤ میں) مدح صحابہ قانوناً جرم ہے اور اسی سفر میں امیر شریعت کے دل میں اس قانون کو ختم کرنے کے ارادے نے جنم لیا۔

یہ سفر کا بنیاد تک جاری رہا، جب واپس ہوئے تو امیر شریعت کی صحت تھکن کی وجہ سے بہت کمزور ہو رہی تھی۔ تاہم کچھ دن سنانے کے بعد اردے، آرزوئیں اور عزم اسی طرح جو ان تھے۔

لاہور پہنچے کچھ دن گزرے تھے کہ پولیس کا ایک ذمہ دار افسر میرے پاس آیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا: ”آپ راجندر سنگھ آتش کو جانتے ہیں؟“

میرے جواب پر اس نے سبھل کر کہا: ”کیسے اور کب سے؟“

”۱۹۳۰ء میں راجندر سنگھ آتش میرے ساتھ لاہور بونٹریل میں بطور سیاسی قیدی کے رہے ہیں۔ اس کے بعد میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی!“

میرے جواب پر پولیس افسر نے کہا: ”چلیے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔“

”کہاں؟“ — ”تھانے کے حوالات میں“ — اب میری پریشانی قدر بڑھی کیونکہ یہی

نوجوان اخبار کی ایک خبر کے مطابق گذشتہ دنوں کلکتہ سے انقلابی پارٹی کا ممبر ہونے کے شبہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس افسر نے مجھے مجبور کیا، کہ میں راجندر سنگھ آتش سے ملوں۔

ان کے ساتھ جب میں متعلقہ تھانے پہنچا تو حوالات میں میں نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو میرے تصور سے بالکل جدا تھا۔

۱۹۳۰ء میں جس راجندر سنگھ آتش کو میں نے دیکھا تھا، اس کے سر کے بال اور ڈاڑھی اس کی عمر سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن پانچ برس گزرنے پر راجندر سنگھ آتش یورپین لباس میں ایک ایسا فیشن ایبل نوجوان تھا، جس کا سر اور منہ سکھ مذہب کے اصولوں سے حذاری کر چکا تھا۔

”آئیے جاننا، صاحب! کیسے مزاج ہیں؟“ ”ٹھیک ہیں“ لیکن آپ نے یہ کیا کیا؟ بس یہی کہانی سنانے کے لیے آپ کو بلایا ہے، یاد ہے گذشتہ دنوں سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے ساتھ آپ نے پنجاب اور یوپی کا دورہ کیا تھا؟ ”جی ہاں“۔ ”میں اس پورے دورے میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا“ اس کے بعد راجندر سنگھ آتش نے ہمارے سفر کے تمام واقعات من و عن سنائے جس کی تصدیق کرنا پڑی۔

”لیکن آپ نے ہمارے ساتھ یہ دورہ کیوں کیا؟“

میرے اس سوال پر اس نے پولیس افسر سے کہا کہ ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا ہٹ جائیں۔ مگر پولیس افسر نے کہا ”میں آپ دونوں کی گفتگو میں ڈیوٹی پر متعین کیا گیا ہوں“۔ اس پر راجندر سنگھ آتش نے اپنی گفتگو کا لہجہ آہستہ کر دیا۔ اس نے بتایا:

”خلیفہ قادیان بشیر الدین محمود نے مجھے سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے قتل پر

مقرر کیا تھا، اور اس کے عرصے دس ہزار روپیہ دینے کا وعدہ کیا، جس کی

ادائیگی پانچ ہزار روپیہ پیشگی اور پانچ ہزار واقعہ کے بعد طے پائی تھی، لیکن میں

اروٹا ایسا نہیں کر سکا۔ حالانکہ مجھے اکثر مواقع میسر آئے۔ لیکن میری ناکامی

کی وجہ صرف یہ رہی کہ شاہ جی کے قتل کرنے کو میرا جی نہیں چاہا۔ ایک

آدمی حوام کو اچھی باتیں سناتا ہے خواہ وہ کسی مذہب سے کیوں نہ ہو، میں

اپنی ذاتی غرض کے لیے اسے کیوں قتل کروں؟

اس کے بعد جب میں واپس قادیان پہنچا تو میری ناکامی پر بشیر الدین محمود نے کہا، تو پھر تم ڈاکٹر گور بخش سنگھ کو قتل کر دو۔ لیکن میں نے اس پر بھی انکار کیا۔ میرے اس انکار پر مرزائیوں نے مجھے ایک سازش کے تحت کلکتہ میں گرفتار کر لیا ہے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں یہ تمام واقعات میں بیان کر دوں کیا..... آپ کی جماعت (مجلس اہوار) اس مقدمے میں میری مدد کرے گی؟

یہ سارا کچھ سننے کے بعد میں نے کہا: پارٹی سے مشورے کے بعد ہی کوئی رائے دے سکتا ہوں۔ اس پر راجندر سنگھ سے میری ملاقات دوسرے دن پر ملتوی ہو گئی۔ دوسرے دن چودھری افضل حق سے بھی پہلے دن کی گفتگو کا ذکر چل ہی رہا تھا کہ اخبارات آگئے۔ چودھری صاحب نے پہلی سُرخ دیکھتے ہی کہا، ”لو! اس کو تو پولیس نے رہا کر دیا۔“ معلوم ہوا کہ پولیس افسر نے ہم دونوں کی گفتگو اپنے حکام کو پہنچائی، تو پنجاب کی حکومت نے بہتری اسی میں سمجھی کہ راجندر سنگھ کو رہا کر دیا جائے۔

قضا و قدر کی تحریریں نہ مٹائی جاسکتی ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی شوشرہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ اپنے قلم کے فیصلے کی طرح ان میں بھی ترمیم چاہتا ہے۔ اگر وہ بہی اور شجاع آباد کے بعد امیر شریعت کے قتل کی یہ چومتی کوشش تھی جو بہر حال ناکام رہی۔

احادات کی پیشانی فلکن آلود تھی انصاف میں انتقامی اردوں کے قاتل سے ملاقات

تیور ہنوز سُرخ تھے کہ امرتسر میں راجندر سنگھ آتش سے پھر ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیر شریعت سے ملنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن میں اسے طرح دے گیا۔ آخر جب اس کا اصرار بڑھا تو میں اسے امیر شریعت کے مکان پر لے گیا۔ قاتل اور مقتول کا انسا مٹنا

لے۔ ڈاکٹر گور بخش سنگھ قادیان میں مرزائیوں کا سخت مخالفت تھا۔



ہونے سے پیشتر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اپنی تسلی کے لیے راجندر سنگھ کے جسم کو ہاتھ اور ننگا ہوں سے کھنکھال ڈالا، جس پر وہ مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ میرے قبضہ پر طنز تھی۔

”لباس اور جسم کی تلاش میں اب کیا رکھا ہے جانتا بادل اور آنکھوں میں دیکھو، جن میں ندامت کے کس قدر آنسو ہیں، جو شاہ جی کی بھینٹ کرنے آیا ہوں۔ میں اپنے پرامتا کی سوگند کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاپ مجھے کچھ تپا پ کے لیے اس عظیم انسان کے ہونوں میں سےیں جھکا دینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کہ جس کی زبان نے میری پھری کو گند کر دیا اور میرے ارادوں کو موت آگنی، درد آج قاتل اور مقتول کا رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا۔“

یہ کہتے ہوئے راجندر سنگھ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور میں نے امیر شریعت کے دروازے پر دستک دی۔

”کون ہے بھائی! اندر جاؤ۔“ یہ امیر شریعت کی آواز تھی، ہم بیٹھک میں چلے گئے۔ امیر شریعت پان بنانے میں مصروف تھے۔

”یہ آپ کا قاتل ہے شاہ جی! میں نے عرض کیا۔ امیر شریعت نے ایک نظر راجندر سنگھ کی طرف دیکھ کر فرمایا: ”ہاں بھائی! ایسے ہی لوگ میرے قاتل ہوتے ہیں“ میں نے اپنے فقرے کو دوبارہ ذرا وضاحت سے دہرایا تو سنبھل کر بیٹھ گئے اور متعجب ہو کر سوال کیا۔ ”کیا مطلب؟“

”یہ راجندر سنگھ آتش ہے، یہ آپ کے حالیہ طویل سفر میں مرزائیوں کی طرف سے آپ کے قتل پر مود کیا گیا تھا۔“

”اچھا۔ کیوں بالو! یہ درست ہے؟“۔ ”ہاں شاہ صاحب!۔“

”تو پھر کون سی چیز مانع رہی؟“۔ ”یہ میں نہیں جانتا شاہ صاحب! مگر آپ کے طرزِ کلام

نے مجھے اس گناہ سے بچائے رکھا۔ اس پر امیر شریعت نے زور سے قہقہہ لگایا۔ اور راجندر سنگھ کو مخاطب کر کے کہا:-

”میرا طرزِ تکلم مجھے کیا بچا سکتا ہے! بابو! موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھو، پورات قبر کی ہے وہ باہر نہیں آسکتی، اور جس رات کو باہر آنا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت قبر کے سپرد نہیں کر سکتی۔ البتہ تمہیں میری نصیحت ہے کہ بحیثیت انسان ہمیشہ انسان کی بھلائی کے لیے سوچا کرو۔ دولت ہاتھ کی میل ہے بابو! اس کے لالچ میں اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے اور میرے قتل کے الزام سے تمہارا دامن محفوظ بھی رہتا تو کسی دوسرے موقع پر بجز جرم کے مارکھا جاتے۔۔۔ خیر!“

امیر شریعت پھر مسکرائے اور قرآن کریم کی چند آیات کا ترجمہ سنانے رہے کہ اتنے میں چائے آگئی۔ راجندر سنگھ امیر شریعت کی گفتگو اور قرآن عزیز کے لفظوں میں اپنے ماضی پر غور کرتا ہوا بے اختیار رونے لگ پڑا اور روتا ہوا امیر شریعت کے قدموں پر گر پڑا۔

”اپنے رب کے سامنے گرو جو تمہیں معاف کرے میں تو تمہارا چاکر

ہوں بابو! لو چائے پیو“

امیر شریعت اور راجندر سنگھ آتش کے درمیان یہ ملاقات مغرب کی نماز تک رہی۔

پنجاب اور یوپی کا دورہ کرتے ہوئے لکھنؤ راجاٹھ شاکت علی ہیں  
تحریکِ ملاح صحابہ رضی

تقریر کے دوران کسی نے امیر شریعت سے صحابہ کرام کے نام کے

ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر بلند آواز سے پکارا۔

”شاہ صاحب! یہاں صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا۔۔۔“

یہ فقرہ سنتے ہی امیر شریعت نے مجمع سے دوبارہ تصدیق کی۔ اور مباحثہ طبیعت

میں یکایک تیزی آگئی، اور صحابہ کرام کا بار بار نام لیا، اور ہر نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا۔

حالات کا امیر شریعت چار روز لکھنؤ ٹھہرے، لیکن قانون اور حکومت دونوں خاموش رہے۔  
امر تہ واپس پہنچ کر جماعت سے صلاح و مشورے کے بعد ۲۶ - اگست ۱۹۲۵ کو دوبارہ  
لکھنؤ گئے اور چوک فرنگی محل میں تقریر کے دوران کہا:-

”مجھے افسوس ہے کہ انگریزوں نے لکھنؤ میں ایک ایسا قانون جاری کر رکھا  
ہے، جس کی رو سے منقبت صحابہ کرنا اور کرانا مجرم ہے۔ حضرت ابو بکر و  
عمر، عثمان غنی و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کرنا قابلِ سزا مجرم ہے،  
اور یہ سزا دو سال قید تک ہے۔

غضبِ خدا کا اسی ہزار اہل سنت والجماعت کی آبادی اور وہ اس  
قانون کو حکومت سے نہیں بد لواتی۔ چند ماہ ہوئے ہمارے بھائی غازی  
منے ٹھاں نے یہاں مدح صحابہ پڑھی تھی جس کی پاداش میں ان پر مقدمہ چل  
رہا ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس قانون کو فوراً منسوخ  
کر دے۔ یہ مداخلت فی الدین ہے۔ حکومت نے خود مذہب کی آزادی  
کا اعلان کر رکھا ہے۔

گالیاں بکنا تو مجرم ہو سکتا ہے، مگر کسی کی تعریف کرنا کیونکر مجرم قرار  
دیا جاسکتا ہے۔ آج حکومت نے قمار بازی، شراب نوشی اور عصمت فروشی  
پر کوئی پابندی حائد نہیں کی۔ لیکن خلفائے راشدین کی تعریف پر پابندی حائد  
ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن پر خود کرے۔

میں شیعہ حضرات سے خطاب نہیں کر رہا، بلکہ میرا دوسرے شعبہ حکومت  
کی طرف ہے، شاید کل کو کچھ اور سمجھ لیا جائے۔ اس لیے کان کھول کر سن  
و، میں تمام یو اپی کو ایک مرکز پر جمع کر دوں گا، اور اس قانون کو آئینی جدوجہد

سے لکھنؤ مجلس اہل حق کے ناظم اعلیٰ تھے۔

ختم کرکرموں گا۔ اور اگر اس طرح بھی اس قانون کو ختم نہ کیا گیا تو پھر میں بے آئینی بھی کر سکتا ہوں :-

ہندوستان کے موجودہ سیاسی حالات میں حکومت ان دنوں کسی طرح بھی دوسرے رنگ میں سوچنا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ کیونکہ ۱۹۲۵ء کے آئین کے نتیجے میں جو واقعات سامنے آنے والے تھے، ان کے پیش نظر صوبائی جھگڑوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی، لہذا امیر شریعت کی مندرجہ بالا تقریر کو حکومت نے ہوا کے دوش پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد مجلس احرار نے اس معاملہ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یہاں سے تحریک مدح صحابہؓ کی ابتداء ہوئی۔

**قادیان میں نمازِ جمعہ** | احرار ہمیشہ خیالات اور جذبات کے دو مختلف محاذوں پر برسرِ پیکار رہتے ہیں، اول ہندوستان میں اسلام کا غلبہ اور دوسرے درجہ پر وطن کی آزادی۔

ان آئینے سامنے کے دو مختلف محوروں پر احرار کبھی انگریزوں سے اور کبھی ہندو سے بزدل آزار ہے۔

۱۹۲۵ء میں انگریزوں نے جو آئین ہندوستان کو دیا۔ احرار اپنے دونوں مقاصد کے لیے اس آئین کے تحت ایکشن میں اترنے کی تیاری کر رہے تھے کہ پنجاب میں مسجد شہید گنج اور یو، پی میں مدح صحابہؓ کے ڈو ایسے جال پھیلانے جن کا تعلق احرار کے جذبہ ایمان سے تھا۔ اسی سلسلے میں امیر شریعت کے مقدمے کا فیصلہ لکھتے وقت گورنر سپرو کے سیشن جج مسٹر جی، ڈی کھوسلہ نے مزاحمت کے تابوت میں جو میخ ٹھونکی، اس نے قادیانی مذہب کی بنیادوں میں دراڑ ڈال دی، چنانچہ اس سختی کو مٹانے کے لیے خلیفہ قادیان بشیر الدین محمود نے احرار کو مباہلہ کے لیے قادیان آنے کی دعوت دی جسے احرار نے فوراً قبول کر لیا۔ جب وہ تیار ہو کر قادیان جانے لگے تو قادیانیوں نے اپنی مکرار

سے واویلا کرنا شروع کیا کہ دیکھو احرار پھر قادیان آرہے ہیں۔ چنانچہ حکومت نے قادیان میں دفعہ ۱۲۲ کا نفاذ کر دیا۔ چونکہ احرار اس سفر کا عزم کر چکے تھے، لہذا جماعت نے قادیان میں نماز جمعہ پڑھنے کا اعلان کر دیا، اور امامت کے لیے امیر شریعت کا نام تجویز کیا گیا۔

سال بھر کی دوڑ دھوپ اور مقدمہ سے رہائی کے بعد امیر شریعت کچھ دنوں گھر میں سستانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ جماعتی فیصلے کے تحت مولانا مظہر علی انظر اتر کر بیٹھیں اور امیر شریعت کو جماعتی فیصلے سے آگاہ کیا۔ امیر شریعت نے مجلس احرار اسلام ہند کے ناظم اعلیٰ کا حکم سن کر مقننہ میں دیر سوچنے کے بعد کہا — مثبت اچھا، جو مزاج یا میں آئے۔

۶ دسمبر ۱۹۳۵ء کو امیر شریعت بذریعہ گاڑھی اتر کر سے قادیان روانہ ہوئے۔ اس وقت احرار دستوں کا جم غفیر بھی ان کی معیت میں اسی گاڑھی پر سوار ہوا۔ جٹاڑیو اسٹیشن

پر پولیس افسروں نے امیر شریعت سے دفعہ ۱۲۲ کے نوٹس پر تعمیل کرانی چاہی، جس کی رو سے امیر شریعت قادیان کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن امیر شریعت نے تعمیل نوٹس سے انکار کر دیا، اور اپنا سفر جاری رکھا۔ جینتی پور کے ریلوے اسٹیشن پر سب انسپکٹ پولیس

خاں چراغ الدین نے امیر شریعت کو دفعہ ۱۲۲ کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا، اور اسی وقت سفری مجسٹریٹ سٹریٹس نے آپ کو تین ماہ قید اور ایک سو روپیہ جرمانہ اور عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں مزید ایک ماہ قید با مشقت کی سزا کا حکم سن کر گورنر اسپورٹس ڈسٹرکٹ

جیل بھیج دیا، جہاں سے ایک ہفتہ بعد آپ کو لاہور سنٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ قادیان میں نماز جمعہ کی تحریک نے مستقل شکل اختیار کر لی، اور ہر جمعہ کوئی نہ کوئی گرفتاری ہوتی۔ آخر ایک ماہ بعد حکومت نے دفعہ ۱۲۲ واپس لے لی، مگر لیڈروں کو اپنی میعاد امیر می گرانے کے بعد رہا کیا گیا۔ چنانچہ امیر شریعت ۱۵ اپریل ۱۹۳۶ء کو لاہور سنٹرل جیل سے رہا ہو کر آئے۔

امیر شریعت رہا ہو کر آئے تو ملک کی سیاسی فضا یکسر بدلی ہوئی پائی۔

سینما کی تعمیر

مجلس احرار سمیت تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مینی فسٹو کے تحت

انتخابی ہنگاموں میں مصروف تھیں۔ امیر شریعت کامزاج ان ہنگاموں سے متفق نہ تھا۔ آپ فرمایا کرتے کہ:-

”برطانیہ نے ہندوستان کو ایسا آئین بنانے کی اجازت کیونکر دے دی جس کے تحت صوبے خود مختار ہوں گے“

اور ساتھ ہی غالب کا یہ شعر پڑھتے تھے

مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دورِ جام

ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں

لیکن جماعت (مجلس اہوار) ایکشن رٹھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ لہذا امیر شریعت نے بادل سناستہ اپنی طبیعت کا رخ بھی اسی طرف موڑ لیا۔

مجلس اہوار کی پوزیشن اندام شہید گنج کے بعد عوام میں محدود ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود پنجاب کی سیاسی زندگی اہوار سے عبارت تھی اور دوسری کسی جماعت یا افراد کے لیے مشکل تھا کہ وہ اہوار کے بغیر آگے بڑھ سکے۔ چنانچہ سر فضل حسین ایک طرف سر سکند حیات سے تو دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح سے پنجاب کے آئندہ انتخابات کے سلسلہ میں مصروف گفتگو تھے۔ اسی طرح سر سکند حیات کے ایمار پر نواب مظفر علی جوہان دونوں گورنر کی انتظامیہ کے ممبر تھے، مجلس اہوار سے ناٹھ جوڑ رہے تھے۔

اس موقع پر صدر گوردوارہ پر بندھک کمیٹی راولپنڈی نے جامعہ مسجد راولپنڈی کے حقب میں سینما تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود سینما مکمل ہو رہا تھا کہ مسلمانان راولپنڈی نے امیر شریعت کو اپنی مشکلات سے آگاہ کیا اور انہیں راولپنڈی آنے کی دعوت دی۔

انتخابات کا زمانہ اپنے جلو میں جن واقعات کو جنم دیتا ہے، ان کے شب و روز میں ہزاروں بے بنیاد کمائیاں اپنے نقش و نگار تراشتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں۔ لیکن

ان کے سہارا اپنے ذہن کی قدوکاوش میں فارغ نہیں بیٹھتے۔ امیر شریعت کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ جماعت کے انتخابی پروگرام کے درمیان کوئی دوسری مصروفیت اختیار کرتے، تاہم اس دینی کام کیلئے انہوں نے راولپنڈی کیلئے وقت نکال لیا۔ راولپنڈی میں سکھ مسلمان کشیدگی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ دونوں طرف آگ برابر لگ رہی تھی۔ ہندو اپنی دولت کے سہارے سکھوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ امیر شریعت نے دو ایک دن میں شہر کے حالات دیکھے اور سنے۔ آخر خیزین شہر کو جن میں سکھ، ہندو اور مقامی حکام بھی شامل تھے، باہم مل بیٹھنے کی دعوت دی۔ یہ اجتماع شہر کی جامع مسجد میں ہوا اس اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے امیر شریعت نے کہا:-

”سکھ صاحبان اور دوسرے معزز دوستو! میں ایک مسافر ہوں۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے شہری معاملات میں مداخلت کروں۔ گذشتہ برسوں سے میری زندگی کا ایک مشن رہا ہے کہ میں انسانوں کو بڑھا دیکھنا پسند نہیں کرتا، پھر جبکہ ایک تیسری حکومت ہم کو بڑھا دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ہمارے لیے آپس کی صلح اور بھی زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ جو فری سے جو قضیہ آپ کے شہر میں چل رہا ہے، جس نے آپ کی شہری زندگی میں ایسا زہر گھول دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔“

یہ مسجد ہے، اور ایک مذہبی آدمی جوئے کی حیثیت سے اس کا احترام میرے لیے لازمی ہے۔ اسی قدر آپ کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں گوردوارہ کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ بھی رب کی عبادت گاہ ہے۔ گو میرا، آپ کا عقیدہ عبادت جدا ہے۔

اگر گوردوارہ کے سامنے یا برابر میں کوئی جگامہ ہو، تو آپ برداشت کریں گے؛ یقیناً نہیں۔ اسی طرح یہ حق مجھے بھی دو کہ میں مسجد کے احترام میں آپ سے گزارش کروں، کہ آپ یہاں سینما کی تعمیر بند کر دیں یہ میری درخواست ہے۔

میں یہ درخواست آپ سے ایسے وقت کر رہا ہوں، جب کہ مارا ہندوستان انگریز سے آئینی لڑائی میں مصروف ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ شہر میں امن ہو جائے گا۔ بھوبلیٹی کی عزت محفوظ رہے گی شہری زندگی کسی دوسری طرف دھیان کر سکے گی۔

مجھے آپ جانتے ہیں، میں ان دھندوں کا آدمی نہیں ہوں لیکن آپ کی پریشان زندگی اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی نے مجھے مجبور کیا کہ میں پارٹی کا کام چھوڑ کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔

مجھے امید ہے کہ سکھ صاحبان میری گزارش کو قبول کریں گے؟

امیر شریعت کی اس تقریر نے اجتماع کو متاثر کیا۔ مقامی حکام کی موجودگی میں گوردوارہ پر بندھک کمیٹی کے عہدیداران نے وعدہ کیا کہ آئندہ سے سینما کی تعمیر روک دی جائے گی۔ صبح ہوتے ہی سکھ عوام کو اس فیصلے کی اطلاع ملی، تو انہوں نے مذہبی ضد کی بنا پر رات کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اور شہر کے حالات زیادہ خطرناک ہو گئے۔ دوسرے دن امیر شریعت نے جامعہ مسجد میں تقریر کرتے ہوئے سرکاری حکام اور شہری عوام کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ مسنونہ کے بعد کہا:

رات معزز افسران اور نوڈوٹیجی کمشنر کی موجودگی میں سکھ صاحبان سے جو فیصلہ ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہے، کہ سکھ رہنما اپنی قوم سے وہ فیصلہ منیانا گئے۔ اب میں اپنا فیصلہ اپنی قوم سے منوا کر دکھاؤں گا۔ بشرطیکہ



مقامی حکام درمیان میں حائل نہ ہوں۔ ہاں اگر وہ انتظامی معاملات میں کوئی چارہ کریں اتواس سے میں منع نہیں کروں گا۔

میری اس گفتگو سے یہ مراد نہ لی جائے کہ مسلمان اسکے بھائیوں سے دست و گریبان ہوں گے۔ ہمیں، بلکہ میں عدم تشدد کا حامی ہوں اور اسی پر کار بند رہ کر اپنی بات اپنی قوم سے متواؤں گا۔ فیصلہ کل رات کو ہوگا۔

۱۲ گھنٹے باقی ہیں، اسکے صاحبان کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔

دوسرے دن شہر میں حالات اور بھی کشیدہ ہو گئے۔ دن بھر سکھ پریشان رہے نہ جانے شاہ جی رات کو کیا حکم دیں۔ حکومت اپنی جگہ سوچ میں رہی، شہر میں پولیس اور فوج کی تقریری میں اضافہ کر دیا گیا۔ رات پھر جلسے کا اعلان تھا۔ جامع مسجد میں انسانوں کا اس قدر ہجوم اس مسجد کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ امیر شریعت اس دن خلاف معمول نمازِ عشاء کے ساتھ ہی تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے صحت مسلمان نوجوانوں سے پختہ منٹ خطاب کیا۔ زندگی میں اتنی مختصر تقریر امیر شریعت نے کبھی نہیں کی تھی۔

” عزیزو! ہماری لڑائی کسی سے نہیں، اگر کوئی قوم اپنی ضد پر اتر آئے تو ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے، لہذا ایسا کام کرو کہ سانپ بھی مرجائے اور لالچی بھی نہ ٹوٹے، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گا وہی کر دو گے۔“ اس موقع پر تمام مجمع نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا، امیر شریعت نے کہا۔

” دیکھو! جو میں کہوں گا وہی کرنا ہوگا، اگر کسی دوسری حرکت کی شکایت

آئی تو میں ناراض ہو کر چلا جاؤں گا“

اس پر مجمع نے پھر وعدہ کیا۔

” عزیزان من! یا تو مسجد نہ رہے اور یا سینما نہ بنے۔ میں نے مقدور مجھ  
 کوشش کی۔ شہر کے ذمہ دار حکام گواہ ہیں، کہ سکھ رہنماؤں نے وعدہ کے  
 باوجود بات نہیں مانی۔ خیر! اب تم اپنا کام کرو، یا تو مسجد کے قریب سینما  
 نہ ہو اور یا سینما کے قریب مسجد نہ ہو! بس! لیکن میری یہ درخواست  
 یاد رہے کہ اینٹوں کے سوا انسانوں پر ہاتھ نہ اٹھیں۔“

امیر شریعت کی تقریر سنستے ہی تمام مجمع سینما کی طرف دوڑا، اور صبح اٹھے تو ایک  
 اینٹ دہاں باقی نہیں تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنوں کی فوج نے راتوں رات سینما  
 کا تمام بلداٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیا کہ اب اس کا نشان تک نہیں ملتا۔  
 حالانکہ پولیس کا انتظام تھا، سکھ نوجوان سپرے کھڑے تھے۔ لیکن امیر شریعت  
 نے پہلے روز جو طرز عمل اختیار کیا تھا، سرکاری حکام اس سے مطمئن تھے، سکھ رہنماؤں  
 نے مسجد میں جو وعدے کیے تھے، وہ ان سے سُخرت ہو چکے تھے، لہذا مسلمان نوجوانوں  
 کے ہاتھ جب رات کے اندھیرے میں زیر تعمیر سینما کی طرف بڑھے تو سکھ قوم کے توتی  
 جذبات پولیس کی حفاظتی دیوار توڑنے کی جرأت نہ کر سکے۔  
 راولپنڈی کا یہ تاریخی میدان آج مجاہد پارک کے نام سے مشہور ہے۔

تبلیغ اسلام | ۱۹۲۵ء کے بھٹانوی آئین نے جہاں حالات میں مزید رد و بدل کیا،  
 وہاں چھوٹوں کو ہندوستان کی ایک الگ قوم قرار دیتے ہوئے یہ حق  
 بھی دیا کہ وہ بحیثیت ایک ہندوستانی قوم اپنی قومیت برقرار رکھتے ہوئے نئے قانون  
 کے مطابق الگ انتخاب لڑ سکتے ہیں، جبکہ اس سے پیشتر کے آئین میں چھوٹوں کا ووٹ  
 ہندو قوم کے ساتھ شامل ہوتا تھا۔

اس اعلان نے ہندوؤں میں ایک خاص قسم کا سیاسی ہیجان پیدا کر دیا۔ مولانا مازھی  
 نے انہی دنوں بھارت کے اس قانون کو تبدیل کرانے کے لیے ۷۰۔ ستمبر ۱۹۲۵ء کو رکن برت

رکھنے کا فیصلہ کیا۔ نیز ہندو قوم کو اچھوتوں پر اپنے مندوں کے دروازے کھول دینے کا مشورہ بھی دیا۔

سیاسات کی دوڑ میں قدم نہیں ناپے جاتے، دوٹ گئے جاتے ہیں، جو قوم صدیوں سے اچھوتوں کے سائے سے دامن بچا رہی، اپنی سیاسی ضرورت کیلئے اس نے صرف اچھوتوں کو انسان تسلیم کیا بلکہ انہیں اپنی برادری کا جزو سمجھنے پر مجبور ہو گئی۔ انہی دنوں ۲۳ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو لاہور میں اچھوت کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے امیر شریعت نے مسلمان قوم کو بیغام دیا:-

”اس وقت ہمارے سامنے تین مسئلے سب سے زیادہ اہم اور غور طلب ہیں۔ پہلا مسئلہ انتخاب کا ہے، جس کا ظاہر اتنا دلغریب ہے کہ بڑے سے بڑا تارک الدنیا گوشہ نشین بھی اس کے حُسنِ دلفریب کی تاب نہ لاسکا، اور بے چین ہو کر میدانِ انتخاب میں نکل آیا، نہ کوئی بند بچا نہ سکھ اور نہ عیسائی۔ مسلمان بھی اس سے بے نیاز نہیں۔ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں جو مسئلہ انتخاب میں دلچسپی نہ رکھتی ہو۔

دوسرا مسئلہ ختمِ نبوت کا ہے۔ چونکہ مسلمان سیاسی الجھنوں میں مصروف ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ ہندوستان کو ابدی فلامی میں جکڑے رکھنے کے لیے قادیانی نبوت اپنا جال پھیلا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس دائمی لعنت سے بچنے کے لیے کوئی راہ سوچنا بڑا ضروری ہے۔

تیسرا اہم مسئلہ اچھوتوں کا ہے۔ اس وقت تمام ہندوستان کی توجہ ڈاکٹر امبیڈکار کے اعلانات کی طرف ہے، وہ پولیٹیکل اچھوت ہے

اور ہندوؤں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت ہندوؤں کو دبانے سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اب وہ ٹاٹ پر بیٹھتا میں چانتا لیکن ہندوستان کے آٹھ کروڑ اچھوت جو ہزاروں سال سے حیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اگر ان کو مساوات اور انسانیت کا درجہ کسی مذہب میں حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا دنیا کا کوئی مذہب اچھوتوں کو اپنے میں حقیقی طور پر جذب نہیں کر سکتا۔

کائنات میں سب سے بڑا اچھوت غلامی ہے۔ غلام کا جسم ادا اس کی کمائی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ مالک کی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے دنیا میں غلام کا درجہ بلند کر دیا ہے، اور اچھوت پر سب سے بڑا احسان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی پھوپھی زاد ہمیشہ زید سے منسوب کر دی، جو غلام تھا۔ اسلام نے مذہب کے معاملہ میں جبر و کراہ سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنے عمل سے اسلام کی تلقین کی، کہ ایسے لوگوں سے کیا سلوک کیا جائے جو مسلمان نہیں۔

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے

مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی!

لیکن بغیر نشے کے کسی کو سچا ٹرنا کام رکھتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عمل سے اور اپنے مذہب کی تجویزوں کے ذریعے اچھوتوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں اور سوائے مذہب اسلام قبول کرنے کے ان کے لیے کوئی چارہ نہ رہے۔

اس ضمن میں امیر شریعت نے اپنے چشم دید واقعات بیان کیے ، جن کی رو سے اچھوت ہمیشہ اپنے کو انسانی دائرے سے بھی خارج سمجھتے ہیں۔

مسلمانوں کو روٹ لو اور اٹھا لو ان گروے ہوئے اچھوتوں کو اور اپنے سینے سے لگاؤ۔ ہم روپیہ دے کر کبھی بھی ان کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ نہ ہندو قوم کی طرح ہم انہیں سیاسی لالچ دے کر ان کے دودھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام! اسلام ہے! تہنکی سجانے کیلئے دریا کسی کے گھر نہیں جانا، ہمیشہ پیاسے ہی دریاؤں پر جاتے ہیں۔ کوئی تلوار کا ڈگر نہیں ہوتی۔ لیکن اخلاق کی تلوار انسان کو ہمیشہ کے لیے رام کر لیتی ہے۔ اس لیے اچھوتوں کو ساتھ ملانے اور دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس خلقِ عظیم کو اختیار کرو جو اسلام نے تم کو بخشا ہے۔“

ڈسکہ میں انتخابی معرکہ | متحدہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ۱۹۳۶ء کا سال آئینی جدوجہد کا اہم سال قرار دیا جاسکتا ہے، اس سال کسی بھی سیاسی جماعت نے غیر آئینی حرکت نہیں کی، بلکہ ہر پارٹی انتخاب کے ذریعے اقتدار کی کشمکش میں مصروف رہی۔

مجلس احرار، مسجد شہید گنج کے جلسے کے طہیر سے نکل کر پنوز اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی کہ انتخاب کا ہنگامہ سر پرآن پہنچا۔ چنانچہ اس کی نگاہ انتخاب نے پنجاب میں جن شہروں اور قصبات کو دین، وطن، اور جماعتی ضرورت کے لیے منتخب کیا ان میں ڈسکہ (ضلع سیالکوٹ)، کی سیٹ پراس کی خاص نظر رہی۔ گزشتہ سال مجلس احرار کا وفد جب دہلی میں وائسرائے ہند سے ملا کہ وہ چودھری سر ظفر اللہ خاں کو اپنی

انشائیہ میں شامل نہ کریں تو دائرے کے لئے جواب میں لکھا کہ سر ظفر اللہ خاں مسلمانوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر آنا ہے۔ مجلس احرار اس وقت تو لا جواب رہی۔ مگر اب وقت آگیا تھا کہ دائرے کے سوال کا جواب دیا جائے۔

اگرچہ امیر شریعت انجمنیات کے دنوں پنجاب کے علاوہ صوبہ یو۔ پی میں بھی صرف تھے تاہم ان کی زیادہ تر توجہ کامرگز ڈسکہ کی سیٹ تھی۔ چودھری سر ظفر اللہ خاں میٹھی سیٹ سے مسلمانوں کے ووٹوں سے کامیاب چلا آ رہا تھا اور آج اس کا بھائی چودھری اسد اللہ خاں ایڈووکیٹ اسی سیٹ پر الیکشن کے میدان میں سامنے آیا تھا، سر ظفر اللہ خاں اپنی جاٹ برادری اور ضلع میں مقبول عام تھا۔ سرکاری اثر و رسوخ بھی اسے پناہ دیے ہوئے تھا۔ اس تحصیل کے مسلمانوں پر چودھری ظفر اللہ خاں کا اثر ریاستی نواب کی طرح تھا، ایسے حالات میں یہ ٹکراؤ بڑی جان جو کھوں کا کام تھا، خصوصاً جبکہ الیکشن بھائی چارے اور برادریوں کے نام پر لڑے جا رہے ہوں۔

بڑی ددڑ دھوپ کے بعد اسی برادری کے ایک معزز جاٹ چودھری غلام رسول سترہ جو اپنے حلقہ میں خاصے رسوخ کے مالک تھے، مجلس احرار کے ہلکٹ پر انتخاب لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے۔

چودھری غلام رسول کے پاس روپیہ، برادری کا اثر و رسوخ سب کچھ تھا۔ لیکن سرکاری دباؤ کا خوف سبب رہا تھا، دوسری جانب مجلس احرار سمجھتی تھی کہ یہی شخصیت سر ظفر اللہ کے کفر کو توڑ سکے گی۔ چنانچہ ایک رات امیر شریعت نے چودھری غلام رسول سے کہا:-

”دیکھو غلام رسول! اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال ہے، غیر ملکی حکومت کا نمائندہ (دائرے کے) کتا ہے کہ تم ظفر اللہ کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن اس حلقہ کا مسلمان تو اس کو ووٹ

دے کر منتخب کرتا ہے۔

چودھری صاحب! اگر آج اس سیٹ سے اس خاندان کا کوئی فرد جو حضور سرور کائنات کو آخری نبی تمہیں، نانا مسلمانوں کے وراثت سے امہلی میں چلا گیا تو قیامت کے دن تم مجرم قرار پاؤ گے، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیوی خوبیوں سے نوازا ہے۔ برادری میں تمہارا اثر اس سے کم نہیں آتا اور عزت تمہیں بھی خدا نے دی ہے۔ حکومت میں تمہارا بھی وقار ہے۔  
امیر شریعت کی یہ باتیں سن کر چودھری غلام رسول نے کہا۔

”شاہ جی! میں بہت ہی سیاہ کار ہوں، اس کے باوجود آپ حکم دیتے ہیں، تو حاضر ہوں۔ لیکن میرے پاس برادری کی وہ قوت نہیں جو چودھری سر ظفر اللہ کے پاس ہے۔ وہ پیر تو میں خرچ کر سکتا ہوں، لیکن حلقہ اور برادری کے ذمہ دار لوگ شاید میرا ساتھ نہیں دے۔“  
امیر شریعت نے چودھری غلام رسول کا حوصلہ بڑھانے ہوئے کہا۔

”تم اللہ کے رسول کی عزت رکھو، اللہ تمہاری عزت کا وارث ہوگا۔ مجلس اجراء کی سرخ فوج آج سے تمہارے حلقہ میں متعین کر دی گئی ہے، بے فکر رہو۔“

یونگ شروع ہونے میں قریباً ایک ماہ باقی تھا کہ ڈسک سیٹ کی مہم شروع کی گئی۔ امیر شریعت دوسرے حلقوں کے علاوہ اس حلقہ میں زیادہ وقت اور توجہ صرف کرتے، امرتسر حکومت کے اشارے پر حکومت پنجاب نے بھی اس سیٹ پر خاصی توجہ دی۔ امیر شریعت نے گاؤں گاؤں پھر کر جاٹ برادری کو خصوصیت کے ساتھ حضور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ناموں پر اپیل کی، کہ وہ اپنا ووٹ برادری کے نام پر نہیں بلکہ حضور کے نام پر دیں، تاکہ دشمنان دین کے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں۔ اس سلسلے میں امیر شریعت جب

گھونٹیکے (ضلع سیالکوٹ) پہنچے تو وہاں نماز جمعہ پڑھانے کا پروگرام تھا۔ چودھری عبدالغنی گھمن بھراپنی جاٹ برادری کے بندوقوں، لپتووں اور دوسرے اسلو سے مسلح ہو کر ان پہنچے کہ ہم عطا اللہ شاہ بخاری کو تقریر نہیں کرنے دیں گے (یہ لوگ چودھری اسد اللہ کے حامی تھے) امیر شریعت نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں، تو میں صرف جمعہ کی نماز پڑھوں؛ اس پر انہوں نے ہاں کہہ دی۔ چنانچہ نماز سے پہلے امیر شریعت نے قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھا اور مخالفین سے پوچھا، اگر آپ حکم دیں تو اس آیت کی تشریح کر دوں۔ اس پر مخالفین کے دو حصے ہو گئے۔ ایک گروہ تشریح کے حق میں تھا اور دوسرا مخالف۔ آخر شاہ جی نے قرآن کریم کی تفسیر شروع کی، بس پھر کیا تھا کہ جمعہ کی نماز بھی مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ بعد پڑھی گئی۔ آخر میں مخالفین امیر شریعت کے ہمنوا ہو گئے اور چودھری عبدالغنی گھمن کو اپنے ارادے میں بری طرح شکست ہو گئی۔

کیونکہ امیر شریعت جاٹ برادری کے دل اپنے قبضے میں کر چکے تھے، ہزار جدوجہد کے باوجود سرکاری اثر و رسوخ بھی کوئی کام نہ دے سکا۔ یہ لڑائی، مسلمان اور مرزائی کے عنوان پر لڑی گئی۔ امیر شریعت کی مسلسل اور سہم تقریروں سے ڈسکہ تحصیل کا مسلمان، مرزائی اور مسلمان کے درمیان جہد فاصل کو سمجھ گیا، اور جب اس الیکشن کا نتیجہ سامنے آیا تو چودھری غلام رسول مترآہ نے چودھری اسد اللہ خاں ایڈووکیٹ کو ہزاروں ووٹوں سے شکست دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، کہ سیاسی طور پر اس گھرانے کا دقار ڈسکہ تحصیل سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور تحریک مرزائیت کو خاصہ نقصان پہنچا۔

حضرت مدنیؒ سے اختلاف

انتخابی موسم بھی عجیب موسم ہوتا ہے، ہر پارٹی سیاسی اکھاڑوں میں ایسے ایسے داد پیچ کھیلتی ہے کہ

آدمی منہ دکھینا رہ جاتا ہے۔

۱۹۳۶ء میں متحدہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں نے ایکٹ ۱۹۳۵ء کے تحت



انتخابات میں جو طریقے استعمال کیے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلم لیگ کے رہنماؤں نے جمیۃ علماء ہند سے بعض ایسے دھڑے کیے کہ مولانا مفتی کفایت اللہ اور مولانا حسین احمد مدنی ایسے مذہبی اور سیاسی سوچ بوجھ کے لوگ اس بساط پر بات کھا گئے، اجمیۃ علماء ہند اور مسلم لیگ نے باہمی اشتراک سے یوپی کے تمام اضلاع میں الیکشن لڑا۔ انہی دنوں ۲۶- اکتوبر ۱۹۴۶ء کو امیر شریعت، حافظ محمد ابراہیم کی حمایت میں ضلع بجنور کا دورہ کر رہے تھے کہ بجنور میں مولانا حسرت موہانی سے ٹکھڑ ہو گئی۔

امیر شریعت ایک جلسہ میں تقریر کر رہے تھے، کہ مولانا حسرت موہانی مخالفتِ امت سے خاصی جماعت کے ساتھ امیر شریعت کی مخالفت کے لیے جلسہ گاہ میں آن پہنچے علوم امیر شریعت کی تقریر سے متاثر ہو چکے تھے، انہوں نے مولانا حسرت موہانی کی اس حرکت کو ناپسند کیا، اور قریب تھا کہ مجمع مولانا حسرت موہانی پر ٹوٹ پڑتا، امیر شریعت نے مداخلت کر کے مولانا حسرت کو بالا احترام سیٹج پر بٹھالیا۔ تقریر جاری رہی۔ آخر جو لوگ مولانا حسرت کے ساتھ امیر شریعت کی مخالفت کرنے آئے تھے، اس قدر زام ہوئے کہ ان کے لیے یہاں سے واپسی مشکل ہو گئی۔

بجنور سے الٹا باد جاتے ہوئے اسٹیشن پر حضرت شیخ احمد مولانا حسین احمد مدنی سے امیر شریعت کی ملاقات ہوئی۔ عقیدت، محبت اور احترام کے طے جلے جذبات سے امیر شریعت نے آگے بڑھ کر حضرت سے مصافحہ اور مخالفت کرنا چاہا، لیکن حضرت مدنی نے جو ان دنوں مسلم لیگ کی حمایت کر رہے تھے، امیر شریعت سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا۔

”چونکہ آپ کا مسک غلط ہے لہذا میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“

اس پر امیر شریعت کو دلی رنج پہنچا، اور حضرت مدنی سے عرض کیا۔

”حضرت! اگر آپ حکم کریں تو میں اپنا یہ دورہ ملتوی کر کے پنجاب چلا جاؤں چونکہ آپ مسلم لیگ سے اشتراک کیے ہوئے ہیں، اور اپنے خادموں سے

ناراض ہیں، لیکن آنے والے کل کو آپ اپنے فیصلے پر خود تادم ہوں گے۔  
مسلم لیگ سے آپ کا یہ اشتراک عمل سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ کل تک آپ  
خود ہمیں درس دیتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ سرکار پرستوں کی ٹوٹی ہے۔  
غیر!..... آپ نراض ہوں تب بھی میں نیاز مند ہوں“

اس گفتگو کے بعد امیر شریعت اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔

انتخاب ختم ہونے پر مارچ ۱۹۳۷ء میں مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کا جو پہلا اجلاس ہوا،  
اس میں تمام رجحیت پسند ممبران شامل ہوئے۔ اس پر جمعیتہ علمائے ہند نے اعتراض کیا کہ  
جمعیتہ علماء اور مسلم لیگ کا سمجھوتہ اس بنیاد پر تھا، کہ مسلم لیگ سے تمام رجحیت پسند عناصر  
کو نکال دیا جائے گا، تو آج انتخاب کی کامیابی کے بعد ایسے عناصر کو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس  
میں شامل کرنا اپنے وعدوں سے انحراف کرنا ہے۔

یکم اپریل ۱۹۳۷ء کا دن ایکٹ ۱۹۳۵ء کے نفاذ کا دن تھا۔ کانگریس اور جمعیتہ علماء کے  
درمیان اس ایکٹ کے خلاف ہڑتال کرنے کا فیصلہ تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے  
مسلم لیگ کی تمام شاخوں کو حکم دیا کہ وہ اس ہڑتال میں حصہ نہ لیں، اس پر جمعیتہ علماء نے  
قائد اعظم سے دریافت کیا کہ جب تمام سیاسی جماعتوں نے اس ایکٹ کی مخالفت کا فیصلہ  
کیا ہے تو آپ نے اس سے علیحدگی کا کیوں اعلان کیا ہے؟ اس پر صدر مسلم لیگ نے  
اپنے ایکسپریس بیان میں کہا کہ جمعیتہ علماء الیکشن میں مسلم لیگ سے اشتراک کر چکی ہے  
تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلوں پر اعتراض کرے۔

اس بیان کا شائع ہونا تھا کہ جمعیتہ علماء نے مسلم لیگ کی عمدگنی کی بنا پر علیحدگی  
کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان پڑھ کر امیر شریعت نے حضرت مدنی کو اتر سے مبارک باد کا برقی  
پیغام بھیجا۔

امیر شریعت ہمیشہ حضرت مدنی کا احترام کرتے رہے۔ حضرت مدنی کے دل میں بھی

امیر شریعت کی عزت رہی، لیکن مسلم لیگ کے اتحاد کے بعد جو سخت جمیعتہ علمائے ہند کو اٹھانا پڑی، جمیعتہ کے رہنما امیر شریعت کے سامنے اپنے اس طرز عمل کی بنا پر ہمیشہ شرمندہ رہے۔

تحریکِ مدح صحابہ کا دور ثانی | ۲۱-۲۰ مارچ ۱۹۲۴ء کا غروب آفتاب اپنی کرنوں کے ساتھ وہ تمام الاڈمیٹ کر لے گیا، جن کی

چگاریوں نے ہندوستان کے ہر گھر میں آگ لگا رکھی تھی۔ بھائی سے بھائی، باپ سے بیٹا اوراں سے بیٹی اپنی رائے کی بنا پر دشمنی کرنے لگی تھی۔ انتخابات ختم ہوئے تو ہاتھ پائی کا راسن سمٹ کر ان لوگوں کے آگن میں لہانے لگا، جنہوں نے مستقبل میں صوبوں کے راج سنگھاسن بنجانے تھے۔

یکم اپریل ۱۹۲۴ء کا سورج اپنے جلو میں ایک ایسا قانون لے کر طلوع ہوا، جس سے فرنگی سامراج کی جگہ اپنے دیس کے لوگوں نے صوبائی خود مختاری کے تحت حکومتیں سنبھالیں۔ عوام کے نئے منتخب نمائندوں نے آگے بڑھ کر غیر ملکی آئین کو اپنی رائے کے سانچے میں ڈھانا شروع کر دیا۔ تو متحدہ ہندوستان کے بعض صوبوں میں انگریزی راج کی پیدا کردہ مشکلات نے انہیں آن گھیرا۔ ۱۹۰۴ء کا ذکر ہے کہ لکھنؤ کے شیعہ اسمی اور ہندو مل کر تحزیلے کا جلوس نکالتے تھے اور یہ جلوس تال کٹورا کی کر بلا میں ختم ہوا تھا۔

۱۹۰۵ء میں شیعہ حضرات نے اس ماتمی جلوس میں شامل ہونے والوں پر یہ تدغن لگا دی کہ تحزیلے کے جلوس میں برہمن سروپا شامل ہونا چاہیے۔ یہ شرط سنی عقیدہ کے مسلمانوں کے لیے تھی۔ کیونکہ شیعہ تو پہلے ہی بنگے سر اور بنگے پاؤں شامل ہوتے تھے۔ اس سے پیشتر سنی عقیدہ کے مسلمان سر پر ٹوپی اور پاؤں میں جوتا پہننے جلوس کے ہمراہ چلتے تھے۔ نئے احکامات پر سنی مسلمانوں نے اعتراض کیا، تو حکومت نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنا علیحدہ کر بلا بنالیں۔ چنانچہ شہر سے آٹھ میل دور چھول کٹورا کے نام سے نئی کر بلا تعمیر کی گئی۔ ۱۹۰۶ء کا محرم سنیوں نے اسی کر بلا میں منایا۔ یہ بنیاد تھی لکھنؤ میں شیعہ سنی کے

مابین جھگڑے کی۔

۱۹۰۷ء میں رام پور کا شیخ مولوی مقبول احمد نے جو دہلوی کلمہ لکھا تھا۔ ایک اعلان کیا۔  
 ”چونکہ حکومت کا اعلان ہے کہ وہ کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کرے  
 گی، لہذا تیرہ کلمہ ہمارا مذہبی حق ہے، اور ہم تیرہ کہیں گے۔ اس پر ہمیں کوئی  
 نہیں روک سکتا“

اس اعلان سے سنی عقیدہ کے مسلمان برہم ہوئے، اور اس سال لکھنؤ میں شیعہ ہستی  
 فساد ہوا۔ اس فساد کی بنا پر ۱۹۰۹ء میں حکومت یو۔ پی نے ایک کمیشن مقرر کیا، جس نے  
 اپنی رپورٹ کے آخر میں حکومت کو مشورہ دیا کہ:

”عشرہ محرم کے دن، اچلم کے موقع پر اور ۲۱۔ رمضان کے دن مرح صحابہ  
 کی بندش کی جائے“

کمیشن کے اس مشورے پر حکومت نے اعلان کیا:-

”کوئی شخص ایسے اشعار یا نظمیں یا دوسرے الفاظ جن میں ابو بکرؓ، عمرؓ  
 اور عثمانؓ کی تعریف کی گئی ہو، یا ان کی مدح میں ہوں، تعزیوں میں یا کسی  
 دوسرے اسلامی جلوس کے راستے پر نہ پڑھے، اور نہ ایسے مقام پر پڑھے،  
 جہاں سے جلوس تک آواز نہ پہنچ سکے، اور نہ کسی مجمع اور نہ کسی سپیک مقام  
 پر ایسے مدحیہ اشعار اور نظمیں پڑھے۔“

اگر کوئی شخص احکام مذکورہ کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ فوراً گرفتار  
 کر لیا جائے گا، اور اس پر دفعہ ۲۹۸ یا کسی مناسب دفعہ تعزیرات ہند کے  
 تحت مقدمہ چلایا جائے گا“

اس قسم کے بیگانگی اور مذہبی واقعات نے نئی حکومتوں کے راستے میں کانٹے  
 بکھیرے اور مشکلات پیدا کیں۔

جون ۱۹۳۷ء کو یو۔ پی میں نواب چغتاری نے بحیثیت مسلم لیگ کے جب اپنی حاضری گورنمنٹ ترتیب دی تو راجہ صاحب سلیم پور کو جو عقیدتاً شیخ تھے، اپنی وزارت میں شامل کر لیا۔ ان کے عہد وزارت میں مرح صحابہ کا عقیدہ جب ان کے سامنے لایا گیا، تو مصلحتاً انہوں نے یہ کاغذات آنے والی وزارت کے پیر و کرنا ہی بہتر سمجھا۔

یو۔ پی میں باوجود کہ کانگریس اکثریت سے کامیاب ہوئی تھی، لیکن ہنوز ان کے درمیان وزارتیں قبول کرنے میں اختلاف تھا۔ ہنوز چارہ کی سسل بحث کے بعد جب کانگریس نے عہدے قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو نواب چغتاری کی وزارت مستعفی ہو گئی۔ مرح صحابہ کی تحریک نے انہیں ایسا پریشان کیا کہ کانگریس گورنمنٹ اس عقدہ کے حل کرنے میں ایسی الجھی کہ سلجھاؤ کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ اس دوران شیخ سنی اختلافات بڑھتے گئے اس سال ۹۔ محرم کو امیر شریعت لکھنؤ گئے تو انہوں نے شیخ شوکت علی وکیل کے احاطہ میں تقریر کے دوران عقیدہ اہل سنت رکھنے والے مسلمانوں سے صرف ایک سوال کیا:-

”اس صورت میں آپ کا کوئی وارث ہے یا نہیں؟“

اس سوال کو ہی امیر شریعت نے اپنی تقریر کا عنوان بنا کر تین گھنٹے سنی عقیدہ کے مسلمانوں سے خطاب کیا۔

اس تقریر کے بعد مجلس احوار کے دوسرے رہنما چودھری افضل حق، مولانا حبیب الرحمن کئی بار لکھنؤ گئے۔ مولانا حسین احمد مدنی کی وساطت سے یو۔ پی کانگریس حکومت سے رابطہ قائم کیا۔ لیکن حکومت خواہ کسی کی ہو اس کا آستانہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ اس پرغیر زینے کے پڑھنا دشوار ہے، اور یہ زینہ انسانی لاشوں سے تیار ہوتا ہے۔

شیخ احمد مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے رہنماؤں نے کانگریس حکومت سے فیبراعلیٰ پنڈت گوند و لہو پنت اور گورنر سرہنزی بیگ سے متعدد بار گزارش کی کہ:-

” لکھنؤ میں سنی مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی تعریف کریں، جبکہ یہاں ان کی تعداد اٹھاسی ہزار کے قریب ہے اور شیعہ حضرات صرف بارہ ہزار۔“

مگر حکومت، حکومت تھی۔ کسی کل نہ مانی۔ آٹو ۱۰۔ جولائی ۱۹۳۷ء بروز جمعہ مجلس احوار نے کانگریسی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ اس تحریک میں قریباً پچیس ہزار مسلمان گرفتار ہوئے۔

آخر ۱۲۔ نومبر کو گورنر کے اعلان پر تمام قیدی رہا کر دیے گئے اور ۲۶۔ مارچ ۱۹۳۸ء کو سنی مسلمانوں کا یہ حق تسلیم کرتے ہوئے حکومت نے واضح طور پر اعلان کیا۔ ” سنیوں کا یہ حق ہرگز ماہہ النزاع نہیں کہ آیا انہیں جلسہ عام یا خاص مجلسوں میں خلفائے ثلاثہ کی مدح و ثناء کرنے کا حق ہے یا نہیں۔ بلاشبہ ان کو یہ حق حاصل ہے۔ بھگڑا صرف اس بات کا ہے کہ کس طریقے اور کن حالات پر ان کو لکھنؤ میں مدح صحابہ پڑھنی چاہیے۔“

جب مختلف اقوام کے عقائد اور نقطہ نظر میں فرق ہو تو گورنمنٹ کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس عامہ کو قائم رکھنے کے لیے مداخلت کرے اور عام لوگوں کی سہولت کا خیال کرے۔“

اس طرح یو ا پی حکومت نے سنی عقائد کے مسلمانوں کا مدح صحابہ کا حق تسلیم کرتے ہوئے ۱۹۰۹ء کے انگریزی اعلان کو ختم کر دیا۔

قتل کی سانس کا الزام | تاہم قانون لکھنؤ کا دور ختم ہو چکا تھا۔ ہر سیاسی تنظیم اپنے حامیوں

کی تعداد کے لیے کوشاں تھی۔

مسلم لیگ اور کانگریس کے اختلافات جو ان ہر دو دلوں کی جذباتی جھڑپوں کی روشنی میں

کر رہے تھے۔ اگرچہ یہ لڑائی مذہب سے لائق تھی، تاہم سیاسی ضرورت کے تحت اس عمارت کی بنیاد مذہب پر اٹھائی گئی تھی اس وقت ہندوستان کی سیاست دو دھڑوں میں منقسم ہو چکی تھی۔ مسلم لیگ میں کافی تعداد مسلمانوں کی شامل تھی اور کانگریس سے ہندو اکثریت وابستہ تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ دہلی کے اخبار "سخت روزہ" الامان کے مدیر اعلیٰ مولانا مظہر الدین نے اپنے اخبار میں لکھا کہ:-

”رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک ہندو دیوی جو کھڈر کے لباس میں ہے، اس نے مولوی حسین احمد کی پیشانی پر قشقہ لگایا ہے اور مولوی عطاء اللہ شاہ کے گلے میں جلیو پھنپھنایا ہے“

اس خواب کو مولانا مظہر الدین نے کارٹون کی شکل میں اپنے اخبار "الامان" میں شائع کیا۔ دن بھر یہ کارٹون اپنوں اور غیروں کے درمیان بحث کا موضوع بنا رہا، اور کچھ دنوں کے بعد ۱۲-۱۳ مارچ ۱۹۳۹ء کو ان کے دفتر میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے الزام میں دو نوجوان شہدین اور مجراہ کو گرفتار کر لیے گئے۔

اس قتل کا پس منظر کیا تھا؟ لیکن بیش متظر میں یہ مقدمہ سیاسی نوعیت اختیار کر گیا چنانچہ دہلی کی مرکزی حکومت اور لکھنؤ فرنگی محل کے مولانا قطب الدین اس قتل کی سازش میں ملزمان سے یہ اقرار کرنے پر مصررہے کہ اس قتل پر نوجوانوں کو آمادہ کرنے والے سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا مفتی کفایت اللہ اور مولانا حسین احمد مدنی تھے، مگر ملزمان نے سپیم اصرار کے باوجود اس اقرار پر انکار کر دیا، البتہ ملزمان نے اپنے صفائی کے گواہان میں امیر شریعت اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا نام دیا۔ جب یہ دونوں حضرات عدالت میں تشریف لائے، تو ملزمان نے عدالت سے کہا:-

”ہم ان بزرگوں کی صرف زیارت کرنا چاہتے تھے، گوہی کی ضرورت نہیں“

آخر اس مقدمہ کے فیصلے میں ایک نوجوان کو سزائے موت اور دوسرے کو عبور دیا گیا

شور کی نرا دی گئی۔

ضلع میانوالی کا دورہ ۱۹۱۲ء کی طرح ۱۹۳۹ء کا سال بھی یورپین قوموں کے متقدر عروج

زوال کا سال تھا۔ یورپ کے افق پر دوسری جنگ عظیم کے بدل منڈلا رہے تھے۔ اس جنگ کے نتائج خواہ کچھ ہوتے، لیکن چوگان سیاست میں کھیلنے والے جانتے تھے کہ اگر اب کے برطانیہ جنگ میں الجھا تو وہ سورج جو اس کی سلطنت میں غروب نہیں ہوتا، وہ اس کو لے ڈوبے گا۔ اور یہ وقت تھا کہ برطانیہ پر ضرب کاری لگائی جائے اور پنجاب کے ایسے علاقوں میں جا کر لوگوں کو انگریزی فوج میں بھرتی ہونے سے منع کیا جائے، جو خاص فوجی علاقے کہلاتے ہیں، اپنا پورا اگست ۱۹۳۹ء کے دوسرے ہفتے امیر شریعت اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ضلع میانوالی کے دورہ پر روانہ ہو گئے۔

یہ زمانہ پنجاب میں سرسکندر کی وزارت کا تھا۔ اس کی یونینٹ پارٹی "سروں" اور "رائے بہادروں" پر مشتمل تھی۔ انگریز کی کوکھ سے جنم لینے والے یہ لوگ انگریزی سائے کو رحمتِ خداوندی سے تعبیر کرتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ امیر شریعت اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ضلع میانوالی کا دورہ کر رہے ہیں، تو حکومت کی ساری مشینری حرکت میں آگئی۔

موت سے کھیلنے والے لوگوں کی سر زمین گورنمنٹ کے پہاڑوں تلے آباد ہے، مگر پھول کے سے دل رکھنے والے جوانوں کی آبادی میں جب امیر شریعت نے توحید باری تعالیٰ اور برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت کے پھول کا نٹے بکھیرے تو تیلی زمین کا دامن بھی ٹمرا اور ہوا، اور خشک پہاڑوں سے امید بہا کی بوائے لگی۔ رات جس گاؤں میں امیر شریعت تقریر کرتے گرد و فواج کی فضا کو رانفلوں کی آواز سے دسپت زدہ کر دیا جاتا۔ دن کو جن راستوں پر سفر کرتے انہیں ٹا کوڑوں کی آماجگاہ بنا دیا جاتا۔ امیر شریعت کے ہمراہیوں کو ضلع کی پولیس نے اکثر پریشان کیا۔ مگر پھر محول میں پرورش پانے والے انسان ہر خطرے کو خود دعوت دے کر اپنے گرجہج کر لیتے اور یہی زندگی ہے جو انہیں آخر کو منزل سے ہمکنار کرتی ہے۔



**گرفتاری** | اس مشکلخ ولومی میں پندرہ دن گزار کر جب امیر شریعت واپس آئے، تو دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ جہل کی فوجیں پولینڈ، ناروے اور ڈنمارک سے

گزر کر فرانس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ پنجاب میں یونینسٹ حکومت کو یہ بات پسند نہ آئی، کہ خالص عسکری علاقوں میں حکومت کے خلاف بغاوت کو پھیلنے دیا جائے، جبکہ انگریزوں نے جنگ میں شریک ہو چکا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی برسی ہونی گھٹائوں نے یورپ کی لہلہ میں ایشیا کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹنا چاہا۔ چنانچہ ہندوستان میں انگریزی پرچم کی آزاد لڑائیوں کی لگا ہوں ایسے لوگوں کی جستجو میں معروف نظر آنے لگیں، جن کے ارادے اس جنگ کے منتظر تھے اور وہ انگریزی اقتدار سے نجات کے بہانے تلاش کر رہے تھے۔ آخر ڈیٹھنس آف انڈیا رولز کی ننگا اول نے امیر شریعت کو تاک کر سب سے پہلا وار کیا، اور انہیں ۸ ستمبر ۱۹۴۷ء کو ضلع مظفر گڑھ سے دفعہ ۱۱، ۲۰۲، ۱۲۴ اور ۱۵۳ کے تحت سیشن جج راولپنڈی کے حکم سے گرفتار کر لیا گیا۔

**مجلس اجراء کی قرارداد** | امیر شریعت کی گرفتاری کے ساتھ مارے ہندوستان میں سیاسی کارکنوں کی عام گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ کانگریس اور مجلس اجراء

ایسی سیاسی جماعتیں تھیں، جنہوں نے ہندی قریب میں ہندوستان بھر میں اپنی سیاسی تاریخ کو اس منہج پر ترتیب دیا تھا کہ انگریزی راج ان سے متزلزل تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے متعلق فیصلہ کرنے کا انہی جماعتوں کو اختیار تھا، چنانچہ ۱۱ ستمبر ۱۹۴۷ء کو اورورنگنگ کمیٹی نے امرتسر میں فیصلہ کیا۔

”مسلمانان ہند اس وقت تک اس جنگ میں حکومت برطانیہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، جب تک کہ برطانیہ اسلامی ممالک سے اپنی فوجیں واپس نہ بلائے، نیز ہندوستان کو مکمل طور پر آزاد نہ کر دے۔“

مجلس عاملہ کی رائے میں پھر یہ سوچنا باقی ہے کہ آیا ہمارے برطانوی

فوج میں جانے سے انسانیت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

مجلس احوار کی اس قرارداد سے ایک طرف انگریزی سلماج برہم ہوا، تو دوسری طرف کانگریس کے حواس بھی درست نہ رہے۔ کیونکہ کانگریس ذہنی طور پر یہ سمجھتی تھی کہ اس کے بغیر اس جنگ کے متعلق کوئی دوسری پارٹی رائے دینے کی مجاز نہیں۔

مندرجہ بالا قرارداد نے امیر شریعت کے مقدمات پر بھی اثر ڈالا، اور عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ چوبیس روز کی مسلسل کارروائی کے بعد ۱۲- اکتوبر ۱۹۳۹ء کو یہ مقدمات سیشن جج راولپنڈی کے سپرد کر دیے گئے، لیکن قانون امیر شریعت پر جاندار کے تمام دفعات کی سچائی میں ناکام رہا، اور اس گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے کے لیے ۱۸- دسمبر ۱۹۳۹ء کو لالہ موٹی صلح گجرات میں ایک دوسرا مقدمہ ۱۱۷ اور ۲۰۲ کے تحت تیار کر لیا گیا۔ سرکاری استغاثہ نے امیر شریعت پر الزام لگایا کہ انہوں نے ۲۸- جون ۱۹۳۹ء کو لالہ موٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ :-

۱۰۔ اب اسلام کی حکومت کہیں نہیں رہی اور مسلمانوں کو از سر نو حکومت سنبھالنی چاہیے، موجودہ حکومت میں مسلمان عورتوں کے نکاح کے فیصلے شیطان فرنگی کرتا ہے، اور اسلامی قانون کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ اور غیر دیانت دار یورپین مورخوں نے حکومت کے زیر اثر تاریخی واقعات کو غلط پیرائے میں بیان کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ عالمگیر اورنگ زیب پورا الزام ہے کہ وہ ہر روز صبح ہندوؤں کے بارہ من جینو اتارنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور حاضرین کی حوصلہ افزائی پر شاہ صاحب نے کہا کہ میں انگریزی حکومت کا تختہ الٹ دوں گا اور ان کو اتنے زور سے سمندر میں دھکیل دوں گا کہ وہ پھر واپس نہ آسکیں گے، سمندر کے پانی کو انگریزوں کے خون سے سُرخ کر دوں گا، اور زمین کو بھی انگریزوں کے خون سے اس طرح سُرخ کر دوں گا

جس طرح یزید نے امام حسین کی فوجوں کو قتل کر دیا تھا۔  
مرزا غلام احمد کافر ہے، اس نے برٹش گورنمنٹ کی پانچ سو گھوڑوں  
سے امداد کی تھی۔

گجرات ڈسٹرکٹ جیل میں اس مقدمے کی سماعت لالہ لکشمی داس مجسٹریٹ نے کی،  
دیوان چمن لال امیر شریعت کی طرف سے سینئر وکیل تھے، ان کے علاوہ دوسرے قانون دانوں  
نے بھی امیر شریعت کی حمایت میں اپنی کتب کے اوراق کھنگال ڈالے۔

۱۱۔ جنوری ۱۹۴۰ء کو امیر شریعت مقدمے کی پیشی کے لیے عدالت کے کمرہ میں  
داخل ہونے لگے، تو کسی نے اشارے سے کہا: شاہ جی یہ ہے لالہ دھارام پولیس پورٹر  
جس نے آپ کی تقریر کی ڈائری لکھی تھی، اور آج آپ کے خلاف عدالت میں پیش ہوگا  
اس پر امیر شریعت نے نظر اٹھا کر دھارام کی طرف دیکھا، نیز اس سے مخاطب ہو کر کہا۔

”بابو دھارام اس عدالت کے علاوہ ایک دوسری عدالت بھی ہے،  
جہاں تم نے پیش ہونا ہے، شہادت دیتے وقت اس عدالت کا خیال  
بھی رکھنا۔“

یہ فقرے کہہ کر امیر شریعت عدالت میں داخل ہو گئے۔

ڈاکٹر جہانگوار دگرجات، کا بیان ہے، جو اس مقدمہ میں امیر شریعت کے معاون  
تھے، کہ سرکاری گواہ امیر شریعت کے مندرجہ بالا فقروں پر آبدیدہ ہو گیا، اور دیر تک تنہائی  
میں خاموش کھڑا رہا۔



## باب چہارم ————— ۱۹۴۰ء تا ۱۹۵۰ء

### ابتدائی کارروائی

انسانی ضمیر کے بیدار ہونے میں گاہ عمر گزر جاتی ہے اور گاہ آنسوؤں کی نمی اسے بیدار کر دیتی ہے۔ جب احساس جاگ اٹھتا ہے تو کھوئی ہوئی انسانیت تلاش کرنے میں انسان کو دقت نہیں ہوتی۔

امیر شریعت کے الفاظ سرکاری گواہ لدھارام کی کاپیا کلپ کر گئے۔ انگریزی سلطنت کا ہیڈ کانسٹیبل درویش کے ایک فقرے پر زندگی کی ساری آسائشیں برباد کر بیٹھا۔

استغاثہ کی ابتدائی شہادت ہیڈ کانسٹیبل لدھارام کی تھی، جس نے ۲۸ جون ۱۹۳۹ء کو لالہ موسیٰ میں امیر شریعت کی تقریر کے شارٹ ہینڈ نوٹ لیے تھے۔ جب وہ بطور حریف رپورٹر ۱۱ جنوری ۱۹۴۰ء کو ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں لکشمی داس کی عدالت میں پیش ہوا، تو امیر شریعت کی طرف سے دیوان چمن لال ایڈووکیٹ ڈایم ایبل اسے، میاں عبدالخیر زیدو، ڈایم ایبل اسے، اور مولانا منظر علی انظر ایڈووکیٹ بطور دکیل پیش ہوئے۔ لدھارام نے حسب ذیل ابتدائی بیان دیا:-

”میں نے ۲۸ جون ۱۹۳۹ء کو اس جلسہ میں شرکت کی تھی، جو گراڈ ٹرنک روڈ کے قریب لالہ موسیٰ میں ہوا تھا۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اس جلسہ میں تقریر کی تھی لیکن مجھے یہ بات یاد نہیں کہ شاہ صاحب کے علاوہ کسی اور شخص نے بھی تقریر کی تھی یا نہیں۔ میں نے شاہ صاحب کی تقریر کا خلاصہ لکھا تھا جس کتاب پر حروف ”پی۔ ڈی“ تحریر ہے اس میں تقریر کا اردو خلاصہ درج

ہے، اور میرے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ خلاصہ دراصل اس تقریر کا نہیں ہے جو شاہ صاحب نے کی تھی، بلکہ یہ تقریر کا مسخ شدہ خلاصہ ہے، جو میں نے تقریر کے وقت نہیں، بلکہ تقریر کے بعد کیا تھا، اصل تقریر کا خلاصہ جلا دیا گیا تھا۔

تقریر پیش نظر کا خلاصہ پروسیکیوٹنگ انسپکٹر کی ہدایت پر میں نے جوڑا میں ان کے مکان پر مرتب کیا تھا اور دوسرے روز میں نے اسے مفصل عبارت میں منتقل کیا۔

اس مرحلے پر استغاثہ نے عدالت سے درخواست کی کہ اسے قانون شہادت کی دفعہ ۱۵۴ کے تحت گواہ پر جرح کرنے کی اجازت دی جائے۔ مختصر بحث کے بعد عدالت نے یہ درخواست قبول کر لی۔ پروسیکیوٹنگ انسپکٹر کی جرح کے جواب میں گواہ نے کہا۔

• میں نے یہ خلاصہ تقریر کے تین روز بعد مرتب کیا تھا۔ مجھے وزیر اعظم پنجاب (سر سکندر حیات) کا ایک خط دکھایا گیا تھا، جس میں مجھے پروسیکیوٹنگ انسپکٹر کے مکان پر حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی تھی، میں نے اس کی تعمیل کی، اس خط میں تحریر تھا کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو تم پروسیکیوٹنگ کے مکان پر پہنچو، لیکن اس خط میں وہاں پہنچنے کی تاریخ معین نہیں کی گئی تھی۔ یہ خط ٹائپ کیا ہوا تھا اور مجھے اصل خط دکھلایا گیا تھا۔ میں نے اپنی واقفیت کے لیے اس خط کا ترجمہ کر لیا تھا۔ استغاثہ کے دو گواہ جنہوں نے تقریر کے اس خلاصے پر دستخط کیے تھے، میرے ساتھ پروسیکیوٹنگ انسپکٹر کے مکان پر نہیں گئے تھے۔ خط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ تقریر کا خلاصہ پروسیکیوٹنگ انسپکٹر کے مشورے پر مرتب کرنا چاہیے۔

یہ خط ۲۸۔ جون ۱۹۳۹ء کا لکھا ہوا تھا۔ اس پر نمبر سی، آر پی، بی، پی، ایل

(C.R.P.B. 76.L) تھا۔ یہ خط ۲۸۔ جون کو ہی گجرات پہنچا تھا۔ خط میں یہ ہدایت بھی درج تھی کہ اس خط کو خفیہ تصور کرنا چاہیے۔ اس بناء پر میں نے کسی دوسرے پولیس افسر کو اس بات کی اطلاع نہیں دی کہ میں نے تقریر کا خلاصہ پروسیکیوٹنگ انسپکٹر کے مشورے سے مرتب کیا ہے۔ کیونکہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھے ترقی دی جائے گی، اور مجھے کام کی حمد کی سالانہ سند دی گئی تھی، اس لیے میں نے تقریر کے خلاصہ کو مسخ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس سلسلے میں مجھے نقد انعام بھی دیا گیا تھا، لیکن مجھے یہ بات یاد نہیں کہ انعام کی صحیح رقم کیا تھی؟

شہادت کے دوران دیوان چمن لال نے چند کاغذات لہارا م کو دیے جنہیں گواہ نے عدالت میں پیش کیا۔ ان کاغذات میں گواہ نے اپنے اس نظریہ کی وضاحت کی تھی، جس کی بنا پر اب وہ پولیس کی ملازمت سے مستعفی ہو چکا تھا۔ اس استحضار کو عدالت نے پروسیکیوٹنگ انسپکٹر کے کتے پرائیز بیٹ بی، ڈبلیو پے کر لیا۔ جو حسب ذیل ہے۔

جناب عالی!

میں اڑبائی سال سے محکمہ پولیس میں کام کر رہا ہوں۔ میری ڈیوٹی پولیس پونڈ کی ہے۔ میں کئی دفعہ اپنے ضمیر کے خلاف کام کرتا رہا ہوں، وہ محض اس لیے کہ افسرانِ بالا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ان کو خوش رکھوں۔ مگر آخر کار مجھے اپنے ضمیر نے بیدار کیا اور میں اپنے ضمیر کا خون نہ کر سکا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آج عدالت میں بالکل درست، اصل اور قدتی چیز پیش کر رہا ہوں۔ پنجاخ سید عطار اللہ شاہ بخاری کے مقدمے کے اصل حالات حسب ذیل ہیں۔“

”آنریبل سر سکندر حیات وزیر اعظم پنجاب کی طرف سے چند ایک مراسلات

اُن کے "پی۔ اے" کی معرفت پرنسٹنٹنٹ پولیس گجرات کو پہنچے، جن میں سے بعض حکموں پر میری تعمیل کرائی گئی۔

سب سے پہلی چھٹی مورخہ ۲۹ نومبر ۱۹۳۹ء - پی۔ جی۔ میں سید عطاء اللہ بخاری کی نگرانی کے لیے تحریر تھا، جس میں مٹربنی، ایس۔ ابراہیم پرنسٹنٹنٹ پولیس گجرات کو لکھا گیا تھا کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری سکنا ناگڑیاں ضلع گجرات جب تمہاری حدود میں پہنچے، تو اس کی تمام حرکات و سکنات کی نگرانی کی جائے اور ایک اچھے ہوشیار رپورٹر کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگادی جائے، وہ محتاط ہو کر اس کی نگرانی کرے، اور نگرانی کنندہ کا نام وغیرہ اس چھٹی میں درج کیا جائے۔ اس چھٹی کی تعمیل میں مجھے سید عطاء اللہ بخاری کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا اور بذریعہ چھٹی نمبر ۱۰۶ مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۳۹ء پرنسٹنٹنٹ صاحب کی طرف سے مندرجہ ذیل جواب وزیر اعظم کے "پی۔ اے" کی معرفت بھیجا گیا۔  
جناب عالی! تعمیل حکم حضور والا شائع ہو گئی ہے۔ اور ایک اچھا ہوشیار رپورٹر ان کی نگرانی کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جس کا نام لہارم ہے۔ اور پڑھا لکھا کانسٹیبل ہے۔ انگریزی خواندہ ہے۔"

اس کے بعد مندرجہ ذیل چھٹی "پی۔ اے" سر سکندر حیات کی طرف سے ۱۱۔ جون ۱۹۳۹ء کو پرنسٹنٹنٹ پولیس گجرات کے نام آئی۔ اس چھٹی کا نمبر C.R.P. 86376 تھا۔ آپ کو تحریر کیا جاتا ہے کہ ہمیں تخفیہ طور پر اطلاع ملی ہے کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری تمہارے ضلع گجرات میں یونینسٹ وزارت کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ ایک ہوشیار با اختیار رپورٹر کو حکم دیں کہ وہ اس کی تقریروں کے نوٹ لکھ کر آپ کے سامنے پیش کرے اور ممکن ہو تو بہت کشادہ لفظ لکھے جاویں۔ اس حکم کو نہایت

خفیہ حکم تصور کیا جائے، اور بعد کرانے تعمیل رپورٹس ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔  
فردری ہے۔“

اس چٹھی کے جواب میں مورخہ ۲۲/۶/۱۹۳۹ کو چٹھی B-104 کے ذریعے پرنٹڈ گجرات نے سرسکند حیات خان کو ان کے ”پی۔اے“ کی معرفت اس مضمون کی چٹھی لکھی۔

”جواب حکم B. 511.2 عرض کی گئی ہے کہ ادھارام رپورٹس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور اس کو خاص ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریروں کے نوٹ لیتے وقت کشادہ طور پر لکھے، اور ہمارے روبرو پیش کرے اور پیرغازی میں ایک جلسہ ہونے والا ہے، جس میں کہ اسے خاص ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کھلے طور پر نوٹ کرے جو کہ ڈائری علیحدہ ارسال ہوگی۔“

اس چٹھی کے بعد موضع پیرغازی وغیرہ میں جلسے ہوئے جس میں شاہ صاحب نے بالکل مذہبی تقریریں کیں۔ میں نے ان کو کشادہ لکھتا موزوں نہ سمجھا کیونکہ ان میں کمی بیشی کر کے مقدمہ چلانے کی گنجائش نہ تھی۔ اس پر پرنٹڈ گجرات نے میری طلبی کی۔ میں نے جواب میں کہا کہ تقریریں بالکل مذہبی تھیں ان کو کشادہ لکھنا بے سود تھا۔

اس کے بعد سرسکند حیات کے پرنٹ اسسٹنٹ نے ۲۸۔ جون ۱۹۳۹ء کو چٹھی نمبر  $\frac{C.R.P}{B.7806}$  کے ذریعے پرنٹڈ گجرات کو لکھا۔

”ڈائری خفیہ از موضع پیرغازی اور مدینہ منجھ چکی ہے، چونکہ ان میں مذہبی لیکچر تحریر ہے، جس میں اتنی گنجائش معلوم نہیں ہوتی، لہذا آئندہ ڈائری کوئی بھی ہو، جس میں پوٹیکل اظہار ہوا اس میں تقریر کو اس طرح پر بعد لینے کے لیے بحکم پریوینٹو ٹیک انسپکٹ بنایا جائے کہ وہ تقریر زیر دفعہ ۱۲۱ تعزیرات ہندیا



کسی قتل کی تبلیغ کے جرم میں مثلاً ۳۱۱/۱۱۷ کا مرتکب ہو سکے، اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ ساتھ ۱۱۲۲/۱۵۳ بھی قائم رہے اور گواہان خاص طور پر معتبر اور اچھے پولیس کے اٹروالے ہوں، اس حکم کو نہایت خفیہ تصور کیا جائے۔

اس حکم کی وصولی کے بعد مورخہ ۷/۲۸ کو شاہ صاحب نے لالہ موٹے ضلع گجرات میں تقریر کرتے کے لیے آنا تھا۔ پانچ حسب سابق مجھے پورٹ لینے کے لیے متعین کیا گیا۔ شاہ صاحب نے تاریخ مقررہ پر لالہ موٹے میں تقریر کی، اور میں نے اس تقریر کے شارٹ ہینڈ نوٹ لیے اور ان میں کچھ کشادہ جگہ موجب ہدایت افسران بالا رکھی اور تقریر کے ٹونگ ہینڈ نوٹ کے بغیر ہی گجرات واپس آیا اور پروسیکیوٹنگ اسپیکر نے کشادہ جگہ کو کافی خیال کیا اور مجھے کہا کہ میں اس تقریر کو ٹونگ ہینڈ میں لکھ دوں۔ میں نے تعمیل حکم ”پی، آئی“ صاحب کی۔ اور ”پی، آئی“ صاحب نے ٹونگ ہینڈ کی عبارت میں اپنے حسب منشا تبدیلیاں اور اضافے کیے۔ اس کے بعد چونکہ ۲۸ تاریخ والی کاپی کی تحریر تبدیلیوں اور اضافوں کے باعث مشکوک ہو گئی تھی اور اسے عدالت میں پیش نہیں کیا جاسکتا تھا، اس لیے ”پی، آئی“ صاحب نے حکم دیا کہ نئی کاپی پر تبدیل شدہ عبارت، شارٹ ہینڈ اور ٹونگ ہینڈ میں تحریر کی جائے۔

نئی کاپی مورخہ ۷/۳۰ کو صاحب پرنٹنگ ہاؤس پولیس کے ٹینو سے حاصل کی گئی، اور اس پر تمام عبارت شارٹ ہینڈ اور ٹونگ ہینڈ نوٹ کرنے کے بعد ۷/۲۸ والی اصل کاپی کو بحکم ”پی، آئی“ صاحب بذراثر کر دیا۔ اور اس نئی کاپی کی بند پر مقدمے کی منظوری حاصل کی گئی، اور یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اصلی ڈائری اور موجودہ ڈائری (دوبلی) کے چند ایک

اختلافات میں یہاں نوٹ کرتا ہوں، جن سے معلوم ہو سکے گا کہ کس طرح حکام بالا کے احکام کی ناجائز تعمیل کی گئی ہے۔  
موجودہ ڈائری میں جو کچھ تحریر کیا گیا۔

۱۔ ساڈیاں بیٹیاں دس نکاح تے ساڈے نکاح دے فیصلے شیطان فرنگی کردا اے، اتے ساڈی شریعت دا کوئی خیال تے لحاظ نہیں کردا۔

۲۔ یران بے ایمان فرنگیوں اور سکندر کی متعصبانہ چال ہے۔

۳۔ میں حیران ہوں کہ یہ فرنگی، خدا ان کو عارت کرے کیوں نہیں جانتے؟

۴۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زیادہ نہیں، صرف جتنے آدمی یہاں موجود ہیں، میرے ساتھ ہو جائیں۔ میں اس حکومت کا تختہ پلٹ دوں، ان کے پرچھے اڑا کر

رکھ دوں اور ان ڈشٹوں کو سجر میں جا کر ایسا دھکا دوں کہ نظر نہ آئیں۔ مجھے اس وقت بھی اگر تمہارا حوصلہ ہو اور تیرا کمان و تیغ بکھت ہو کہ ان فرنگیوں کے

خون کی نہریں بہا دوں، ان کے خون سے سمندر لال کر دوں۔ ان کے خون سے

زمین سیرپ کر دوں، جس طرح نیرید نے حسین کی فوج کو تیر تیغ کیا تھا، اسی طرح

ان شیطانوں کو کاٹ دو، حوصلے سے کام لو اور ان بے ایمان کافروں کو

نکال دو۔

تلف شدہ ڈائری میں جو کچھ تحریر تھا۔

۱۔ ساڈے نکاح تے ساڈی بیٹیاں دس نکاح دے فیصلے غیر مسلم کرن، ساڈی شریعت دا کوئی خیال تے لحاظ نہ ہووے۔

۲۔ نہیں، بلکہ یہ سکندر اور یونینڈ پارٹی کی مہربانی اور چال ہے۔

۳۔ میں حیران ہوں کہ باوجود سردار دھنا سنگھ کی مسجد بنوانے پر بھی سکھ

صاحبان کے دل سے کدورت اور برا خیال کیوں نہیں جاتا، اور یہ اتفاق

کیوں نہیں کرتے۔

۴۔ یہ الفاظ صرف پی آئی صاحب نے حکم سرسکندر حیات خاں مندرجہ اپنی طرف سے لکھوائے، جو بالکل جھوٹ ہیں اور ایک بے گناہ، مستی کو گناہ عظیم کا موجب بناتے ہیں۔ یہ الفاظ قطعاً مقرر نے اپنی تقریر میں استعمال نہیں کیے۔

اس طرح مقدمہ تیار کرنے کے بعد اور ۳۱/۱۲/۱۱۱۲ تخریرات ہند کا موڈینا کرنے اور ساتھ ہی ۱۲۲/۱۵۳ کا خیال رکھنے کے بعد پرنٹنگ پریس پولیس گجرات نے سرسکندر حیات کو ان کے "پی آئی" کے "کی معرفت اپنی چھٹی نمبر ۱۰۶۔ مورخہ ۲۳/۹/۱۱۱۲ میں اپنی کارکردگی اور تعمیل ارشاد کی حسب ذیل اطلاع دی۔

"جناب عالی!

مورخہ ۲۸/۳/۱۱۱۲ کو عطا اللہ نے لالہ موسیٰ میں تقریر کی، جس کے متعلق رپورٹ کو خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی۔ مطابق ہدایت "پی آئی" صاحب کے پاس ڈائری کو بھیجا گیا، اور اس میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ڈائری اور مرتب کی گئی۔ جس میں قانونی اغراض کو مد نظر رکھتے ہوئے کمی بیشی کی گئی اور ایسے الفاظ ایجاد کیے گئے جن پر فوراً ۳۱/۱۲/۱۱۱۲ تخریرات ہند عائد ہوتی ہے اور بعد شہادت استغاثہ ۱۲۱ تخریرات ہند بھی قائم ہو سکتا ہے۔ ۳۰۲/۱۱۲ تخریرات ہند کے لیے صرف الفاظ تبلیغ قتل اقوام انگریز اور سپیک میں کافی اشتعال لکھا گیا ہے۔ لہذا بموجب حکم تعمیل ہو کر رپورٹ عرض ہے۔"

وزیر اعظم سے لے کر نچلے افسروں تک کی تمام کارروائی کا حال مذکورہ بالا خط و کتابت اور جعلی ڈائری نوٹس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر مزید کسی تنقید

کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مُنصف مزاج انسان اس بارے میں کسی تنقید کا محتاج ہوگا۔

اب میرے سامنے کئی رزرت سے یہ سوال درپیش ہے کہ آیا میں اس طرز عمل کو قبول کرتا جاؤں جو کہ اب تک جاری ہے اور جس کے ذریعے دنیاوی طور پر فائدہ اور ترقی کی امید ہے، اور اس جعلی ڈارمی کی ترتیب میں جو خدمت مجھ سے لی گئی ہے، اس کے صلے میں ۹۰ کو بچپس روپے نقد انعام اور ایک عدد سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد مزید ترقی و انعام اکرام کے لالچ میں جیسا کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میں ضمیر فروشی کرتا جاؤں یا دوسروں کے خون سے ہاتھ رنگین کرنے سے باز نہ آؤں خواہ اس میں نیاوی زر و مال کی کمی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے دل نے بھی کشمکش اور شب و روز کے غور و فکر کے بعد یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں بڑے بڑے افسران کا آلہ کار بن کر اپنے ضمیر کا خون نہ کروں اور جس محکمہ میں اس قسم کی ایسا نئی اور ضمیر فرشی کے بغیر ترقی کا راستہ نہیں مل سکتا، اس کو خیر باد کہنا ہوا اپنے گناہوں سے توبہ کروں اور اپنے آپ کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ دوں۔ اندر میں حالات میں ملازمت سے مستعفی ہوتا ہوں۔“

لدھارام بقلم خود

مندرجہ بالا بیان کے بعد گواہ پر مفصل جرح کی گئی اور یہ کہ اس نے نوٹ بکس

طرح حاصل کی تھی۔ اس سلسلے میں لدھارام نے بیان میں کہا:-

”میں نے ۲۔ نومبر ۱۹۳۹ء کو مقدمہ کی پہلی سماعت کے موقع پر جب

شاہ صاحب کو دیکھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ایک بیگناہ شخص کو مصیبت میں پھنسا رہا ہوں، مجھے خدا کے سامنے اس فعل

کا جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اگر کسی وجہ سے آج میری شہادت نہ ہو سکی تو میں اس راز کو جو ابھی تک میرے سینے میں محفوظ ہے طشت از بام کر دوں گا، لیکن اگر آج میں شہادت سے نہ بچ سکا، تو گواہی دینے کے بعد خود کشی کر لوں گا۔ میں ۳۰ دسمبر ۱۹۳۹ء کو رخصت پر چلا گیا تھا۔ اور آج اس مقدمے کی سماعت کے موقع پر حاضر ہوں۔ میں آج ہی لاہور سے کرائے کی ایک موٹر کار میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں تنہا آیا ہوں۔ میں نے دو آنے تین پائی فی میل کے حساب سے کرایہ ادا کیا ہے۔ میں ڈرائیور کا نام نہیں جانتا۔ لیکن وہ جیل کے دروازے کے باہر موجود ہے میں گذشتہ اڑھائی سال سے محکمہ پولیس میں ملازم ہوں۔

مجھے چند خفیہ خطوط بھی دکھائے گئے۔ اگر عدالت مجھے اس بات کا یقین دلائے کہ ان خطوط کے مضامین کو منظر عام پر لانے کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، تو میں ان کو منظر عام پر لانے کے لیے تیار ہوں۔“

گواہ نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا:

”میں اس سے پہلے اپنے ضمیر کو ذبح کرتا رہا ہوں، لیکن آئندہ اس

کے لیے تیار نہیں ہوں۔“

اس کے بعد گواہ نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ میں کس طرح اس مقدمہ میں شہادت دینے سے گریز کرتا رہا۔ نیز پروسیکیوٹنگ انسپکٹر کا منشا بھی یہ تھا کہ میں شہادت نہ دوں۔ کیونکہ انہیں کسی طرح میرے ارادے کا پتہ چل گیا تھا۔ گواہ نے کہا:

”میں ۲۸ دسمبر ۱۹۳۹ء کو پروسیکیوٹنگ انسپکٹر کے مکان پر گیا۔ جہاں

مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں تار کے ذریعے چھٹی لیننی چاہیے۔  
شاہ صاحب کے وکیل کی جرح کے جواب میں گواہ نے کہا:-

”میں ایک یا ڈیڑھ سال سے پولیس رپورٹر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ مختصر نوٹوں کی کتابیں پولیس کے دفتر میں رہتی ہیں، جب ایک کتاب ختم ہو جاتی ہے تو اسے پولیس کے دفتر بھیج کر دوسری منگوا لی جاتی ہے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ شاہ صاحب کی تقریر کے خلاصہ کو پروسیکیوٹنگ انسپکٹر کے پاس لے جاؤں۔ مجھے وزیر اعظم کے حکم میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ شاہ صاحب کی تقریر کا خلاصہ لکھنے ہوئے الفاظ کے درمیان خالی جگہ چھوڑنا چلا جاؤں۔ یہ خط جس میں مذکورہ بالا ہدایت درج تھی۔ وزیر اعظم کے پرسنل اسٹنٹ کی جانب سے تھا۔ ایسے تمام خطوط جو پولیس پرنٹنگ نٹ کے دفتر میں موصول ہوتے ہیں، ایک رجسٹر میں درج کر لیے جاتے ہیں۔ یہ رجسٹر صیغہ راز میں ہوتا ہے اور کسی ایسے شخص کو جس سے اس امر کا کوئی تعلق نہ ہو نہیں دکھایا جاتا۔ میں ان خطوط کا خلاصہ اس لیے اپنے پاس لکھتا رہا کہ اس میں میرے لیے ہدایات درج تھیں۔“

اس موقع پر گواہ نے خطوط سے متعلق اپنی یادداشتیں پیش کیں، اور اپنے بیان

کو مزید جاری رکھنے ہوئے کہا:-

”وہ نوٹ ایک جس میں شاہ صاحب کی تقریر کا صحیح خلاصہ درج تھا۔ ۲۸- دسمبر کو پروسیکیوٹنگ انسپکٹر نے اپنے مکان پر جلا دی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، جس کی بناء پر ان کے خلاف <sup>۱۱۶</sup> اور ۱۲۱ قانون ضابطہ فوجداری کے تحت مقدمہ چلایا جاسکے۔“

بیان کے آخری حصے میں گواہ نے کہا:-

» لاہور سے گجرات آتے ہوئے آج راستہ میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ میری گرفتاری کے لیے جہلم یا گجرات سے وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ جب میں ڈسٹرکٹ جیل کے احاطہ میں دیوان چمن لال سے ملا، تو ان سے امداد کی درخواست کی، اور عدالت کے کمرہ میں داخل ہوتے ہوئے چند کاغذات اور ایک خط انہیں دے دیا۔

یہ میرا استعفیٰ تھا، جب میں ڈسٹرکٹ جیل کی عدالت کے کمرہ میں داخل ہو رہا تھا، تو دیوان چمن لال نے عدالت کے سامنے استعفیٰ اور دوسرے خطوط مجھے واپس کر دیے۔

میں مجسٹریٹ کے ساتھ ساتھ سب جیل تک آیا ہوں۔ کیونکہ میں حفاظت کا متمنی ہوں۔ عدالت کے کمرہ میں داخل ہونے سے پہلے میں نے نیوان چمن لال صاحب سے کہا تھا کہ وہ عدالت سے درخواست کریں کہ وہ مجھے بطور گواہ پیش ہونے کے لیے اپنی حفاظت میں لے لیں۔

۲۸۔ دسمبر ۱۹۳۹ء کو پراسیکیوٹنگ انسپکٹر نے مجھ سے دوسری ڈائری تیار کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس مسودہ کے جس پر بردف پنی، آئی لکھے ہوئے ہیں، صفحہ ۲۲ پر جن لوگوں کے دستخط موجود ہیں، وہ ان کی موجودگی میں دوبارہ دستخط کرا سکیں۔

۸۔ جنوری ۱۹۴۰ء کو اپنی ملازمت پر واپس آ رہا تھا کہ پراسیکیوٹنگ انسپکٹر مجھے وزیر آباد ریلوے سٹیشن پر لے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی تھا یا نہیں۔ بندر نارائن میرا عزیز ہے اور لاہور کے قیام کے دوران میں اسی کے پاس ٹھہرا تھا۔

اس شہادت کے بعد مقدمہ ۲۳۔ جنوری پر ملتوی ہو گیا۔

شہادت کے بعد جب لدھارام عدالت سے باہر آیا تو بخشی آنندرام اسسٹنٹ سب انسپکٹر پولیس نے ان سے ایک نوٹس کی تعمیل کرائی، جس میں تحریر تھا کہ چھٹی سونوچ ہو جانے کے بعد کیونکہ تم بروقت اپنے فرائض کی ادائیگی کیلئے حاضر نہیں ہوئے، اس لیے تمہیں معطل کیا جاتا ہے۔

لدھارام: ”میں مستحفی ہو چکا ہوں“

اس طرح مقدمہ کے حالات و واقعات نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ دوسری صبح کے اخبارات نے جلی سرخیوں کے ساتھ اس مقدمہ کو شائع کیا، نولار اینڈ آرڈر کے تحفظ کے لیے سرکاری قانون اپنی حفاظت میں لیس ہو کر سامنے آ گیا۔ ۱۳۔ فروری ۱۹۴۰ء کو ایڈووکیٹ جنرل مٹھریلیتم نے ہائیکورٹ میں درخواست دی کہ

”اس مقدمہ کو ہائی کورٹ میں منتقل کر دیا جائے۔ کیونکہ لدھارام گواہ استغاثہ نے وزیر اعظم پنجاب کو جولا ر اینڈ آرڈر کے مالک ہیں۔ اس مقدمہ میں پھنسائے کی کوشش کی ہے۔ لہذا کسی ماتحت عدالت پر اس معاملہ کا فیصلہ نہیں چھوڑا جاسکتا“

پنابچر جسٹس اسکیمپ نے درخواست کی سماعت کے بعد یہ مقدمہ ہائیکورٹ میں منتقل کر دیا۔

ماتحت عدالت سے فارغ ہو کر لدھارام گولہ کو یقین تھا کہ پولیس انہیں گرفتار کر لے گی، لیکن ڈیر شریعت کے وکیل دیوان چین لال ایڈووکیٹ نے لدھارام کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی کار کے قریب لے آئے کہ اتنے میں ڈی۔ آئی جی پولیس نے کہا: میرے پاس لدھارام کے دفعہ ۲۹ کے وارنٹ ہیں انہیں گرفتار کرنا چاہتا ہوں“



دیوان چین لال نے کہا: آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اب ملازمت سے مستعفی ہو چکے ہیں۔

پولیس آفیسر کو گمان ہوا کہ ممکن ہے کوئی قانونی شق ایسی ہو کہ میں انہیں گرفتار نہیں کر سکتا، ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ دیوان چین لال جلدی سے لدھارام کو اپنی کار میں بٹھا کر لے آئے پولیس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، لیکن اب ہوجھی کیا سکتا تھا؟

**لدھارام کی تلاش** پنجاب پولیس نے اپنے مجرم کی تلاش میں مجالس احرار کے دفاتر، سیاسی کارکنوں کے مکان اور دیگر پولیٹیکل پارٹیوں کے ٹھکانوں پر مسلسل چھاپے مارے، مگر نامزدیوں کے سوا انہیں کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر لدھارام کہاں غائب ہو گیا؟ اپنے تمام وسائل کے باوجود پنجاب پولیس اس سے بے خبر رہی۔

**ہائی کورٹ میں** ان دنوں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر ڈگلس نینگ اور پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر جیات کے درمیان تعلقات ٹوٹ گئے اور نہیں تھے۔ احرار رہنماؤں نے اس سے استفادہ کرنے کے لیے دہلی کے مشہور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مسٹر آئر کی معرفت چیف جسٹس سے ملاقات کی راہ نکالی، نیز مسٹر ڈگلس نینگ نے بھی کسی محفل میں اس ارادے کا اظہار کیا کہ:-

» اگر آپ مجھے مطمئن کر دیں کہ سر سکندر جیات نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے خلاف ذاتی ریشمن کی بناء پر درپردہ سازش کر کے مقدمہ چلایا ہے تو میں سید صاحب کے ساتھ پورا پورا انصاف کروں گا؟

چنانچہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ڈاکٹر عبد القوی نعمان کی معیت میں صبح پانچ بجے ٹیکسی کار کے ذریعے جسے ایک سکھ ڈرائیور کو رہا تھا، مسٹر ڈگلس نینگ کی کومٹی کے عتی دواز پر پہنچے۔ مسٹر ڈگلس نینگ پہلے سے منتظر تھے۔ وہ مولانا کو اپنے خاص کمرہ میں احترام سے لے گئے۔ ڈاکٹر عبد القوی نعمان کے توسط سے مولانا اور مسٹر نینگ کے درمیان گفتگو ہوتی۔

مولانا نے سرسکندر حیات کے پرنٹل اسٹنٹ کے خطوط کی تصاویر دکھائیں۔

گویر ملاقات بڑی محتاط اور مخفی طریق سے تھی، لیکن سی، آئی ٹی کو پتہ چل ہی گیا کہ اجازت ہناؤں اور نیگت کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ آخر ۱۱ مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مرڈگلس نیگ اور رائے بہادر جسٹس رام لال پر مشتمل ڈویژنل بینچ کے روبرو زیر دفعہ ۱۲۴ الف بغاوت، دفعہ ۱۵۳ ملک معظم کی رعایا کے درمیان منافرت پھیلانے دفعہ ۳۰۲ - ۱۱۷ تعزیرات ہند قتل کی انگینخت وغیرہ الزامات کے تحت مقدمہ پیش ہوا۔ اس موقع پر امیر شریعت کو لاہور سنٹرل جیل سے پولیس کی خاصی تعداد کے حراست میں بغیر ہتھکڑی کے ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔

اس موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ عدالت کے صحن میں جمع تھے۔ عدالت کے باہر در ہائی کورٹ کے صحن میں پولیس کا کھڑا پہرہ تھا۔

سرکار کی طرف سے مسٹر محمد سلیم ایڈووکیٹ جنرل اور مسٹر منیر احمد سینئر ایڈووکیٹ جنرل عدالت میں موجود تھے۔ جبکہ امیر شریعت کی طرف سے میاں عبدالعزیز، دیوان جین لال، مسٹر کمال گابا، مسٹر، مسٹر بدر السلام ایڈووکیٹ، مولانا منظر علی آنر ایڈووکیٹ اور مسٹر عبدالقیوم وکیل لائل پور پر پروکار تھے۔

اس مقدمہ میں استغاثہ کی طرف سے ۱۱-۱۲ مارچ کی کارروائی کے دوران چھ سرکاری گواہان نے عدالت میں بیان دیے۔ آخری اور اہم گواہ لدھارام تھا، جس کے لیے مقدمہ مکیم اپریل پر ملتوی کر دیا گیا۔

پانچ فٹ چھ انچ، قد، سفید رنگ کے ساتھ دوہرا اور گھٹیللا جسم، خوبصورت نقش و نگار | **لدھارام** | یہ تھا جو بیس سالہ نوجوان مسٹر لدھارام، والد کا نام امیر چند نارنگ، اور بیہ ضلع سرگودھا کے چک ۶۶ میں پیدا ہوئے، اور سناٹن دھرم ہائی سکول گجرات سے میٹرک کرنے کے بعد لاہور ڈی وی کالج سے ایف۔ اے تک تعلیم حاصل کی۔ گجرات پولیس میں

بطور ہیڈ کوارٹریں مہرتی ہوئے۔ اوپر کے انٹروں میں اس قدر اعتماد حاصل کیا کہ ضلع کی ہر سیاسی ضرورت کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا رہا۔

۱۱۔ جنوری ۱۹۴۰ء کو جب وہ پہلی بار امیر شریعت کے مقدمہ میں چھٹ پورٹر کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے انہیں معذرت گواہ قرار دے دیا، تو دیوان چمن لال اور میاں عبدالعزیز انہیں لاہور لے آئے۔ وہ قریباً ایک ہفتہ مولانا مظہر علی اظہر کے مکان واقع ریلوے روڈ میں رُوپوش رہنے کے بعد کیلاش پورہ دسہارن پور سے ڈیبل دوڑا پھر کیتھن ہر دوڑار کے قریب جھگل میں چھپے رہے۔

**عدالت میں** ہائیکورٹ میں اٹھارہ دن التوا کے بعد یکم اپریل کو مقدمہ کی کارروائی از سر نو شروع ہوئی۔ اس روز دھارم کی شہادت تھی۔ عدالت کے وسیع صحن میں ہزاروں انسانوں کا اجتماع تھا۔ عدالت میں داخلے کے لیے پاس جاری کیے گئے تھے۔ گمر بھوم کی زیادتی کے باعث پاس بند کرنے پڑے۔ کمرہ عدالت سے باہر اور انڈر پولیس کا اہم انتظام تھا۔ ٹھیک فونج کر پتالیس منٹ پر امیر شریعت کو پولیس کی معیت میں کار پر عدالت میں لایا گیا تو بھوم اس قدر بے قابو ہوا کہ پولیس کو اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ مقدمہ کی کارروائی ٹھیک دس بجے شروع ہوئی۔

ایڈووکیٹ جنرل مٹر سلیم نے عدالت سے کہا:

”سابقہ پیشی کے بعد دھارم کے نام سمن جاری کیے گئے تھے، لیکن سمنوں کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ بہتر کوشش کے بعد بھی پتہ نہیں چل سکا کہ دھارم کہاں ہے۔“  
اس پر میاں عبدالعزیز ایڈووکیٹ نے عدالت سے کہا:

”میں عدالت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ دھارم لاہور ہی میں ہے۔ اور میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ دھارم کو احاطہ عدالت میں دیکھا گیا ہے۔“

میاں حمد العزیز کی درخواست پر لدھارام کی تلاش کے لیے عدالت کی کارروائی نصف گھنٹہ ملتوی کر دی گئی۔

دس بج کر پینتیس منٹ پر بھورے رنگ کی ایک کار عدالت کے عین سامنے آکر کی، جس پر لدھارام سوار تھا۔ پولیس کی خواہش تھی کہ لدھارام کو عدالت میں داخل ہونے سے پیشتر گرفتار کر لیا جائے، لیکن احوار رضا کار چاہتے تھے کہ لدھارام ایک دفعہ عدالت میں چلا جائے اس کشمکش میں کچھ وقت صرف ہوا، آخر کامیابی احوار کارکنوں کو ہوئی۔ اور لدھارام عدالت میں داخل ہو گیا۔

عدالت کی دوبارہ کارروائی دس بج کر پینتالیس منٹ پر شروع ہوئی اور لدھارام کا

بیان ہوا۔

چیف جسٹس مٹرینگ کے سوال و جواب کے بعد ایڈوکیٹ جنرل مٹرسلیم نے عدالت سے گواہ پر جرح کرنے کی اجازت چاہی، جس کے جواب میں لدھارام نے حسب ذیل بیان دیا۔

لدھارام تقریباً ۲۲ سال کا مضبوط نوجوان ہے۔ اس نے نسوری رنگ کا کوٹ، پوٹرمی دار پاجامہ اور گلابی رنگ کی قمیص پہنی ہوئی

**لدھارام کا بیان**

تھی۔ پاؤں میں سفید کینوس کے بوٹ تھے اور چھوٹی چھوٹی سوجھیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک ہاتھ کی کلانی پر گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا، تو بہت سے نعرے بلند ہوئے۔ اس لیے چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ اگر ذرا بھی شور ہوا، تو کمرہ عدالت ڈیڑھ گھنٹہ سے خالی کر دیا جائے گا۔ لدھارام دلدار میر چند نارنگ نے شہادت دیتے ہوئے کہا کہ میری عمر تقریباً چوبیس سچیس سال ہے۔ میں پہلے ملازم تھا اور اب مستعفی ہو چکا ہوں میں انگریزی جانتا ہوں، لیکن بول نہیں سکتا۔

مٹرسلیم:۔ جب ۲۸۔ جون کو سید عطا اللہ شاہ بخاری نے لالہ مولیٰ میں تقریر کی تھی، کیا آپ وہاں موجود تھے؟

لہذا ہم :- پولیس رپورٹ کی حیثیت سے ۔

س : شاہ صاحب نے جو تقریر کی، کیا آپ نے اس کے نوٹ لیے؟

ج : جی ہاں! میں نے نوٹ لیے ۔

س : لانگ ہینڈ میں نوٹ لیے یا شارٹ ہینڈ میں؟

ج :- ورنیکلر شارٹ ہینڈ میں ۔

س : کیا تم نے تمام تقریر کے نوٹ لیے تھے؟

ج : جو کچھ میں لکھ سکتا تھا لکھا ۔

س : کیا تم تمام تقریر لکھ سکتے تھے یا اس کا زیادہ حصہ؟

ج : میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا ۔ میں نے جو کچھ سمجھا وہ لکھا ۔

س :- جو کچھ آپ نے لکھا کیا یہ وہی تھا جو شاہ صاحب نے کہا تھا؟

ج : (کچھ دیر خاموش رہ کر) جب تک آپ اس سوال کو صاف نہ کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ۔

س : میرا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو کچھ کہا تھا کیا وہی آپ نے لکھا تھا؟

ج :- جو کچھ میں نے سمجھا کہ شاہ صاحب نے کہا ہے وہی میں نے لکھا ۔

س : جب آپ نے یہ نوٹ لکھے لیے، تو کیا آپ نے کسی سے دستخط کرا لیے تھے؟

ج : جی ہاں! میں نے غلام حسین، اردو لکھنے والے، تیسرا نام ذرا سوچ کر، مقبول حسین شاہ اور

فیروز خاں کانٹیل کے دستخط کرا لیے تھے ۔

س : کیا اس کے بعد ان شارٹ ہینڈ نوٹوں کے آپ نے اسی وقت لانگ ہینڈ نوٹ

بنائے ۔

ج :- اسی وقت نہیں ۔

س : تو کب آپ نے لانگ ہینڈ نوٹ تیار کیے؟

ج :- گجرات میں پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کے گھر آکر لانگ ہینڈ نوٹ لکھے، اور اسے

دے دیے۔

س:۔ کس تاریخ کو لکھے؟

ج:۔ جس دن تقریر کے شارٹ ہینڈ نوٹ لیے تھے اس رات اور دن کے بعد میں نے

۲۸۔ جون کو لاہور مولیٰ میں نوٹ لیے تھے، رات بھر وہیں رہا، ۲۹، کو بھی وہیں رہا۔ ۳۰ جون

کو پراسیکیوٹنگ کے پیش کیے۔

س: چھٹ جٹس:۔ کس جگہ پیش کیے؟

ج: پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کے مکان پر تقریباً دوپہر کے بعد۔

س: یہ لانگ ہینڈ نوٹ حلیہ کسی کا خذ پر لیے یا اسی نوٹ بک میں جس میں شارٹ ہینڈ

نوٹ لیے تھے؟

ج: حلیہ کا خذ پر لکھ کر اسے پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کو دیا۔

س: کیا وہ ترجمہ جو آپ نے شارٹ ہینڈ نوٹ سے لانگ ہینڈ نوٹ میں کیا درست تھا؟

ج: شارٹ ہینڈ نوٹوں کے مطابق لانگ ہینڈ نوٹ بالکل درست تھے۔

س: جس نوٹ بک میں آپ نے شارٹ ہینڈ نوٹ لیے اس میں کوئی خالی صفحہ بھی لکھا؟

ج:۔ میں دونوں طرف نوٹ لکھتا گیا۔

س: کیا آپ عام طریقے پر اسی طرح شارٹ ہینڈ نوٹ لیتے تھے؟

ج: عام طور پر دونوں طرف نہیں لکھا جاتا۔ کسی جگہ درمیان میں خالی صفحے چھوڑ دیے

جاتے ہیں کسی جگہ نہیں۔

س: آپ کتنے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں؟

مستر جٹس رام لال: آپ یہ سوال کس لیے دریافت کر رہے ہیں؟

مستر سلیم: اس لیے کہ اپنے پہلے سوال کا ٹھیک جواب حاصل کر دوں۔ دیکھ کر آپ

نے پھر سوال دہرایا۔

لہذا رام بیہ میں تقریباً ایک سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں۔

مسٹر سلیم: کیا تم نے اس سے پہلے بھی کسی جلسے میں نوٹ لیسے؟

ج: جی ہاں! میں نے کئی جلسوں میں نوٹ لیسے۔

س: جب آپ دوسروں کے نوٹ لیتے تھے تو صفحے کے ایک طرف لکھتے تھے یا دونوں طرف؟

ج: اگر اچھا اور ایسا مقرر ہوتا، جو عام طور پر مشہور ہوتا اور یہ خیال ہوتا کہ وہ ایسی تقریر کرے گا جو قابل اعتراض ہوگی، تو جگہ چھوڑ دیتے۔

چیف جسٹس: مسٹر سلیم، آپ سادہ اور مختصر سوال کیوں نہیں کرتے؟ جس سے سارا جواب مل جائے۔

مسٹر سلیم: میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسری تقریروں کے مطالعے میں کہیں جگہ چھوڑ لیتے تھے تو اس کا کوئی خاص سبب ہوتا تھا؟

ج: جی ہاں! شارٹ ہینڈ نوٹوں کے ساتھ کئی دفعہ لانگ ہینڈ نوٹوں کے لیے علیحدہ کاغذ چھوڑ دیا جاتا، تاکہ جب مقدمہ پیش ہو تو یادداشت ہو سکے۔

چیف جسٹس: تم جو شارٹ ہینڈ نوٹ ایک صفحے پر لیتے تھے کیا اس کے لانگ ہینڈ نوٹ اس جگہ پر جو خالی چھوڑ دی جاتی تھی آجاتے تھے؟

ج: سارے نہیں آجاتے تھے، بلکہ ہم ضروری حصے لکھ لیتے تھے تاکہ انہیں یاد رکھ سکیں۔

مسٹر سلیم: آپ نے کہا ہے کہ کئی حالتوں میں آپ خالی صفحے چھوڑ دیتے تھے اس کا کیا سبب تھا؟

ج: جب ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ گورنمنٹ نے مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے، تب جگہ چھوڑ دیتے تھے۔

مشر سلیم: میرا سوال یہ ہے کہ جن تقریروں کے نوٹ لیتے وقت آپ نے خالی صفحہ نہیں چھوڑا، اس کا سبب کیا ہے؟

ج: جن حالتوں میں تقریریں قابل اعتراض ہوتی ہیں، ان میں ہی خالی جگہ چھوڑی جاتی ہے۔

س: جگہ چھوڑنے کا فیصلہ آپ تقریر کے نوٹ لیتے وقت کرتے تھے یا بعد میں؟  
ج: تقریر کے دوران ہی میں جب اس نتیجے پر پہنچیں۔

چیف جسٹس: اب سوال یہ ہے کہ جب آپ لالہ موسیٰ میں پہنچے تو کیا آپ کا خیال تھا کہ شاہ صاحب قابل اعتراض تقریر کریں گے؟

لدھارم: مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ شاہ صاحب قابل اعتراض تقریر کریں گے یا نہیں۔  
مشر سلیم: (ایک نوٹ بک جو کمرۂ عدالت میں موجود تھی گواہ کو دکھا کر) اس کتاب کے ۱۴ سے ۲۴ صفحات تک جو شارٹ ہینڈ نوٹ درج ہیں وہ کیا تمہارے لکھے ہوئے ہیں؟

لدھارم: یہ بھی میرے لکھے ہوئے ہیں۔

س: جو کچھ آپ نے لانگ ہینڈ میں لکھا کیا وہ اس شارٹ ہینڈ کا ترجمہ ہے؟  
ج: جی ہاں! اس کتاب میں جو شارٹ ہینڈ نوٹ ہیں، ان کے مطابق لانگ ہینڈ نوٹ درست ہیں۔

س: کیا آپ نے سارے کے سارے شارٹ ہینڈ نوٹوں کا ترجمہ لانگ ہینڈ نوٹوں میں کیا تھا۔

چیف جسٹس: یہ سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟

مشر سلیم: یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط اس مرحلے پر پھر مشر سلیم نے یہی سوال دریافت کیا



لدھارام: جی ہاں! جو کچھ میں نے شارٹ ہینڈ میں لکھا ہے اس کا ترجمہ سارے کا سارا لانگ ہینڈ نوٹوں میں کیا۔

مٹر سلیم: کیا یہ وہی شارٹ ہینڈ نوٹ ہیں، جو آپ نے ۲۸۔ جون کو ملزم کی تقریر کے لیے تھے؛ لدھارام: یہ وہ نوٹ ہیں جو میں نے جلسے میں لیے تھے۔

**جرح کی اجازت** | اس مرحلے پر مٹر سلیم نے درخواست کی کہ مجھے گواہ پر جرح کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ گواہ منحرف ہو گیا ہے۔ میاں عبدالعزیز نے

اعراض کیا کہ اس مرحلے پر کوئی وجہ نہیں کہ گواہ کو منحرف قرار دیا جائے۔ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ فاضل جمان نے فیصلہ کیا کہ ایڈووکیٹ جنرل کو جرح کرنے کا حق ہے۔ میاں عبدالعزیز سے انہوں نے کہا کہ کسی گواہ کے منحرف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک سچے گواہ کو بھی منحرف قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ اس نے استغاثہ کی مرضی کے مطابق بیان نہیں دیا، خواہ استغاثہ جھوٹا ہے یا سچا۔ مٹر سلیم نے گواہ پر جرح شروع کی۔

س: یہ شارٹ ہینڈ نوٹ آپ نے کہاں سے لیے؟ جو آپ کہتے ہیں کہ اصلی نوٹ نہیں ہیں؟

ج: میں نے لالہ موسیٰ سے واپسی پر گجرات میں پرائیویٹ ٹنگ انسپکٹر کے مکان پر یہ شارٹ ہینڈ نوٹ لکھے جو مجھے دکھانے گئے ہیں۔ ۳۰۔ جون کو حیب میں نے یہ نوٹ لکھے تو پرائیویٹ ٹنگ انسپکٹر کے مکان پر ایک اور آدمی راجہ خاں نائب محترم لالہ موسیٰ پولیس اسٹیشن بھی موجود تھا۔

س: آپ نے ان نوٹوں کو کہیں سے نقل کیا یا کسی نے لکھوائے تھے؟

ج: پرائیویٹ ٹنگ انسپکٹر صاحب جو مجھے لکھاتے رہے ہیں، اسی کو شارٹ ہینڈ میں لکھنا گیا۔ میں پہلے لانگ ہینڈ ترجمہ پرائیویٹ ٹنگ انسپکٹر کے پاس پہنچا چکا تھا۔ اسی کو دیکھ

کر اس میں تبدیلیاں کر کے وہ مجھے دکھاتے رہے۔

س: کیا ان تبدیلیوں کے متعلق پراسیکیوٹنگ انسپکٹر نے اپنے پاس نوٹ لکھ کر رکھے جوئے تھے یا وہ زبانی تبدیلیاں کراتے جاتے تھے؟

ج: اس وقت میرے لائنگ ہینڈ نوٹس کے علاوہ اور بھی ایک کاغذ تھا، لیکن مجھے

نہیں دکھا یا گیا کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا۔ لیکن اتنا نظر آ رہا تھا کہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے انگریزی کے ٹائپ شدہ حروف نظر آ رہے تھے۔ لکھاتے

وقت وہ دوسرے کاغذ کی طرف بھی دیکھتے جاتے تھے۔ شارٹ ہینڈ کے بعد پراسیکیوٹنگ

انسپکٹر کے مکان پر لائنگ ہینڈ بک کا ترجمہ بھی لکھا گیا۔ لائنگ ہینڈ ترجمہ علیحدہ کاغذ

پر بھی لکھا۔ اسی دن پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کے مکان پر نوٹ بک پر لائنگ ہینڈ لکھنے

کے بعد علیحدہ کاغذ پر لائنگ ہینڈ ترجمہ کی نقل کی۔ دوسری دفعہ جب لائنگ ہینڈ کی نقل

کی گئی تو کاربن پیپر کے ذریعے دو کاپیاں بنائی گئیں۔ ایک اصل اور دو کاربن والی کاپیاں

دوسری نوٹ بک پر جو بعد میں تیار کی گئی۔ میرے سامنے گوہوں نے دستخط نہیں کیے

اصل نوٹ بک جس میں جلسے کی تقریر کے نوٹ تھے، پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کے سامنے

میز پر رکھی ہوئی تھی وہ شارٹ ہینڈ نوٹ اور لائنگ ہینڈ ترجمہ پراسیکیوٹنگ انسپکٹر

سامنے چھوڑ گیا تھا۔

**نوٹ بک جلا دی گئی** | اصلی شارٹ ہینڈ نوٹ بک میرے سامنے پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کے مکان پر جلا دی گئی، اور اصلی نوٹوں کے لائنگ ہینڈ نوٹوں

کے ترجمے کو بھی میرے سامنے جلا دیا گیا، یہ پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کا رہائشی مکان تھا۔ میٹنگ

سے پہلے ہی مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ پیر غازی میں جس تقریر کے شارٹ ہینڈ نوٹ لینے

مقصود ہیں ان نوٹوں کے درمیان وقفے چھوڑ دینا۔ ہدایات کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب

کے وزیر اعظم کی ایک چھٹی پرنٹڈ نٹ پولیس گجرات کو موصول ہوئی ہے جس میں انہوں نے

لکھا ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کے علاقے میں آرہا ہے، وہ یونینسٹ پارٹی کے خلاف منافرت پھیلانے آرہا ہے۔ اس کی تقریر اس طریقے پر لی جائے کہ دفعات ۳۱۲-۱۱۶ اور ۱۵۳ کی زد میں آجائے۔ تقریر کے شارٹ ہینڈ نوٹ لینے پر ایسے شخص کو لگایا جائے جو تعلیم یافتہ ہو، اور گواہ بھی ایسے ہونے چاہیں جو پولیس کے زیر اثر ہوں۔

ایک اور سوال کے جواب میں گواہ نے کہا کہ:

ایک چٹھی ایسی تھی جس پر پرنٹڈ نوٹ پولیس اور پراسیکیوٹنگ انسپکٹر نے میرے دستخط کرائے، وہ چٹھی ہدایات سے متعلق تھی اور دستخط اس لیے کرائے تھے کہ میں بعد میں یہ نہ کہہ سکوں کہ ہدایات نہیں ملی تھیں۔ جس خط پر وزیراعظم کی ہدایات تھیں وہ مجھے نہیں دکھایا گیا تھا، پہلی دفعہ مجھے ۲۸ جون سے دو تین ہفتے پہلے ہدایات دی گئی تھیں۔ ۲۸ جون کو جب میں تقریر کی رپورٹ کے لیے لالہ موسیٰ روانہ ہونے والا تھا تو مجھے بلا کر لگایا کہ تقریر کی رپورٹ جلد از جلد لے کر شارٹ ہینڈ نوٹ پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کے پاس پہنچا دوں۔ جب دو یا تین ہفتے پہلے ہدایات دی گئیں اس وقت مجھے پرنٹڈ نوٹ پولیس نے بلایا تھا۔ پراسیکیوٹنگ انسپکٹر اور پرنٹڈ نوٹ پولیس انگریزی میں بات کرتے تھے۔ مقوڑی بہت انگریزی میری سمجھ میں آتی تھی باقی نہیں آتی تھی۔ پھر پراسیکیوٹنگ انسپکٹر نے ایس۔ پی کی موجودگی میں ہدایات دیں کہ پیرقازی (لالہ موسیٰ) میں مینٹنگ ہونے والی ہے۔ وہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کرنے والے ہیں۔ اس کی تقریر کے شارٹ ہینڈ نوٹ لیتے وقت خالی جگہیں چھوڑتے جانا۔

س: کیا اس وقت آپ کو بتلایا گیا تھا کہ شارٹ ہینڈ نوٹوں میں جگہیں کیوں چھوڑنی ہیں۔  
ج: اس وقت تک مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جگہیں کیوں چھوڑنی ہیں۔ لیکن یہ بات تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب پرنٹڈ نوٹ پولیس سمجھ چکے تھے تو مجھے ہدایات دی گئیں۔ پیرقازی جو جلسہ ہونے والا ہے اس کے نوٹوں میں خالی جگہ رکھی جائے۔

ایک سوال پر گواہ نے کہا کہ جگہ شارٹ ہینڈ نوٹوں میں چھوڑنی تھی۔  
س: کیا یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ جہاں آپ کا خیال ہو جگہ چھوڑ دو، یا کوئی خاص جگہ چھوڑنے  
کے لیے کہا گیا تھا۔

ج: کہیں ایک لائن کہیں دو لائنیں۔

س: میرا سوال یہ ہے، کیا یہ قطعی سہولت دی گئی تھی کہ کس طرح جگہ خالی چھوڑی جائے؟  
ج: نہیں! خاص طریقے کی ہدایت نہیں دی گئی تھی۔

س: یہ ہدایات کس کی تقریروں کے متعلق تھیں؟  
ج: سید عطار اللہ شاہ کی تقریر کے متعلق۔

س: تقریر کہاں کرنی تھی؟

ج: پرغازی میں۔

س: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جگہ چھوڑنے کے متعلق کیوں ہدایت کی گئی تھی؟  
ج: مجھے پتہ نہیں۔

س: آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے کسی سے خیال بھی ظاہر نہیں کیا؟  
ج: نہیں۔

س: آپ قیاس بھی نہیں کر سکتے تھے؟

ج: قیاس تو ہر شخص کر سکتا ہے ایک معمولی سا ملازم بھی۔

عدالت سے تحفظ کی درخواست | س: کیا پہلا موقع تھا جب آپ نے اس طرح  
خالی جگہ چھوڑی؟

ج: اگر عدالت مجھے تحفظ دے تو میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔

چیف جسٹس: آپ کو تحفظ دیا جاتا ہے، لیکن اگر میں خیال ہوا کہ آپ کا جواب غلط ہے تو

مقدمہ حل سکتا ہے، اگر درست ہوا تو نہیں۔

لدھارام: میری عرض یہ ہے کہ میں جن واقعات کے متعلق جواب دوں گا، اس میں مقدمہ چل کر سزا ہو سکتی ہے۔

مسٹر سلیم، مانی لارڈ، میری درخواست ہے کہ یہ کارروائی میں لکھا جائے کہ گواہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس سوال کا جواب دے۔ اس میں سب کچھ آجاتا ہے۔

میاں عبدالعزیز: لیکن اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گواہ جواب دینے سے انکار کر دے۔

چیف جسٹس، محض یہ سوال دریافت کیا جائے کہ کیا گواہ کو پہلے بھی یہ ہدایت ملی تھی۔

مسٹر سلیم نے یہی سوال کیا جس کے جواب میں گواہ نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ہدایات ملی تھیں۔

مسٹر سلیم: آپ کو ہدایات کب ملی تھیں؟

اس مرحلے پر وکیل صفائی میاں عبدالعزیز نے درخواست کی کہ اس سوال کے جواب میں گواہ کو تحفظ دیا جائے۔

چیف جسٹس: یہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ گواہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اسے پہلے بھی ہدایات ملتی رہی ہیں۔

میاں عبدالعزیز: لیکن اس معاملہ میں گواہ کو ضرور تحفظ ملنا چاہیے۔

چیف جسٹس: صرف اس خاص سوال کے جواب میں تحفظ دیا جائے گا۔

مسٹر سلیم، (گواہ سے) سید بخاری کے جلسے کے متعلق آپ کو جو ہدایات دی گئی تھیں، کیا اس وقت بھی کوئی چٹھی آئی تھی؟

ج: چٹھیاں تو کئی آتی رہتی ہیں۔

مسٹر جسٹس رام لال: کیا اس خاص جلسے کے متعلق کوئی چٹھی دکھائی تھی؟

لدھارام: جی ہاں۔

مسٹر سلیم: اصلی چٹھی دکھائی گئی تھی یا اس کی نقل؟

ج: اس کا ترجمہ، کیونکہ اس پر لکھا ہوا تھا یہ بہت مضیمہ ہے۔

ایک اور سوال کے جواب میں گواہ نے کہا۔ میں نے اصلی خط نہیں پڑھا بلکہ نقل جو

پرنٹڈ نٹ پولیس کارڈر اپنے رجسٹر میں درج کرتا ہے ادھی پڑھی۔

مسٹر سلیم: رجسٹر میں جو درج تھا اس میں کیا لکھا تھا؟

ج: مجھے یاد نہیں رہا جو کچھ مجھے یاد ہے وہ کہ چکا ہوں اور وہ یہ کہ جگہ خالی رکھی جائے اور

تقریر کے نوٹوں کی ایک کاپی پراسیکوٹنگ انسپکٹر کو دی جائے۔

مسٹر جسٹس رام لال: کیا سارا رجسٹر پڑھا تھا یا محض وہ نقل؟

ج: ترجمہ جو کچھ تھا وہ پڑھا، اور اس خط کے نمبر بھی علیحدہ نوٹ کر لیے۔

ایک اور سوال کے جواب میں گواہ نے کہا کہ میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ مستقبل میں اپنی

رہنمائی کے لیے لکھا تھا۔ ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ میں نے یہ نقل ریڈر کے

ذریعے پرنٹڈ نٹ پولیس کی اجازت سے لی تھی۔ اور میں اسی طرح اکثر نقل لیا کرتا تھا۔

چیف جسٹس: آپ نے جس تحریر کی نقل لی تھی وہ بہت تھوڑی تھی یا زیادہ؟

گواہ: کچھ خط تھے جن پر تھوڑی تھوڑی عبارت تھی۔

چیف جسٹس: دس دس سطریں یا بیس بیس سطریں۔ تم نے کتنی دیر میں نقل کیں؟

لدھارام: تین چار منٹ میں، میں نے پرفارمی کے جلسے کے متعلق بیانات نقل کیں۔

چیف جسٹس: کیا پرنٹڈ نٹ پولیس اس وقت موجود تھے؟

گواہ: وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔

مسٹر سلیم: مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات نقل کرتے وقت پرنٹڈ نٹ پولیس موجود ہوتے

تھے اور بعض اوقات نہیں۔

گواہ: کئی اوقات ریڈر کو ہدایت کی جاتی تھی کہ دوسرے کمرے میں لے جائے۔

تحقیق و تحقیق  
چیف جسٹس: یہ رجز بہت خفیہ ہے؛  
گواہ: جی ہاں۔

چیف جسٹس: اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا تھا؛  
گواہ: جس کے متعلق ہدایت ہوتی تھی اسے بتا دیا جاتا تھا۔

چیف جسٹس: سوال یہ ہے کہ ایک سترہ روپیہ ہمارا تنخواہ پانے والے کانٹیلبل کو میزٹنڈنٹ  
پولیس وہی خفیہ تحریریں کیونکر دکھا سکتے ہیں؟

گواہ: میں چند اور باتیں بھی اس سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ کام میں نے کرنا تھا۔  
مسطور سلیم، آپ نے کہا تھا کہ آپ نقل کرتے وقت نمبر بھی نقل کر لیتے تھے۔ یہ کیوں؟  
گواہ: اس کے متعلق نقل کرتے وقت کوئی خیال نہیں ہوتا۔

س: جو نقل آپ کے پاس تھی اس کے متعلق آپ کو ہدایت تھی کہ اسے محفوظ رکھا  
جائے یا نہیں؟

ج: اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔

چیف جسٹس: سوال یہ ہے کہ جب تم نقل کر لیتے تھے تو کیا یہ بتلایا جاتا تھا کہ اسے جس طرح  
چاہو استعمال کرو، اسے اپنے پاس رکھو یا نہیں؟

میاں عبدالحزیز: داٹھ کر، اس وقت گواہ ان کے اعتماد میں تھا۔

گواہ: جو کچھ میرے متعلق لکھا ہوتا تھا، اس کے متعلق ہدایت ہوتی تھی کہ اپنی یادداشت  
کے لیے نقل کرو۔

س: جب آپ کو چٹھی دکھائی جاتی تھی یا ہدایت دی جاتی تھی، تو ہمیشہ اس کی نقل دی  
جاتی تھی؟

ج: میں ہمیشہ نقل کر لیتا تھا۔ ایک اور سوال پر گواہ نے کہا کہ میں نقل اپنے ساتھ لے جاتا  
تھا اور محفوظ رکھتا تھا۔

لکڑی کا بکس | مسٹر سلیم: تو ہم فرض کرتے ہیں کہ کئی مقدمات کے متعلق بھی ہدایات کی نقلیں آپ کے پاس ہوں گی؟

ج: جی ہاں! میرے پاس پولیس اسٹیشن گجرات میں ہیں، جنہیں میں اپنے رہائشی کو ادر میں اپنے ایک صندوق میں چھوڑ آیا ہوں۔

چیف جسٹس: اسے تالا لگایا تھا؟

گواہ: تالا لگایا تھا، مگر وہ پہلے سے ہی خراب تھا۔ قریباً تین چار ماہ پہلے سے۔  
چیف جسٹس: کیا ان کا خزانہ کو خفیہ رکھنے کے لیے بکس ملا تھا؟  
گواہ: جی ہاں۔

گواہ نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ اس صندوق میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا بکس تھا، جس میں وہ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اس میں تالا لگایا ہوا تھا۔ اس کی چابی ابھی تک میرے پاس ہے۔

چیف جسٹس: لاؤ دیکھیں۔

لدھارام: نے اپنی جیبیں ٹٹولنے کے بعد کہا کہ ”میں نے اپنی تمام چابیاں اپنے ایک دست نواجہ کو دی ہوئی ہیں، وہ ہمیں موجود تھے۔“ اس کے بعد نواجہ کو جس کا پہلا نام گواہ نہیں جانتا تھا، بلایا گیا۔ اس نے چابیاں گواہ کو دیں۔ گواہ نے چابیاں چیف جسٹس کو دے دیں اور اس بکس کی چابی بتائی۔ گواہ نے یہ بھی بتایا کہ نواجہ سے میری گذشتہ پندہ بیس دن کی واقفیت ہے۔ مزید کہا کہ جلال الدین میڈکان شیل کے پاس بھی اس بکس کی اسی طرح کی چابی ہے۔ اس کے بعد گواہ کو کچھ دستاویزات دکھائی گئیں۔ انہیں دیکھ کر گواہ نے ایک پیرا دیکھ کر کہا کہ یہ پیرا میں نے رجسٹر سے نقل کیا تھا۔

مسٹر سلیم: اس سے پہلے جو سی آر پی لکھا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟  
گواہ: مجھے معلوم نہیں۔



چیف جسٹس، شاید اس کا مطلب کانفیڈنشل رپورٹ آف پولیس ہے۔

مستر سلیم: کسی پرسی ایل پی لکھا ہوتا ہے۔

چیف جسٹس: (ازراہ مذاق) کانفیڈنشل لائٹ ڈھوٹا، ہر کتا ہے (تہقنہ)

اس مرحلے پر چیف جسٹس نے میاں عبد العزیز سے کہا کہ آپ اپنی جرح میں اس بات کو ضرور معاف کیجئے کہ اس قدر خطرناک اور کانفیڈنشل ہدایات کو ایک سترہ روپے کے کانٹیل کو نقل کر کے ساتھ لے جانے کی اجازت کس طرح دی گئی۔ ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا۔

میاں عبد العزیز: نے کہا، "مائی لارڈ! میں اس بات کا خیال رکھوں گا"۔  
گواہ نے مسٹر سلیم کی مزید جرح کے جواب میں کہا کہ:

"۲۸۔ جون کو میں ہدایت حاصل کر کے پیر فائری والی تقریر کے نوٹ لینے گیا تھا۔ ہدایات مجھے پراسیکیوٹنگ انسپکٹر نے گجرات میں دی تھیں۔ ایس۔ پی اپنے کمرہ میں ہو گا۔ لیکن اس وقت ہم دونوں کے سوائے کوئی وہاں موجود نہ تھا۔ اس وقت مجھے یہی ہدایات دی گئی تھیں کہ تقریر کے نوٹ لیتے ہی پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کے پاس واپس آنا۔ اس کے علاوہ اس دن مزید ہدایات نہیں دی گئی تھیں۔ لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ تقریر FABRICATE ہوگی۔ کیونکہ ایسی باتیں تو قیافہ سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے مجھے کہا جا چکا تھا کہ جگہ خالی چھوڑ دو یا نہ چھوڑو۔ مجھے محض یہ ہدایت تھی کہ جس وقت نوٹ لے آؤں فوراً پراسیکیوٹنگ افسر کے مکان پر پہنچ جاؤں۔"

مستر سلیم: اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو یہ ہدایت نہیں کی گئی تھی جس سے یہ معلوم ہو کہ اس میں بناوٹ کی جائے گی؟

ج: مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ اس میں بناوٹ کی جائے گی۔

س: کیا آپ کو شبہ تھا یا بتایا گیا تھا؟

ج: ایسی باتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، مجھے بتایا نہیں گیا تھا۔

س: کیا اس تقریر کے متعلق خاص ہدایت کی گئی تھی؟

ج: مجھے فون پر بلا کر ہدایت کی گئی تھی کہ لانگ بیڈ نوٹ نہ کرنا۔

س: کیا یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی خالی جگہ نہ چھوڑنا؟

ج: مجھے نہیں بتایا گیا تھا۔

س: جس نوٹ بک میں آپ نے نوٹ لیے وہ گجرات سے لی تھی؟ — جب آپ

لالہ موہنی گئے تھے کیا آپ کو خیال تھا کہ نوٹ بک جلانی جائے گی؟

س: کیا آپ کو یہ ہدایات دی گئیں کہ فوراً آجائیں؟

ج: مجھے یہ ہدایت تھی کہ جلدی فارغ ہو جاؤ واپس آجانا۔

س: کب فارغ ہو گئے تھے؟

ج: اور بھی کئی تقریریں تھیں۔ شہزادہ آزاد نے بھی تقریر کی تھی اس لیے دوسرے دن شام

کو فارغ ہوا۔

س: ۲۸۔ جون کی شام کو آپ نے کس وقت تقریر کے نوٹ لیے؟

ج: مجھے یاد نہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ غالباً دونوں شہروں میں دس

گیارہ میل کا فاصلہ ہے۔

س: کیا جس رات نوٹ لیے تھے اس رات سوئے بھی تھے؟

ج: جی ہاں! میں تھا نہ لالہ موہنی میں سویا تھا۔ وہاں اور سپاہی بھی تھے، جنہوں نے مجھے کہا

تھا کہ شاید کل جلسہ ہو۔ اس لیے مجھے لالہ موہنی ہی میں ٹھہرنا چاہیے اس مرحلے پر روٹی

بچ کے لیے ملتومی ہو گئی،

بچ کے بعد کارروائی شروع ہوئی تو سٹر سلیم نے جرح جاری رکھتے ہوئے مدعا حرم سے پوچھا:

س : ۲۸۔ جون کے جلسے میں جس میں عطاء اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی، کیا آپ نے کسی دوسری تقریر کے نوٹ لیے؟

گواہ : جی ہاں! میں نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر کے علاوہ ایک دو اور اصحاب کی تقریروں کے نوٹ لیے جن کے نام مجھے یاد نہیں۔

س : جب آپ نے نوٹ لیے اس وقت دن کچھ باقی تھا؟

ج : نہیں، جلسہ رات نو بجے کے بعد شروع ہوا۔

س : کیا ان تقریروں کے نوٹ اسی نوٹ بک میں لیے تھے؟

ج : جی ہاں۔

س : کیا آپ نے دوسرے دن یعنی ۲۹۔ جون کو کسی اور تقریر کے نوٹ لیے تھے؟

ج : نہیں۔

مسٹر جسٹس رام لال، کیا اس دن لالہ موسیٰ میں کوئی جلسہ تھا؟

ج : ایک جلسہ تھا مگر اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔

مسٹر سلیم : آپ لالہ موسیٰ سے گجرات کب گئے؟

ج : ۲۹۔ جون کی شام یا ۳۰۔ جون کی صبح، لیکن مجھے ٹھیک یاد نہیں۔ کیونکہ اس واقعے کو آٹھ، نو ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔

س : آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو پڑایت ہوئی تھی کہ تقریریں نوٹ کرنے کے بعد فوراً پہنچو، تو کیا آپ کو یاد نہیں کہ ۲۹۔ جون کی شام کو گئے یا ۳۰۔ جون کی صبح کو؟

گواہ : مجھے یاد نہیں۔ لیکن یہ یاد ہے کہ ۳۰۔ جون کو پرائیسیو ٹینگ انکسٹر کے پاس گیا تھا۔

مسٹر سلیم : اگر آپ ۲۹۔ جون رات کو گجرات جاتے تو کہاں رہتے؟

ج : گجرات جاتا تو تھانہ میں رپورٹ دے کر وہیں رہتا۔

س : پرائیسیو ٹینگ انکسٹر کے پاس کس وقت گئے؟

ج : دوپہر کے بارہ بجے کے بعد مجھے ٹھیک یاد نہیں۔ غالباً تین اور چار بجے کے درمیان گیا ہوں گا۔

س : جب آپ پراسیکیوٹنگ انپکٹر سے ملے تو کیا نوٹ بک جس میں آپ نے ان تقریروں کے نوٹ لیے تھے، وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اسے پراسیکیوٹنگ انپکٹر کے حوالے کر دیا تھا؟

ج : جی ہاں!

س : جب آپ نے نوٹ بک حوالے کی، تو کیا شارٹ ہینڈ نوٹ پڑھ کر سنائے تھے یا لانگ ہینڈ میں لکھ کر؟

ج : میں نے لانگ ہینڈ نوٹ بنائے اور اس کے بعد انہیں انپکٹر کو پیش کر دیا۔

س : کیا ان کی موجودگی میں لانگ ہینڈ نوٹ تیار کیے؟

ج : جی ہاں، پراسیکیوٹنگ انپکٹر کی موجودگی میں تیار کیے۔

س : جب آپ نے لانگ ہینڈ نوٹ بنائے تو کیا آپ کی موجودگی میں انہوں نے پڑھا؟

ج : جی ہاں۔

س : کیا انہوں نے پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ تسلی بخش نہیں ہے یا ہے؟

ج : انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں بولوں، اس کے سترے سے شارٹ ہینڈ نوٹ لکھو۔

ایک اور سوال کے جواب میں گواہ نے کہا کہ پراسیکیوٹنگ انپکٹر نے میرے لانگ ہینڈ

نوٹ دوتین مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد لکھنا شروع کیا۔

س : آپ نے جو نوٹ لکھے ان میں کتنا عرصہ لگا؟

ج : تقریباً چھ سات گھنٹے۔ ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ شارٹ ہینڈ نوٹ لکھو لے

اور لانگ ہینڈ نوٹ بنوانے کے لیے پہلے شارٹ ہینڈ نوٹ بک جلائی گئی تو دوسری

تقریروں کے متعلق کیا ہوا؟ گواہ نے کہا کہ اگر کوئی مجھے تحفظ دے تو میں جواب

دے سکتا ہوں۔ کیونکہ ان کے سلسلے میں عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔

میاں عبدالعزیز: دوسرے مقدمے میں جو شہزادہ آزاد کے خلاف ہوا، گواہ پر جرح ہونی ہے اس لیے گواہ کی درخواست ہے کہ اگر وہ اس کے متعلق یہاں جو بھی بیان دے گا وہ اس کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس پر گواہ نے کہا کہ جو شہادت میں نے جہلم میں شہزادہ آزاد کے خلاف دی تھی وہ پراسیکیوٹنگ افسر کے کہنے پر دی تھی۔

مشرعہ سلیم: سوال یہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ دوسری تقریروں کے نوٹوں کے متعلق کیا کیا گیا؟

گواہ: ان پر دستخط بھی تھے۔

چیف جسٹس: سوال یہ ہے کہ اس نوٹ بک میں دوسری تقریروں کے نوٹ بھی تھے۔ جب اس نوٹ بک کو جلا دیا گیا تو ان تقریروں کے نوٹوں کا کیا بنا؟

گواہ: انہیں بھی دوبارہ لیا گیا، اسی لیے تو سات گھنٹے صرف ہوئے تھے۔

مشرعہ سلیم: جب آپ سید صاحب کی تقریر کے نوٹوں کا ذکر کر رہے تھے، تو دوسری تقریروں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟

گواہ: اسی لیے کہ میں پروفیکشن لینے کے بعد ہی کروں گا۔

س: جو جو تقریریں ہوئیں کیا ان سب کو دوبارہ نوٹ بک میں لیا گیا تھا؟

گواہ: جی ہاں۔

س: جب آپ نے ان تقریروں کو دوبارہ کر لیا تو کیا انہیں اصل کے مطابق لیا یا ان میں بھی تبدیلی کرائی گئی؟

گواہ: اگر مجھے یقین دلایا جائے کہ اس بیان پر میرے خلاف مقدمہ نہیں چلے گا تو میں بتا سکتا ہوں۔

میاں عبدالعزیز: یہ حفاظت تو پہلے ہی جا چکی ہے۔

گواہ، کچھ لفظ سید عطاء اللہ شاہ کی تقریر کے نکال کر شہزادہ آزاد کی تقریروں میں ڈال دیے گئے تھے۔

چیف جسٹس؛ تاکہ شہزادہ آزاد کو سزا ہو جائے۔ تو کیوں یہ لفظ ان کی تقریر میں ڈالے گئے؟ گواہ؛ اس لیے کہ اگر ساری تقریر کو بنایا جاتا تو یہ خیال ہو تا کہ بنا دٹی ہے۔ شہزادہ آزاد کی تقریر میں یہ الفاظ کہ ”ٹوانوں نے ہزاروں روپوں کے کتے خریدے“ نکال کر سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر کے نوٹوں میں ڈال دیے گئے۔ ایک اور سوال کے جواب میں کہا، کہ اس ڈائری میں جو جعلی بنائی گئی، اگر سارے قابل اعتراض الفاظ ڈال جاتے تو معلوم ہوتا کہ ساری جعلی ہے، اس لیے وزارت کے متعلق بھی کچھ حصہ ملا دیا گیا۔ کیونکہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ سید عطاء اللہ شاہ، یونیورسٹی پارٹی کے خلاف پروپگنڈا کر رہے۔

مٹھرا سلیم؛ آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک تقریر کے چند حصے دوسری تقریر میں ڈالے گئے تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ ساری تقریر جعلی ہے۔

گواہ؛ جعلی نظر نہ آئے اور دوسرے یہ کارکردگی دکھانے کے لیے کہ میں یونیورسٹی وزارت کا اتنا ہمدرد ہوں۔

چیف جسٹس؛ وہ الفاظ جو شہزادہ آزاد کی تقریر سے نکال کر سید عطاء اللہ شاہ کی تقریر میں ڈالے گئے وہ قابل اعتراض تھے یا نہیں؟

گواہ؛ ہو سکتا ہے۔

چیف جسٹس؛ جو الفاظ سید صاحب کی تقریر سے نکال کر آزاد کی تقریر میں ڈالے گئے وہ قابل اعتراض تھے یا نہیں؟

گواہ؛ ہوں گے، مجھے پتہ نہیں۔

چیف جسٹس؛ کیا آپ کے خیال میں دونوں نے قابل اعتراض تقریریں کی تھیں؟

گواہ : نہیں  
 چیف جسٹس : ہو سکتا ہے تمام تقریریں قابل اعتراض نہ ہوں، چند الفاظ ہی قابل اعتراض ہوں؟  
 گواہ : جہاں تک میرا خیال ہے نہیں۔  
 چیف جسٹس : اگر نہیں تو ایک تقریر کے الفاظ دوسرے کی تقریر کے الفاظ میں کیوں ڈالے گئے؟  
 گواہ : ایک آدھ لفظ ایک تقریر سے لیا جاتا تھا اور کچھ اپنے پاس سے ملا لیا جاتا تھا۔  
 مسٹر جسٹس رام لال، یعنی پورے جملے نہیں، بلکہ چند الفاظ ہی ما لے جاتے تھے،  
 گواہ : جی ہاں۔

مسٹر سلیم : آپ نے کہا تھا یہ دستخط جو اس کے نیچے ہیں آپ کی موجودگی میں نہیں کیے گئے  
 تو پھر کس نے کیے تھے؟  
 گواہ : یہ ان لوگوں کے دستخط تھے جو میں نے بتائے ہیں یا پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کے کہنے  
 پر مقبول حسین شاہ کو بلوایا گیا تھا، اس نے اپنے دستخط کیے اور دوسرے فیروز خاں کے  
 نام پر اس نے خود دستخط کیے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کون سے دستخط کیے تھے،  
 لیکن یہ یاد ہے کہ دونوں میں سے ایک میں نے کیے۔

مسٹر سلیم : فیروز خاں کو کیوں نہیں بلایا گیا؟

گواہ : وہ مل نہیں سکا تھا۔

س : مقبول حسین کب آیا؟

ج : جس دن یہ نوٹ تیار کیے گئے اس کے تین چار دن بعد گجرات سے آیا تھا۔

س : اس دوران میں یہ بتینہ جعلی ڈائری کس کے پاس رہی؟

ج : پراسیکیوٹنگ انسپکٹر کے پاس۔

مسٹر جسٹس رام لال : آپ کو کب واپس ملی؟

گواہ : دس پندرہ دن کے بعد۔

چیف جسٹس: جب آپ کو پہلی دفعہ جعلی دستاویز کے لیے کہا گیا تو کیا آپ نے پروٹسٹ کیا؟  
گواہ: جی ہاں! میں نے پروٹسٹ کیا تھا، لیکن میرے ساتھ ایک کانٹریبل تھا، جس نے ایک  
دفعہ غلطی کی تھی تو اسے معطل کر دیا گیا تھا۔

چیف جسٹس: کیا تم نے درخواست میں کہا تھا کہ میں جھوٹی شہادت  
دینا نہیں چاہتا؟

خودکشی کا ارادہ

گواہ: اگر میں لکھتا تو نہ معلوم مجھے کیا دھکے کھانے پڑتے، اور نہ معلوم پولیس مجھ سے کیا سلوک  
کرتی۔ اس مرحلے پر مٹر سلیم نے ایک سوال دریافت کرنا چاہا، جس پر لدھارام نے  
کہا کہ میری ایک اور درخواست بھی ہے، میں تمہید کیسے ہوئے تھا کہ شہادت دینے کے  
بعد خودکشی کروں گا۔ اس کے لیے میں نے منگھیا خریدا۔ آپ بے شک اس دکان سے  
دریافت کر سکتے ہیں۔ میرے والد، میری والدہ اور گھر کے تمام آدمیوں کو اس کا علم ہے۔  
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے دل میں کیا تھا۔

مٹر سلیم: یہ تو معمولی بات تھی کہ جھوٹی شہادت نہ دو اور خودکشی نہ کرو۔

گواہ: جی ہاں، بات معمولی تھی۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ اگر دہان آواز پہنچاتا تو اس عدالت میں بھی  
جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے پہنچ نہ سکتی۔

مٹر جسٹس رام لال: یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر تمہارا ضمیر بیدار تھا تو تم نے  
یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ سچ بولوں گا؟

گواہ: اس لیے تو میں اب سچ بولنے پر مجبور ہوا ہوں۔

میاں عبدالعزیز: پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت پروٹسٹ نہیں کیا، کیوں کہ سپٹ کا فکر تھا۔  
ما تحت عدالت میں مشکل تھا، اس لیے اب عدالت بالا میں اسے جہت ہو گئی کہ

سچ بولے۔

مٹر سلیم نے گواہ پر جرح جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نوٹس ایک میں جو آپ کے



خیال میں جھلی ہے کیا بعد میں اور تقریروں کے نوٹ بھی لیے تھے؛

گواہ : جی ہاں۔

مٹر سلیم : پہلے بھی اس میں نوٹ تھے؛

گواہ : مجھے خیال نہیں۔

س : جب آپ کو یہ نوٹ بک دی گئی تو کیا آپ کو یہ خیال نہیں کہ ساتھ کچھ صفحے لکھے ہوئے تھے؛

ج : صفحے تھے جو پھاڑ دیے گئے اور یہ دیکھے جاسکتے ہیں۔

س : مطلب یہ کہ جب آپ کو یہ نوٹ بک دی گئی اس وقت اس میں شارٹ ریڈ کے نوٹ تھے؛

ج : جی ہاں کچھ لکھا تھا۔

س : یہ نوٹ آپ نے لکھے تھے یا کسی اور نے؛

ج : میرے ہی تھے۔

س : کب پھاڑے گئے، آپ کی موجودگی میں۔

ج : جی ہاں۔

س : پھاڑنے کے بعد جو صفحے بچے کیا وہ خالی تھے؛

ج : جی ہاں۔

س : جو صفحے خالی بچے، انہیں کیوں نہیں پھاڑا گیا؛

ج : ان میں تاریخوں کی رد و بدل تھی، ان کی تاریخیں بہت پہلے کی تھیں، اس کے بعد

بھی کئی تقریروں کے نوٹ ایسے جاچکے تھے، کئی نوٹ بلیں جل چکی تھیں۔

س : آپ نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے نوٹ اسی پر کیوں نہیں لیے، انہی کا پی کیوں لی؛

ج : انہی کا پی اس لیے لائی گئی تھی کہ جھلی رپورٹ بنائی جاسکے گی۔

س : گویا یہ شبہ آپ کو تھا؟

ج : میرا بھی خیال تھا اور عام طور پر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔

س : گویا شک ہونے پر آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہ کرو نئی کتاب لاؤ۔

ج : میں نے نہیں کہا تھا۔

س : گویا یہ خیال آپ نے دل میں رکھا؟

ج : نہیں۔

س : اس کا مطلب کیا ہوا؟

ج : خیال تھا کہ اس راز سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اس لیے جو سبھی کاپی آئے اسے لگا لیا جائے۔

س : گویا وہاں بہت سی کاپیاں پڑھی ہوئی تھیں؟

ج : کورٹ انسپکٹر کے پاس نہیں۔ انگلش ٹینوگرافر کے پاس ہوتی ہیں۔

س : مگر آپ کورٹ انسپکٹر کے گھر گئے تھے وہاں کاپیاں پڑھی ہوئی تھیں۔

ج : نہیں، وہاں دیر سنگھ اسٹینوگرافر کو بلایا گیا کہ ایک نوٹ بک لاؤ۔

س : کیا اسے بتایا گیا تھا کہ کیوں نوٹ بک لاؤ؟

ج : نہیں۔

س : گویا وہ ایک نوٹ بک لے آیا؟

ج : تین چار نوٹ بک لے آیا۔

س : کیا وہ خالی تھیں؟

ج : کئی خالی تھیں، کئی لکھی ہوئی۔

س : کیا کوئی ایسی تھی جو بالکل خالی تھی، اور جس میں نوٹ لکھے چوتے نہیں تھے؟

ج : میں نے تین کاپیاں دیکھی تھیں۔ ایک کے متعلق پراسیکیوٹنگ انسپکٹر نے کہا کہ یہ

موزوں ہے۔ میں نے دوسری کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

س : نوٹ بک دکھا کر کہاں سے کاغذ پھاڑیے گئے تھے؟

ج : دیکھ کر شروع سے پھاڑیے گئے تھے۔

س : یہ صفحے کس نے پھاڑے تھے؟

ج : میں نے خود اس دن پھاڑے تھے۔

س : آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں اور تقریروں کے نوٹ بھی ہیں وہ جعلی ہیں یا اصلی؟

ج : ان میں جعل سازی نہیں کی گئی۔

س : آپ نے کہا تھا کہ بتینہ جعلی نوٹ بک جب آپ کے پاس پندرہ سولہ دن کے

بعد آئی تو لانگ ہینڈ نوٹ لکھے تھے؟

ج : جی ہاں۔

س : جو علیحدہ کاغذ پر لانگ ہینڈ نوٹ لکھے تھے، وہ بھی آپ کے حوالے کر دیے گئے؟

ج : پہلے اسے پولیس اسٹیشن کو بھیجا گیا اور مجھے کہا گیا تھا کہ لاہور میں تھانہ سے لے

آؤ، مجھے پرنٹڈ نوٹ پولیس نے جالے کا حکم دیا تھا۔

س : آپ کو وہ لانگ ہینڈ نوٹ کب ملے؟

ج : مجھے تاریخ یاد نہیں۔

س : آپ کے پاس کتنے عرصے تک رہے؟

ج : یہی دو تین دن۔

س : اس کے بعد آپ نے کس کو دیے؟

ج : عبدالحمید ظہینو گرافر تھانہ گجرات کو۔

س : تاریخ یاد ہے؟

ج : نہیں

س : کیا اس دن عطارانہ شاہ بخاری کی پیشی تھی؟

ج : نہیں

س : آپ نے یہ نوٹ عبدالحمید کو دے دیے تو کیا پھر واپس لیے؟

ج : ہاں میں نے واپس لیے اور نقل تیار کر کے اسی دن انہیں واپس دے دیا۔

س : تاریخ کیا تھی؟

ج : غالباً ۱۸۔ نومبر

س : آپ نے کس کے پاس انہیں دیکھا؟

ج : پراسیکوٹنگ انسپکٹر کے پاس انہوں نے مجھے چند حصوں کو خط کشیدہ کر کے دیا اور

کہا کہ گواہوں کو یاد کراؤ۔

س : کیا وہ حصے تم نے گواہوں کو پڑھ کر سنائے؟

ج : جس گواہ کے متعلق جو جو حصہ مقرر تھا وہ اس کو لکھ دیا۔

س : کیا اس دن مقدمہ ملتوی ہو گیا تھا؟

ج : جی ہاں۔

س : کیا گواہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ۱۱۔ نومبر کو بیان بتایا گیا تھا اور آپ ۱۸۔ نومبر کو

کہہ رہے ہیں؟

ج : مجھے سخت یاد نہیں۔ یہ تاریخ وہ تھی جب سید عطارانہ شاہ بخاری جیل میں آپکے تھے۔

س : تاریخ ملتوی ہونے کے بعد لانگ ہینڈ نوٹ کہاں گئے؟

ج : میں نے ٹینوگرافر عبدالحمید کو واپس کر دیے۔

س : کیا پھر کبھی اس سے واپس لیے؟

ج : نہیں، میں نے دوبارہ واپس نہیں لیے۔

س : کسی سے بھی نہیں؟

ج : نہیں۔  
 س : گویا اس کے بعد آج تک آپ نے کبھی ان لائیک میڈیٹوٹوں کو نہیں دیکھا؟  
 ج : جی ہاں دیکھا ہے۔  
 س : کب؟

ج : جب پراسیکیوٹنس انپکٹرنے کہا نہیں دوبارہ بنانا ہے، تاکہ جو جرم دستخط بنائے ہوئے ہیں انہیں ٹھیک کیا جائے، کیونکہ عطا اللہ شاہ بخاری جو کافی بااثر مولوی ہے، گواہ غلام حسین اور رولڈ سنگھ پر دباؤ نہ ڈال لے، اس لیے ان دونوں کے دستخط کر دیے جائیں۔

س : تاریخ کیا تھی؟

ج : ۲۸۔ دسمبر تھی۔

س : کس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ ضرور ۲۸۔ دسمبر ہی تھی؟

ج : میرا خیال ہے کہ ۲۸۔ دسمبر ہی تھی۔

گرفتاری اور رہائی  
 کورٹ کا اجلاس ساڑھے تین بجے ختم ہونا تھا، اس وقت تین بج کر ۳۵ منٹ ہو گئے تھے۔ آنریبل چیف جسٹس نے میاں عبدالعزیز کو

صفائی کو بتایا کہ لدھارام کی گرفتاری کے دو بلاضمانت وارنٹ آئے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ موجودہ مقدمے میں شہادت کے لیے یہیں لدھارام کی ضرورت ہے، استغاثے کو بھی اور آپ کو بھی۔ یہ وارنٹ جن مقدمات کے سلسلے میں جاری کیے گئے ہیں ان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں۔

میاں عبدالعزیز: میری یہ درخواست ہے کہ جب تک لدھارام کا بیان ختم نہ ہو جائے اسے پولیس کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس دوران میں اسے ضمانت پر رہا کیا جائے۔  
 چیف جسٹس: کیا یہ مناسب ہوگا کہ اسے جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا جائے۔

میاں عبد العزیز: نہیں جناب میری درخواست ہے کہ جب تک اس کی شہادت ختم نہیں ہوتی اسے ضمانت پر رہا کیا جائے۔

چیف جسٹس: یہ مقدمہ نہایت سخت ہے اور اس میں اس کی حاضری کی ضرورت ہے۔  
میاں عبد العزیز: اس کے لیے زیادہ ضمانت لی جاسکتی ہے، اگر اس کا کوئی یہاں ضمانتی ہو تو ضمانت دے گا۔ پانچ، دس ہزار روپے چاہیں ضمانت مانگ لیں۔  
چیف جسٹس: پانچ ہزار کی ضمانت طلب کی جاتی ہے۔

اس حکم پر لدھارام کو ڈاکٹر عبد القوی لقمان ایم۔ بی۔ بی۔ ایس کی پانچ ہزار کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور مقدمہ کی کارروائی دوسرے دن پر ملتوی کر دی۔

۴۔ اپریل کو ہائی کورٹ کے ڈیڑھ بجے نے استغاثہ کے چیف گواہ لدھارام کو ناقابل اعتبار گواہ قرار دیتے ہوئے ۵۔ اپریل ۱۹۴۰ء کو امیر شریعت کو باعزت بری کر دیا اور لدھارام کو ڈیڑھ بجے مجسٹریٹ گجرات سٹر سید اللہ خاں اور چودھری بنسی لال مجسٹریٹ درجاول کی عدالت میں سے جاری شدہ وارنٹوں کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا۔

اس کارروائی کے بعد چیف جسٹس نے امیر شریعت سے براہ راست سوال کیے۔

سوال: کیا آپ نے ۲۸ جون کو لالہ موسیٰ میں کوئی تقریر کی؟

امیر شریعت: جی ہاں۔

سوال: کیا اس تقریر میں کہا تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت اب نہیں رہی۔ مسلمانوں کو چاہیے

کہ حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں؟

جواب: میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ہی ہاتھ سے گئی ہے لہذا

اب مسلمانوں کو آزادی وطن میں حصہ لینا چاہیے۔

سوال: کیا آپ نے کہا تھا کہ ہماری بیٹیوں کے نکاحوں کے متعلق فیصلے یہ شیطان فرنگی

کرتے اور شریعت کی کوئی پروا نہیں کرتے؟

جواب: ایسے غیر شریفانہ الفاظ میں نے کبھی اپنی زبان سے استعمال نہیں کیے۔ میں نے کہا تھا کہ وطن آزاد ہونے پر ہمارے مذہبی معاملات یعنی نکاح اور طلاق وغیرہ کے فیصلے بھی غیر مسلموں کی بجائے ہمارے مذہبی نقطہ نگاہ سے شریعت کے مطابق ہوں گے۔

سوال: کیا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مؤرخوں نے انگریزوں کی متعصبانہ چال میں آکر لکھ دیا ہے کہ اورنگ زیب بارہ من جینو روزانہ اتارتا تھا۔

جواب: چونکہ یہ جلسہ کانگریس کا تھا اور میں کانگریس کے پلیٹ فارم سے بول رہا تھا لہذا ہندو مسلم اتحاد کے ضمن میں میں نے کہا تھا کہ بعض متعصبین نے یہ غلط رنگ میں مشورہ کر دیا ہے کہ اورنگ زیب روزانہ بارہ من جینو جلا یا کرتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو دہلی کے قرب و جوار میں ایک بھی ہندو نظر نہ آتا۔ حالانکہ اس وقت بھی وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور اب بھی ہے۔

سوال: کیا آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں تو میں حکومت کا تختہ الٹ دوں۔ اور ان انگریزوں کو ایسا دھکا دوں کہ سمندر سے باہر واپس نہ آسکیں۔

جواب: میں نے اپنی زندگی میں یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے اور نہ ہی میں نے یہ کہا کہ انگریزوں کو اس طرح قتل کر دو، جس طرح یزید نے حسین کی فوج کو قتل کیا۔ میں پچھلے تیس سال سے عدم تشدد کا پرچار کر رہا ہوں، ہنگو سے ڈھاکہ اور شملہ سے ممبئی تک میں نے کروڑوں انسانوں میں عدم تشدد کا پرچار کیا۔ میں عدم تشدد کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں۔ اس قسم کے لغو الفاظ میں نے کبھی استعمال نہیں کیے، اور نہ آئندہ زندگی میں کر سکتا ہوں۔ جہاں تک حسین اور یزید کا تعلق ہے، آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کو یزید کہا اور انگریزوں کو حسین ظاہر کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان اپنے کو یزید نہیں کہہ سکتا۔

اس موقعہ پر چیف جسٹس نے میاں عبدالعزیز ایڈووکیٹ سے امیر شریعت کے مندرجہ بالا آخری فقرے کی وضاحت چاہی۔

میاں عبدالعزیز؛ شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ میں غیر اسلامی الفاظ کبھی استعمال نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ الفاظ استعمال کر کے میں اپنے کو یزید اور انگریزوں کو حسین کہوں گا، نہ ہی میں برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی مسلمان اپنے کو یزید کہے۔  
جسٹس رام لال (امیر شریعت سے) کیا اس کے سوا کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟  
امیر شریعت: میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔

مدرسہ سلیم ایڈووکیٹ جنرل نے چیف جسٹس کی اجازت سے امیر شریعت سے مندرجہ ذیل

سوالات کیے

”کیا آپ نے کہا تھا کہ وہ کون تھا کافر (غلام احمد)؟“

میاں عبدالعزیز: (مدرسہ سلیم سے) مگر اس کا اس مقدمہ سے کیا تعلق ہے؟  
جسٹس رام لال: مدرسہ عبدالعزیز! آپ جانتے ہیں کہ لداہارام کی شہادت کی کیا وقعت ہے (مقتما)  
مدرسہ سلیم نے اپنا سوال پھر دہرایا جس پر چیف جسٹس نے امیر شریعت سے براہ راست سوال کیا۔

”کیا آپ نے کہا تھا کہ وہ کافر ہے، جس نے انگریزوں کو پانچ صد گھوڑ سواروں سے مدد کی تھی، وہ کون ہے، غلام احمد؟ سوال یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ ہے۔“

میاں عبدالعزیز: نہیں بانی لارڈ! یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں۔

امیر شریعت: (چیف جسٹس سے) میں نے ہزاروں مرتبہ مرزا غلام احمد کو کافر کہا، کتا ہوں اور کتا رہوں گا۔ یہ میرا مذہب ہے۔ باقی مرزا غلام احمد کی اپنی کتابوں میں درج ہے، جس میں اس نے گورنمنٹ کو اپنی وفاداری کا یقین ان الفاظ میں دلایا تھا کہ ان کے دادا نے، ۱۵۵ء میں پانچ سو سواروں سے گورنمنٹ کی مدد کی تھی۔ اس کے



سوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔"

دوسرا مقدمہ | ہائی کورٹ کا فیصلہ سنتے ہی ہجوم نے امیر شریعت زندہ باد - لدھارام زندہ باد کے نعروں سے اس فیصلے کا استقبال کیا۔

لدھارام کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور امیر شریعت کو راولپنڈی میں زیر سماعت دوسرے مقدمہ ۱۲۴ و اور ۱۵۳ کے لیے روک لیا گیا۔

۳۔ جون ۱۹۳۹ء کو امیر شریعت نے نواں محلہ (راولپنڈی) میں ایک تقریر کی، جسے فرنگی نے پسند نہ کیا اور انہیں ۸ ستمبر ۱۹۳۹ء کو ضلع مظفر گڑھ کی ایک گنہگار ستی سے زیر قلم ۱۲۱ "ترغیب قتل" ۱۲۴ و "حکومت کے خلاف بغاوت" ۱۵۳ "ملک معظم کی حکومت کے دو فرقوں کے درمیان نفرت پھیلانا" گرفتار کر لیا۔ یہ مقدمات منور زیر سماعت نئے کلاں جیل میں مندرجہ بالا مقدمات کی بنیاد ڈالی گئی۔ چنانچہ ۵ اپریل ۱۹۴۰ء کو جیسے ہی امیر شریعت... ہائی کورٹ سے رہا ہوئے۔ دوسرے مقدمے میں پکڑ لیے گئے۔ حکومت کی یہ کوشش بھی ریتیلی دیوار ثابت ہوئی، اور اس قدر جلدی کر گئی کہ قانون اپنی ساری قوت کے باوجود درویش سے مات کھا گیا۔

۴۔ جون ۱۹۴۰ء کو لاہور سیشن جج کے جواب میں امیر شریعت نے کہا:-  
 "اس مقدمے کی حقیقت بھی وہی ہے جو مقدمہ گجرات کی تھی، جس میں ٹائیکوٹ نے مجھے بری کیا۔ یعنی جس طرح ایک جعلی تقریر پیش کر کے گجرات میں مجھ پر مقدمہ بنایا گیا، اسی طرح جو تقریر محرم عدالت میں پیش کی گئی ہے، وہ بھی اسی طرح گھٹا اور بڑھا کر میرے بعض جملوں کو خلاف ترتیب سے پیش کیا گیا جس سے میری تقریر کا مقصد اور مفہوم ضائع ہو گیا، جو نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے۔"

پنجاب میں یونیٹس پارٹی کے قیام کے بعد یونینوں اور احوار

کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم بہتر حکومت قائم کریں۔ یہ کشمکش انتخاب کی صورت میں تمام پنجاب میں پھیل گئی۔ ہم نے یونینسٹ امیدواروں کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کیے اور انہوں نے ہمارے امیدواروں کو شکست دینے کی کوشش کی، اس سلسلے میں میں نے اور میرے رفیقوں نے تمام اضلاع کا دورہ کیا۔ یکم اور تین جون کو پنڈی گھیب ضلع کیمبلیور میں کانفرنس ہوئی جس میں میں شریک ہوا۔ اور میرے رفیقوں میں مولانا منظر علی انظر ایم ایل اے بھی شریک ہوئے۔ جس اتفاق پر لال بادشاہ آف کھٹکانفرنس میں شریک ہوئے اور ایک اجلاس کی انہوں نے صدارت بھی فرمائی۔ دوسرے اجلاس میں انہوں نے یونینسٹ وزارت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جو با اتفاق پاس ہو گئی۔

کانفرنس میں تمام علاقے کے بڑے بڑے زمیندار، علماء، صوفیاء اور نوجوان شامل ہوئے۔ ۳۔ جون کو اڑبائی بجے کانفرنس ختم ہوئی۔ مولانا منظر علی انظر اور میں لاہور جاتے ہوئے راولپنڈی پہنچے، چونکہ شہید گنج ایچی ٹیشن کے بعد میں نے راولپنڈی آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام پنجاب میں سب سے زیادہ مجلس احوار کی مخالفت اسی شہر میں ہوئی۔ میری رائے تھی کہ راولپنڈی میں کوئی سیاسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس ماحول میں بھی چند دوست ایسے تھے جو ہماری رائے سے اتفاق کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں یہاں (راولپنڈی) تقریر کروں۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ تقریر نہ کروں، لیکن جب دوستوں کا اصرار بڑھا تو میں نے گٹھی سامنے رکھ کر ایک گھنٹہ ۴۵ منٹ تقریر کی۔

پہری تقریر کا مقصد صرف مجلس احوار پر سے ان الزامات کا ہٹانا

تھا، جو مجمل اور بازاروں میں عام جلسوں کے اندر مجلس اہوار پر لگائے جاتے تھے۔ مثلاً یہ کہ بر لوگ کانگریس کے زرخوید غلام ہیں اور ہندوؤں سے مل کر ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنا چاہتے ہیں۔

ہماری جماعت میں علماء بھی ہیں، اور میں خود ۱۹۳۰ء سے لے کر تا آن جمعیۃ علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں۔ جب بازاروں میں علماء کے خلاف نعرے لگائے جاتے تھے اور مولوی کا غلط مذہب نامی رسالہ علامہ عنایت اللہ مشرقی کا لکھا ہوا لکے ٹکے میں بکتا تھا۔

میں نے اپنی تقریر میں علماء کی صحیح روش، ان کا صحیح مذہب اور صحیح پالیسی کا بیان کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ۱۹۵۷ء سے لے کر اس وقت تک کی عدم تشدد اور تشدد کی تاریخ میں نے بیان کی اور ثابت کیا کہ صحیح مذہب اور پالیسی وہی ہے جس پر مجلس اہوار اور جمعیۃ علماء کارہند میں چنانچہ ہم پر جو الزام تھا، کہ ہم نے اپنے ضمیر کو بیچ کر اور کانگریس سے مل کر بجائے اسلامی حکومت کے ہندو راج قائم کرنا چاہتے ہیں، میں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے بزرگوں کا دماغ اس خیال سے خالی نہیں کہ ہندوستان میں ایک دفعہ پھر اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ چنانچہ ۱۹۵۷ء کے ہنگامے میں علماء شریک ہوئے اور ناکامی کے بعد کچھ لوگ شہید ہوئے، اور ہزاروں انسانوں نے وطن عزیز کے لیے جانیں دیں۔ مغل شہزادوں کا خون بہایا گیا، ان مصیبتوں کے بعد بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور اسلامی حکومت قائم کرنے کا خیال شکست کھا گیا۔

اس کے بعد ۱۹۴۲ء میں علماء کی ایک جماعت نے بھی ارادہ کیا کہ مسلم راج قائم کرنے کے لیے تحریک شروع کی جائے اور اس میں بھی

## شکست کھائی۔

پنچانچہ ۱۹۲۰ء میں شیخ الحدیث مولانا محمد حسن دیوبندی، اٹا سے ہوا ہو کر تشریف لائے۔ دہلی میں ملک کے مختلف حصوں سے پنچ سو سے زائد علماء کا اجتماع ہوا اور یہ طے پایا کہ تشدد کا راستہ غلط ہے اور موجودہ دور میں اسلامی حکومت کا قیام تقریباً ناممکن ہے، لہذا کانگریس کے ساتھ شامل ہو کر اور تمام قوموں سے مل کر ملک کو آزاد کرانیں، اور جمہوری حکومت قائم کریں، پنچانچہ اس وقت سے ہم راہوار، اس عقیدے پر قائم ہیں اور اسی راستے کو صحیح راستہ سمجھتے ہیں۔

عدالت عالیہ! یہ میری تقریر کا مضمون تھا، جو میں نے ۳۔ جون کو

راولپنڈی میں کی تھی؟

عدالت کے ایک سوال پر امیر شریعت نے کہا:

میں نے کہا تھا، خواہ ہمیں قتل ہونا پڑے، تباہ ہونا پڑے یا بھانسی پر پڑھنا پڑے، ہم یہاں بھی اسی طرح کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جس طرح دوسرے صوبوں میں حکومتیں قائم کر کے برطانوی اقتدار کو کم کیا گیا ہے میرا میں برس سے یہ سیاسی کردار ہے کہ جب بھی مجھ پر حکومت نے مقدمہ بنایا، جو لفظ میں نے کہا اس کا اقرار کیا۔ میں نے ایسی بات کہی نہیں کی جس کا بعد میں مجھے افسوس ہوا، اور اس کے لیے عدالت میں جھوٹ بول کر جان بچانی پڑے، میں جھوٹ بول کر زندہ رہنا نہیں چاہتا۔

اس مفصل اور تحریری بیان کے بعد سیشن جج لاہور مسٹر ڈمی فالتانے

اپنے چار اسیروں کی رائے کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے امیر شریعت

کو ۷۔ جون ۱۹۲۰ء کو باعزت طور پر رہائی کر دیا۔ نیز اسی روز شام کو لاہور ریڈیو پر

امیر شریعت کی بریت کا بھی اعلان کیا گیا۔ اور دوسرے دن برلن ریڈیو کے انڈسٹری نے کہا:  
 ”ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے سب سے بڑے باغی مولانا سید  
 عطاء اللہ شاہ بخاری کو صوبے کی سب سے بڑی عدالت نے بری کر دیا ہے۔“  
 نیز جرمن شعبہ نشر و اشاعت نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی تعداد پر ہوائی جہاز کے ذریعے  
 اپنے ملک میں تقسیم کیں۔

یورپ میں دوسری بڑی لڑائی کے بادل اس تیزی سے برس رہے تھے  
 کہ توپوں کے دہانوں سے نکلتی ہوئی آگ تہذیب یورپ پر سکر رہی تھی۔

۲۳-۱۹۴۰ء کو قرارداد پاکستان کے بعد ہندو مسلمانوں کے درمیان سلگتی ہوئی  
 آگ شعلے دینے لگی تھی، اور گذشتہ ربع صدی کی فرقہ وارانہ کشمکش فیصلے کے انہی موڑ پر  
 پہنچ گئی تھی۔ انہی دنوں ملک کے دانشور تدبیر کے ناخن لیے عقل و خرد کے گوشوں میں  
 بیٹھے تھے کہ امیر شریعتؒ قریباً نو ماہ جیل میں گزار کر رہا ہوئے۔

غیر ملکی قانون کے محافظ سر سکندر حیات خاں کی وام تزدور کی تمام کڑیاں از خود ٹوٹ  
 کر قانون کو شرمندہ کرنے لگیں۔ اقتدار نے اپنے منہ پر کئی طماچھے مارے، جس سے اس کا  
 اپنا چہرہ لہولہاں ہو گیا۔ اور اپنے اس خون کی سرخیوں میں ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح  
 وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرقاب ہو گیا۔

امیر شریعتؒ مقدمات سے بری ہونے ہی سب سے پہلے اپنے والد محترم سے  
 ملنے ناگڑیاں چلے گئے۔

ان دنوں امیر شریعتؒ انچاس سال کے پٹھے میں تھے، مصائب و آلام میں گزرے  
 ہوئے برسوں نے واڑھی اور سر کے بالوں میں سپیدی کو اس قدر تیزی سے جنم دیا کہ  
 کہ وہ قبل از وقت بوڑھے دکھائی دینے لگے۔ دوسرے قوائے جہانی بھی مشین کے پرنوں  
 کی طرح ڈھیلے ہو چکے تھے۔ اندرون خانہ ۱۹۳۵ء میں جس بیماری کا آغاز ہوا تھا، اس کی

جرمیں بدستور پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس طرح گھر کا سکون بھی میسر نہ تھا، اور اکثر جماعتی اجاب کے جیل خانوں میں جانے کے باعث جماعتی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی انہی کے کندھوں پر آن پڑتا تھا۔

دل اور دماغ جب باہم متضاد ہوں تو آدمی فکر کے ایسے دورا ہے پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے خرد کے تمام دروازے مسدود ہو جاتے ہیں اور جنون اپنا دامن شوق وایکے ہر موڑ پر آدمی کا استقبال کرتا ہے، ایسے موقعے پر آوارہ ذہن آدمی کا مقصد حیات سے جھٹک جانا بڑی بات نہیں لیکن امیر شریعت نے ۱۹۲۱ء میں جس سفر کا قصد کیا اور صحتوں کو دعوت دی تھی، ان سے وابستگی کی تمام کڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے گرہ دیتے رہے۔ کئی دن والد صاحب کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی دعائیں لیں اور پھر تازہ دم ہو کر سفر پر چل دیے۔ حالانکہ خانگی حالات اور املیہ کی بیماری را شتہ روکتے رہے، لیکن وقت کا مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔

دوسری جنگ عظیم کے باعث ہندوستان کے

حضرت رائے پوری سے وابستگی  
ہنگامی قوانین نے سیاسی کارکنوں کے محاسبے کو اس قدر تنگ کیا ہوا تھا کہ اپنے قدموں کی آواز پر بھی دشمنوں کا گمان ہوتا تھا، اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا تھا، ایسے حالات میں امیر شریعت نے لاہور پہنچ کر جماعتی کاموں کا جائزہ لیا اور ضروری احکامات دے کر اپنے مرشد مولانا عبدالقادر کی خدمت میں حاضری کے لیے رائے پور (ضلع سہارنپور) چلے گئے۔

امیر شریعت نے ۱۹۲۷ء کے دم توڑتے ہوئے دنوں میں حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری کے ہاتھ پر لاہور میں مولانا عبداللہ فاروقی کے مکان پر بیعت کی تھی، اس سے پیشتر امیر شریعت، سید مر علی شاہ صاحب گوٹھوی کے دامن سے وابستہ تھے، ان کی وفات کے بعد ایک عرصہ اپنے روحانی پیشوا کی تلاش میں رہے اور اس غرض کے لیے

میاں شیر محمد کی خدمت میں شرق پور (شیخوپورہ) بھی گئے اور ان سے عرض کیا۔  
تو کہ کیمیا فروشی نظر سے بقلب باکن۔

حضرت میاں شیر محمد صاحب نے دو گھنٹہ مراقبہ کے بعد فرمایا:

”شاہ جی! آپ کوئی دوسرا گھر تلاش کریں، میرے دامن میں اتنی وسعت  
کہاں کہ آپ کو پناہ دے سکے؟“

والیسی پر میاں صاحب امیر شریعت کو اپنے جلو میں گاؤں کی آخری سرحد تک

چھوڑ لے آئے۔

حضرت مولانا عبدالقادرؒ موضع ڈھڈھی سدھ ضلع سرگودھا کے ایک ممتاز دینی گھرانے  
میں پیدا ہوئے اور تکمیل علم کے بعد برصغیر کے مشہور روحانی پیشوا حضرت شاہ عبدالرحیم  
رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم، حضرت گنگوہی  
رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلفاء میں سے تھے، ان کا ظاہری اور باطنی علوم میں بہت بڑا مقام  
تھا، انہوں نے حضرت مولانا عبدالقادر کی سید روح کا جائزہ لے کر ان پر ایسی توجہ فرمائی  
کہ انہیں جذب و شوق کی تمام منزلیں طے کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ حضرت نے انہیں اپنا  
خليفة منتخب کیا اور پھر شیخ طریقت حضرت شاہ عبدالرحیم کے وصال کے بعد حضرت مولانا  
عبدالقادر ان کے جانشین مقرر ہوئے، پھر ایسے فنا فی الہی ہوئے کہ اپنا وطن ترک کر کے  
دم واپس سے کچھ دن پیشتر تک راستے پور میں قیام کیا۔ آخر ۱۶۔ اگست ۱۹۶۲ء کو لاہور  
میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

امیر شریعت اور ان کے مرشد کے درمیان اخرام کی ایک اونچی دیوار حائل تھی۔ لیکن  
اس کے باوجود حضرت راستے پور میں نے امیر شریعت سے محبت کا رشتہ اس قدر مضبوط  
استوار کر لیا کہ پیر طریقت کے دل میں اپنے مرید کے لیے بے پناہ لگاؤ تھا۔

کسی سیاسی یا مذہبی تحریک میں شامل ہونے یا شروع کرنے سے پیشتر اول اپنے

ضمیر سے پھر پر طرقت سے مشورہ کرتے۔ جب دونوں راہیں ہم آہنگ ہوتیں تو پھر نتائج سے بے نیاز ہو کر میدان میں نکل آتے۔

**قانون کی شکست** | سیاسیات کی بادِ سموم کے باعث ہندوستان کی فضائے اس قدر گرمی پیدا کر دی تھی کہ جس دل و دماغ میں احساس کی آگ جل

رہی تھی، اس کے لیے گوشر تہنائی میں بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ چنانچہ ان دنوں اتحادی اور محوری فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آراء تھیں۔ اقوامِ یورپ کی اس جنگِ زلِیشیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۱۹ء کو کانگریس نے اس طرانی کے خلاف انفرادی ستیگرہ شروع کیا، تو ہندوستان میں ڈیفنس روز آف انڈیا ایسے ہنگامی قوانین کا نفاذ ہو چکا تھا۔ محبت و وطن لوگ جیل خانوں میں مقفل کر دیے گئے۔

امیرِ شریعت نے انہی دنوں انگریز کے خلاف جلتے ہوئے دلوں کی مہٹیلوں میں جذبات و نفرت کا ایندھن بھرا، وہ ہندوستان کے ہر کوپہرہ و بازار میں گئے اور لاکھوں انسانوں کے اجتماع سے خطاب کیا۔

پنجاب میں سر سکندر حیات خاں کی فوجی حکومت برطانوی سامراج کے دشمن سے شکست کھا چکی تھی۔ قانون اپنی پوری گرفت کے باوجود امیرِ شریعت تک نہ پہنچ سکا۔ لیکن امیرِ شریعت مجلسِ احرار کی جنگ کے خلاف تحریک کی بڑی بے باکی اور جاہلِ بدستی سے سارے ہندوستان میں رہنمائی کرتے رہے۔ حکومت کی پوری مشینری ان کے تعاقب میں رہی۔ امیرِ شریعت اپنے رضا کاروں کو فوجی بھرتی کے خلاف سول نافرمانی پر اکساتے رہے۔ گاؤں، قصبات اور شہروں کے ہزاروں عوام اس تحریک کے تحت جیل خانوں میں گئے۔ ملتان اور منظرِ گڑھ کا ضلع خصوصیت کے ساتھ اس تحریک سے براہِ راست متاثر ہوا۔ جاپان جنگ میں شریک ہو چکا تھا اور دوسری طرف جرمن فوجیں جنرل روتیل کی کمان میں سکندریہ کے ساحل تک بڑھ آئی تھیں۔ اتنے میں ۱۹۲۲ء کی عمر کا جامِ بربت



ہو گیا اور ۱۹۲۳ء کی ششماہوں نے آگے بڑھ کر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔

اپنے ماضی کی طرح ہندوستان ان دنوں بھی سیاسی طور پر دو دھڑوں میں منقسم تھا۔ رحبت پسند انگریزی حکومت کے معاون تھے، اور انتہا پسند گروہ اس موقع کو غنیمت جان کر غیر ملکی حکومت کے خلاف بغاوت کو اپنا دین سمجھتا تھا۔ چنانچہ اول الذکر گروہ فوجی بھرتی کے لیے گاڈن گاڈن گھوم پھر کر سادہ لوح عوام کو انگریزی اقتدار کی بقاء اور دوسری جنگ عظیم کی آگ میں جھونکنے کے لیے خوبصورت دردی، بندوق اور مفت راشن کا لالچ دے کر بھرتی کر رہا تھا۔

والدین کو جب معلوم ہوتا کہ ہمارا لڑکا فوج میں بھرتی ہو گیا ہے تو وہ پریشان ہو کر امیر شریعت کے پاس آتے، امیر شریعت پہلے تو انہیں سخت کست کستے، پھر ان سے مجلس احرار کے لیے پانچ روپے چنڈہ وصول کرتے اور اس کی رسید اس رٹ کے نام کاٹتے جو فوج میں بھرتی ہو کر ٹریننگ کے لیے جا چکا تھا۔ ساتھ ہی جماعت کے طبع شدہ نام پر اس رٹ کے نام حسب ذیل خط لکھتے۔

” عزیزم ..... !

سلام مسنون۔ تمہارا چنڈہ برائے مجلس احرار بڑی پابندی سے پہنچ رہا ہے، شکریہ! اپنی جماعتی ذمہ داریوں کو خوب اچھی طرح نبھانا، فوج کے اندر رہ کر جماعت نے جو ڈیوٹی تمہارے سپرد کی ہے اسے خیال سے انجام دینا۔

فقیر، عطار اللہ شاہ بخاری

یہ خط جب فوجی افسروں کے پاس پہنچتا تو وہ متعلقہ رٹ کے کو بلا کر دریافت کرتے  
تمہارا عطار اللہ سے کیا تعلق ہے؟  
سولجر: ” میں تو انہیں جانتا بھی نہیں صاحب!“

آفیسر: تم تو اس کی جماعت کو چند بھی دیتے ہو؟  
سولجر: ”نہیں صاحب“

آفیسر: لیکن تمہارے نام اس کا خط اور چندے کی رسید کیسے آگئی؟ چلو تمہیں فوج کی ملازمت سے علیحدہ کیا جاتا ہے؟

گویا خط پہنچنے کے چوتھے روز لاجپور کا اپنے گھر واپس پہنچ جانا، اور گھر والے میرٹھ لیتے ہو کہ وہاں دیتے۔ انگریز جوان دنوں محاذ جنگ پر مصروف تھا۔ امیر شریعت کی ان حرکات سے چین بہ جہیں ہوا، لیکن اندرون ملک وہ حالات سے مجبور تھا کہ اپنے کسی سیاسی حریف کو قانونی گرفت میں لیتا۔ اس طرح سے سینکڑوں نوجوانوں کو انگریزی فوج سے نکالنے کا سہرا امیر شریعت کے سر ہے، اور یہ سلسلہ اختتام جنگ تک جاری رہا۔

۲۰۱۹ء کی لاہور قرارداد کے بعد اقوام ہند کے خیالات نئے زاویوں سے دیکھے جانے لگے۔ ہندو کے جذبہ نفرت نے مسلمان کو اس سے

## حکومتِ الہیہ

متنفک کر دیا تھا۔ دلوں کی باتیں زبانوں پر آکر فضاؤں میں پھیل چکی تھیں، جس کے باعث ہر روز کے حالات نئے واقعات کو جنم دے رہے تھے۔ دوسری طرف جنگِ عظیم کے متوقع نتائج کے پیش نظر غیر ملکی اقتدار کا زوال صاف دکھائی دے رہا تھا، ایسے میں احرار رہنماؤں کو یقین تھا کہ مستقبل قریب میں ہندوستان کے نقشے پر کوئی نیا سورج طلوع ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ سورج اسلام کا سورج ہو، برائی نیکی کی ضامن بن جائے۔

لہذا آنے والے کل کے لیے آج سے راستہ مہوار کرنا چاہیے۔ پچاسیچہ مئی ۱۹۴۳ء میں آل انڈیا احرار ورکنگ کمیٹی نے سہارن پور میں سول نافرمانی کی قرارداد جو کہ ۱۹۴۲ء میں واپس لے لی گئی تھی کی جگہ حکومتِ الہیہ کی قرارداد منظور کی۔ نیز فیصلہ کیا کہ مجلس احرار ہندوستان کے موجودہ فرقہ وارانہ فیصلوں سے الگ رہے گی اور ہندوستان کے آئین میں اگر کوئی تبدیلی آئی تو مسلمان اپنے لیے حکومتِ الہیہ کا نظام پسند کریں گے، کیونکہ اس سے

”خلقت خدا کی، حکم بادشاہ دہلی کا“

لیکن سہارن پور کی قرارداد کے بعد مجلس احرار کا نعرہ تھا

”خلقت خدا کی اور حکم بھی خدا کا“

إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

ان دونوں نعروں کے درمیان خاصا فرق ہے، مگر قانون شکنی کی نوبت نہ آئی۔

جماعت کی اس نئی قرارداد نے امیر شریعت کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔

مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان ان دنوں زوروں پر تھا، ہندوستان کے مسلمانوں

کی اکثریت اس کے حق میں تھی، لیکن امیر شریعت کی رائے مسلم لیگ کے نعرہ کے مقصود

تھی، وہ تقسیم ملک کے بعد کے نتائج کو اپنی بصیرت کی روشنی میں ناپسند کرتے تھے، چنانچہ

اس کے خلاف وہ حکومتِ الہیہ کے حق میں عوام سے کہتے :-

”کسی زمین کو حاصل کرنے سے پیشتر اللہ کا نظام اپنے دلوں پر قائم کریں

فرنگی کی ڈیڑھ سو سالہ غلامی سے جو دل رنگ آو دو ہو چکے ہیں، انہیں ایمان

کی کسوٹی پر پرکھیں، تاکہ کفر کے نظامِ حکومت کی جو آفاتیں اس پر چھو چکی ہیں

وہ صاف ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی زمین حاصل کر بھی لی،

تو جو نظام آپ قائم کریں گے، وہ انسانوں کا بنا ہوا ہوگا جس کی ہر شق کفر

کے آئین سے ماخوذ ہوگی“

امیر شریعت نے انہیں خیالات کا اظہار سارے ہندوستان میں کر ڈیڑھ سو سالوں

کے اجتماعات میں کیا۔

حکومتِ الہیہ کی قرارداد سے ہندو اور انگریز کے بعد مسلم لیگ سے متعلق مسلمان

بھی امیر شریعت سے اختلاف کرنے لگے۔ اگرچہ مجلس احرار کا عسکری نظام ہندوستان کے

اکثر صوبوں میں قائم تھا، تاہم مسلمانوں کی غالب اکثریت جو مطالبہ پاکستان کی حامی تھی ایمر شریعت کے عوامی جلسوں میں ہر جگہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی، لیکن یہ مخالفین کی رائے کو خدشاں کی طرح بہا کر لے جاتے۔

**مولانا گل شیر کی شہادت** | فرد ہو یا قومیں، غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے دونوں انجام سے بے خبر ہوتے ہیں۔

موضع ملہو والی ضلع کیمبلپور کے مشہور عالم دین مولانا گل شیر اپنے صلح کی حدوں سے نکل کر میانوالی اور جہلم کے درلے کنارے تک اپنی منفرد طرزِ خطابت، اخلاص، ہرأت اور طبیعت کی سادگی کے باعث مسلمانوں کے دلوں پر راج کرتے تھے، وہ سیاسیات سے انگ تھنک فقہ اسلامی کی دکالت کے لیے شب و روز غیر اسلامی رسم و رواج سے منح کرتے، غیر مسلموں سے لین دین میں مسلمان عورتوں کو روکتے، گاڈن گاڈن پھر کر اپنے اس موقف کی وضاحت میں قرآن کریم سنا تے۔ آزادی وطن کے ضمن میں کانگریس سے اتحاد پر مجلس اہوار اور دوسری سیاسی جماعتوں سے سخت متنفر تھے۔ کیس اگر اہوار رہنماؤں سے ٹھہر ہو جاتی تو مولانا گل شیر انہیں ایسا کہتے کہ انہیں اپنا بیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا۔

۱۹۳۸ء میں مولانا گل شیر حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ان کے طریق زندگی میں اس قدر انقلاب آیا کہ فوج محمدی کی شیخ پر مجلس اہوار اور ایمر شریعت کی بار بار تعریف ہونے لگی۔ اس تبدیلی سے عوام کے لیے یہ بات ایک سوال بن گئی کہ کیا ایسی یہ کیسے ہو گیا؟ مگر مولانا گل شیر نے یہ راز چھپائے رکھا۔ آخر ۱۹۳۹ء میں جب وہ مجلس اہوار میں شامل ہوئے ایک اجلاس میں تقریر کے دوران مولانا نے کہا:-

”میں ہمیشہ سے ایمر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور ان کی جماعت کو بندوؤں کی زرخید سمجھتا تھا۔ اپنے اس عہدے کے تحت میں نے

لے۔ مولانا گل شیر کی اپنی رضا کارانہ غیر سیاسی تنظیم تھی۔

اپنے علاقے میں ان حضرات کی سخت مخالفت کی، جہاں کہیں میرا بس چلا میں نے اس جماعت کے پاؤں نہیں جھنے دیے۔ لیکن گذشتہ سال راج کے موقع پر میں طواف کعبہ سے فارغ ہو کر نماز عصر سے ذرا پہلے نیند میں تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے رویا میں مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے:

”تم مجلس احرار میں شامل ہو جاؤ۔“ تم مجلس احرار میں شامل ہو جاؤ۔“ تم مجلس احرار میں شامل ہو جاؤ۔“

اس فقرے کی مسلسل تکرار سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ میں اس حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ الحمد للہ کہ اب میں اس مجاہد جماعت کے ایک رضا کار کی حیثیت سے ہمیشہ حق کے لیے کفر سے نبرد آزما رہوں گا۔

اسی سال مولانا گل شیر، مولانا امیر شریعت، مولانا حبیب الرحمن، قاضی احسان احمد اور خواجہ عبدالرحیم عاجز کو میانوالی کے ضلع میں اپنے ساتھ لے گئے۔ واپسی پر امیر شریعت نے مولانا گل شیر کا ہاتھ پکڑ کر لاہور کے ایک عظیم اجتماع میں کہا: ”آج میں اپنے نال اک ہو جانا لے کے آیا ہوں۔“ دلفظ ”جنا“ میانوالی کے علاقے میں بہادر اور جرات مند پر بولا جاتا ہے یعنی آج میں اپنے ہمراہ ایک اور بہادر کو لے کر آیا ہوں۔

ان دنوں ملک میں مجلس احرار فوجی بھرتی کے خلاف تحریک چلا رہی تھی۔ مولانا گل شیر بھی گرفتار ہو کر جیل چلے گئے۔ رہا ہو کر آنے تو نواب آف کالا باغ کی اپنی رعایا سے ملکر ہو چکی تھی، مولانا نے وہاں کے غریب عوام کا ساتھ دیا، اور اس تحریک کو سارے پنجاب میں ہوا دی۔

مولانا گل شیر کی مقبولیت اب پنجاب کے قصبات تک پہنچ چکی تھی۔ شہرت کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی جوائنٹ میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیمپلور اور میانوالی اضلاع کے اُمرا کو برسات کب پسند تھی کہ رسم و رواج پر وعظ کرنے والا مولوی اس حد تک آگے بڑھے



اس حادثہ جانکاہ کے بعد امیر شریعت اپنا مجوزہ پروگرام ملتوی کر کے کیمپن پورا اور میانوالی کے سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے وہی باتیں کہیں جو مولانا گل شیر کے قتل کا باعث بنی تھیں۔

**تحریکِ پاکستان** بھلکری فوجیں جیسے جیسے برطانوی سلطنت کا سورج خرواب کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئیں۔ ایشیا کی سیاست اسی قدر متاثر

ہوتی گئی۔ مجلس امرا ان دنوں کانگریس اور مسلم لیگ کے تصادم سے بالاتر رہ کر اپنی پالیسی پر گامزن تھی۔ ہندوستان کے مسلمان دو دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ مطالبہ پاکستان زور پکڑتا جا رہا تھا۔ سرکاری دفاتروں میں ہندو کی تنگ نظری نے کلرک تم کے مسلمان کو بھی بھی مسلم لیگ کا ممبر بنا دیا تھا۔ کانگریس پر قابض فرقہ پرست ہندو نے نیشنلسٹ مسلمان کو بھی کانگریس سے علیحدگی پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف مسلم لیگ میں رحبت پسند اور ترقی مان لوگوں کے ہجوم نے "پاکستان" کا نعرہ کچھ اس انداز سے بلند کیا کہ متعین راہ پر چلتے ہوئے مسازوں کو بھی راستے کی کیریں گڑھ نظر آئے گئیں۔

سال ۱۹۴۷ء کے آخری ایام برطانوی سلطنت اور غلام ہندوستان کے مابین کشمکش کے آخری اور انتہائی نازک دن تھے۔ متحدہ ہندوستان نے لیگ اور کانگریس کے ہلکڑے سے ۹ ستمبر ۱۹۴۷ء کو ایک نئی کروٹی لی، جبکہ بھئی میں گاندھی جیخ ملاقات سے پاکستان کے نعرے میں نئی بہار آتی۔ مسلمان من حیث القوم مسلم لیگ کے پیٹ فارم پر جمع ہو گئے لیکن امیر شریعت یہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی حکومت الیہ کی وضاحت میں ایسے مصروف ہوئے کہ انہوں نے مجلس امرا کی سارن پور والی قراردادوں کے دوسرے حصے پر عمل کرتے ہوئے مسلم لیگ اور کانگریس کے جھگڑوں میں الجھنا غیر مناسب سمجھا اور اس طرح یہ سال بھی گذر گیا۔

نئے سال کے طلوع ہوتے ہی دوسری جنگِ عظیم کے برستے ہوئے بادلوں کے

داسن خشک ہو رہے تھے کہ ۱۵۔ اگست ۱۹۴۵ء کو امریکہ نے جاپان کے خوبصورت شہر ہیردیمپرا پراٹیم بم دے مارا۔ اس سے پیشتر جرمن اتحادیوں کے سامنے سپرانداز ہو چکا تھا۔ اس طرح جنگ کے خاتمہ پر جہاں اور بہت سی تبدیلیاں آئیں، وہاں لندن کی کنزرویٹو پارٹی نے ایکشن ہارکر حکومت کا چارج لیبر پارٹی کے سپرد کر دیا۔ برطانیہ کی نئی حکمران پارٹی نے چونکہ اپنے دوڑوں سے ہندوستان میں نئی تبدیلیوں کے عنوان پر دوٹو ایسے تھے لہذا ہندوستان کو جلد سے جلد آزاد کرنے کے منصوبے شروع کیے۔

بعد از جنگ کے حالات نے باوجود یکہ اتحادیوں کو فتح ہوئی تھی، برطانیہ کو دنیا کی تیسرے درجہ کی طاقت بنا دیا تھا۔ ہندوستان کے سیاسی حالات بھی برطانیہ کے حق میں نہیں تھے۔ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے مصلحت کا تقاضہ تھا کہ برطانیہ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہندوستانیوں کی رائے پر چھوڑ دے، چنانچہ ان دنوں برطانوی دانشوروں کے اکثر دو ہندوستان آئے، جن میں کرپس مشن، خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس نے مسلم لیگ اور کانگریس راہنماؤں سے گفتگو کی۔

قائد اعظم سے ملاقات کی خواہش | عالمی سیاسیات میں برطانیہ کی پوزیشن ڈوبتے سوچ کے ہمارے تلاش کر رہی تھی بدیں

حالات یقین ہو چکا تھا کہ اب انگریز ہندوستان کو تقسیم کئے بغیر دم نہیں لے گا۔ چنانچہ امیر شریعت نے دہلی میں تقریر کرتے ہوئے مقرر علی جناح (قائد اعظم) سے مخاطب ہو کر کہا:

دو پاکستان کی تھیوری میرے بار بار سوچنے پر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں جس قدر اس پر سوچتا ہوں اسی قدر کھوجاتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم اور خود ہندوستان کی نجات بھی اسی میں ہے، تو اس سلسلے میں میرے چند خدشات ہیں۔ اگر آپ مجھے ملاقات کا موقع دیں اور میرے خدشات دودر، میں تو پھر آپ آرام سے بھی بیٹھ جائیں، میں آپ کے



ایک اڈنی سپاہی کی حیثیت سے حصولِ پاکستان کے لیے ہندو اور انگریز دونوں سے نپٹ لوں گا۔

دیکھتے مسٹر جناح! یہ دس کروڑ مسلمان قوم کے مذہب اور اس کے مستقبل کا سوال ہے۔ یہ دس کروڑ عرب سے نہیں آئے، بلکہ اسی کفر گڑھ سے خواجہ معین الدین چشتی (جامحیری) حضرت خواجہ مجدد الف ثانی سرہندی، حضرت علی ہجویری (داتا گنج بخش)، حضرت نظام الدین اولیا (دہلی) حضرت پیران کلیڑ جیسے ولی، قطب، ابدال اور شب زندہ دار لوگوں نے اپنی ریاست و عبادت سے راجو تانا ایسے کفر گڑھ میں بیٹھ کر انہیں مسلمان کیا تھا۔ اگر ہندو اور انگریز کی ملی جھکت سے ان دس کروڑ مسلمانوں کو کسی طرح کا نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی!

اسی مجمع میں آپ نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

”میں نے اپنی عمر کا ایک تہائی حصہ فرنگی سے لڑ کر اس کے جیل خانوں میں گزارا ہے، مگر جو بات ایک دفعہ سمجھ میں آگئی ہے پھر اس سے منہ نہیں موڑا، اور انگریز جیسی جاہر سلطنت کے سامنے کھڑے ہو کر وہی کچھ کہا جس سے میرا ضمیر مطمئن تھا۔ میں مسٹر جناح کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ میری ان سے سیاسی لطافتی ہے ذاتی نہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو گواہ کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی بات سمجھنے کے لیے اگر مجھے مسٹر جناح کے قدموں پر اپنی یہ سفید داڑھی بھی رکھنی پڑی، تو خدا کی قسم میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ لیکن بات سمجھے بغیر ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر تیار نہیں ہو سکتا اچا ہے میری قوم میرے خلاف ہو جائے!“

اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار امیر شریعت نے قریباً سارے ہندوستان میں

کیا۔ مگر قائد اعظم کی طرہ سے کوئی جواب وصول نہ ہوا، تا آنکہ ملک میں ۱۹۴۶ء کے نئے انتخابات کا حکامہ شروع ہو گیا۔ یہ ۱۹۴۵ء کے وسط کا واقعہ ہے۔ دسمبر ۱۹۴۵ء کے آخر تک انتخابات کے نتیجے سامنے آئے تو مسلم لیگ ہندوستان میں اسٹی فیصد کامیاب رہی لیکن امیر شریعت کے خدشات بدستور رہے، جن کا اظہار وہ کبھی کبھار سچی محفلوں میں بھی کرتے، لیکن اس آس پر کہ شاید الیکشن سے فارغ ہو کر قائد اعظم انہیں بلا لیں گے۔ بالآخر امیر شریعت کی اس خواہش کو ٹھکرا دیا گیا۔

**قرارداد مجلس احرار** | ہندوستان کے سیاسی حالات و واقعات دیکھتے ہوئے برطانیہ کی نئی حکومت نے جن کے سربراہ مسٹر اسٹیلی تھے، ۱۹ فروری ۱۹۴۶ء کو

برطانوی پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ کابینہ کے تین وزراء کا ایک وفد ہندوستان جا کر وہاں کی مختلف سیاسی پارٹیوں سے گفتگو کرے گا۔ اس اعلان کے پیش نظر ۲۲ مارچ ۱۹۴۶ء کو برطانوی وفد ہندوستان پہنچ گیا، جس کی قیادت وزیر ہند مسٹر لارڈ پیٹیک لارنس کر رہے تھے۔ امیر شریعت نے جب یہ خبر اخبارات میں پڑھی تو ۲۵ مارچ کو لاہور پہنچ کر صدر مجلس احرار شیخ حام الدین کے مشورے سے ۲۶ مارچ کو لاہور مجلس احرار کی درکنگ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ممبران احرار درکنگ کمیٹی سے پاکستان سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے کے بعد امیر شریعت نے حسب ذیل قرارداد پیش کی۔

۱۔ آل انڈیا مجلس احرار اسلام کی درکنگ کمیٹی کا یہ اجلاس موجودہ اہم سیاسی مسائل کے تعلق ایک بار پھر اپنی پوزیشن واضح اور غیر مبہم طور پر ظاہر کرنا ضروری سمجھتا ہے۔

ب۔ جہاں تک مسلم لیگ کے نظریہ پاکستان کا تعلق ہے مجلس عاملہ کسی صورت میں بھی اس سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ ہم تقسیم ہند کے نظریہ کا تجزیہ محض اقتصادی اور معاشرتی اصولوں پر نہیں کرتے، پاکستان کے قبول کرنے

کا مطلب ملت اسلامیہ ہندو کو تین مختلف حصوں میں منتشر کرنا ہوگا۔ پنجاب کا  
 (نامکمل صوبہ) سرحد، سندھ اور بلوچستان ہندوستان کے ایک سرے پر اور  
 بالکل دوسرے سرے پر مشرقی بنگال اور آسام کے کچھ اضلاع کو پاکستان بنایا  
 جا رہا ہے۔

ملت اسلامیہ ان دو حصوں میں بٹ کر نہیں رہے گی، بلکہ اس سے ایک  
 قابل قدر حصے پر ہندوستان میں دوامی خلائی سلطہ رہے گی۔ ان دو پاکستانی  
 ریاستوں میں مؤثر غیر مسلم اقلیت موجود رہے گی۔ نیز پاکستان کی یہ دونوں  
 ریاستیں جغرافیائی اعتبار سے ایک دوسرے کی کسی بیرونی جھلے کے تحت  
 امداد نہیں کر سکیں گی، اور ان دو ریاستوں کے درمیان ہندوؤں کو دنیا کی سب  
 سے بڑی سلطنت سوئپ دی جائے گی۔ جس میں مسلم اقلیت کی پوزیشن حدیث  
 غیر مؤثر رہے گی۔

مزید برآں اب مٹر خراج نے نواب زادہ لیاقت علی خاں کے نظریہ کو  
 اپنایا ہے اور سکھوں کی علیحدہ سلطنت بنانے کے حق کو تسلیم کر کے پنجاب  
 میں جہاں سے لے کر رادھی بلکہ چناب تک کا علاقہ مغربی پاکستان سے علیحدہ ہونا  
 درست قرار دے دیا ہے۔ اس روش کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بنگال اور آسام کے  
 صوبوں کی بھی اسی طرح قطع و برید ہوگی، جس سے مغربی پاکستان کی طرح مشرقی  
 پاکستان بھی پہلے سے زیادہ بے وقعت اور اقتصادی لحاظ سے بے حال ہو  
 جائے گا۔

ان ٹھوس حقیقتوں کے بعد کوئی ذمی شعور جماعت جو مسلمانوں کے تحفظ  
 حقوق کا دعویٰ کرتی ہے اس ہلکے نظریہ سے متفق نہیں ہو سکتی۔  
 مجلس عاملہ اس حقیقت کا اعلان کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ یہ تمام خلاف

آئین و اخلاق سرگرمیاں اور معدود حق رائے دہندگی مسلم لیگ کی وقتی کامیابی کی  
 نامن ہوئیں۔ مسلم لیگ کی قیادت مسلمانوں کو ایک نئے منظم قوم اور بے جگام  
 گروہ کی حیثیت دینا چاہتی ہے۔ لہذا یہ اجلاس ایک بار پھر اعلان کرتا ہے، کہ  
 مسلم لیگ کی قیادت قطعی غیر اسلامی ہے۔ اس کا عمل آج تک ملت اسلامیہ کے  
 مفاد کے منافی رہا ہے۔ مرکزی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اسلامی قوانین کی  
 مخالفت اس کا مستقل شعار ہے۔ اس لیے مسلمان سیاسی و مذہبی و تمدنی رہنمائی  
 کی توقع مسلم لیگ کی غیر اسلامی قیادت سے نہیں کر سکتے، اور مسلم لیگ کے کسی  
 فیصلے کو اسلامی ہند کا فیصلہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اپنی اس قرار داد کی تائید میں تقریر کرتے ہوئے امیر شریعت نے کہا:

رفقائے محترم! گذشتہ سال کے وسط میں میں نے دہلی میں پاکستان سے  
 متعلق اپنے خدشات اور دلی اطمینان کے لیے جناح صاحب سے درخواست  
 کی تھی کہ وہ مجھے پاکستان کی تھیوری سمجھائیں۔ اگر ان کا نظریہ درست نکلا اور مجھے  
 ذہنی اطمینان ہوا تو میں انشاء اللہ حصول پاکستان کے لیے انگریز اور ہندو  
 دونوں سے ٹکرا جاؤں گا۔ لیکن مجھے انسوس ہے کہ جناح صاحب نے میری  
 حقیر گذارش کو درخور اہتمام سمجھا۔ آج میں نے ورکنگ کمیٹی کے سامنے اپنے  
 خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔

میں صرف آئینی سمجھوتے میں ہندوستان کی نجات نہیں سمجھتا، اور نہ  
 ہی میرے نزدیک الیکشن کی ہرجیت ملک یا قوم کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے۔  
 میں تو بس ہندوستان میں انگریز سے ایک ایسی لڑائی دیکھنے اور لڑنے کا متمنی ہوں  
 کہ جس میں گھربارتباہ و برباد کر کے پھانسیاں لگنے کا پروگرام ہو، بس یہی پروگرام  
 آزادی ہند کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ جماعت کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا

بلکہ کوئی اور ٹھوس پروگرام سامنے رکھ کر کام کرنا چاہیے۔

پاکستان کے بارے میں گزشتہ سال سے میں نے جس جگہ بھی تقریر کی، پاکستان کو مسلمانان ہندوستان کے لیے مملکت بلکہ ہلاکت آفرین اور ہلاکت خیز بتایا ہے اور دلائل سے یہ باتیں ثابت کی ہیں۔ میری سمجھ میں پاکستان کے حقیقی ہیں کوئی دلیل بھی تو نہیں آئی۔ اس وقت قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میری رائے مان لی جائے، سب کو یہی اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس میرے دلائل کے خلاف کوئی واضح اور ٹھوس دلائل ہوں تو مجھے اپنی تجویز پر اب بھی ضد نہیں ہے۔“

امیر شریعت کی اس تقریر کے بعد درکنگ کمیٹی نے جمعیتہ العلماء ہند کی حسب ذیل سہ ماہیہ والی قرارداد کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ منظور کر لیا۔

”جمعیت العلماء ہند کے نزدیک تمام ہندوستان کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً یہ صورت مفید ہے کہ وہ حسب ذیل نکات پر اتفاق کریں اور اس بنیاد پر حکومتِ برطانیہ کے سامنے متفقہ مطالبہ پیش کریں۔

و۔ ہمارا نصب العین آزادی کا بل ہے۔

ب۔ وطن کی آزادی میں مسلمان آزاد ہوں گے، ان کا مذہب آزاد ہوگا۔ مسلم کلچر، تہذیب و ثقافت آزاد ہوگی۔ وہ کسی ایسے آئین کو قبول نہ کریں گے، جس کی بنیاد ایسی آزادی پر نہ رکھی گئی ہو۔

ج۔ ہم ہندوستان میں کامل آزادی اور خود مختاری کے حامی ہیں، غیر محدود و داخلی اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں گے جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کریں، اور ان کا تعلق تمام صوبوں سے یکساں ہو۔

د: ہمارے نزدیک ہندوستان کے آزاد صوبوں کا اتفاق ضروری اور مفید ہے، مگر ایسا اتفاق اور ایسی مرکزیت جس میں اپنی مخصوص تہذیب و ثقافت کے مالک نوکر ڈر نفوس پر مشتمل مسلمان قوم کسی غالب اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو، ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہ ہوگی۔ یعنی مرکزی شکل ایسے اصولوں پر ہونی ضروری ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی، سیاسی و تہذیبی آزادی کی طرف سے مطمئن ہوں۔

۱: مرکزی ممبروں کی تعداد کا یہ تناسب ہو، ہندو ۲۵ - مسلمان ۱۱۲۵ اور دیگر اقلیتیں - ۱۰ فی صد۔

۲: مرکزی حکومت میں اگر کسی بل یا تجویز کو مسلم ارکان کی ۱/۲ اکثریت اپنے مذہب یا اپنی سیاسی آزادی یا اپنی تہذیب و ثقافت پر مخلصانہ اثر انداز قرار دے تو وہ بل یا تجویز ایوان میں پیش ہو تو پاس نہ ہو سکے گی۔

۳: ایک ایسا سپریم کورٹ قائم کیا جائے جس میں مسلم و غیر مسلم ججوں کی تعداد مساوی ہو، اور جس کے ججوں کا تقرر مسلم و غیر مسلم صوبوں کی مساوی تعداد کے ارکان کی کمیٹی کرے۔

یہ سپریم کورٹ مرکز اور صوبوں کے درمیان تنازعات یا صوبوں کے باہمی تنازعات یا ملک کی قوموں کے اختلافات کا آخری فیصلہ کرے گی۔ نیز تجویز نمبر ۲ کے تحت اگر کسی بل کے مسلمانوں کے خلاف ہونے، نہ ہونے میں مرکزی اکثریت مسلم ارکان کی ۱/۲ اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے کرایا جائے گا۔

۴: محکمہ قضا کا قیام۔

۵: ہندوستانی فوج میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی مساوی نمائندگی ہوگی، تاکہ

کسی قوم کو زیادہ نیابت دوسری قوم کے لیے خوف دہراس کا باعث نہ رہے۔  
 ۶۔ مرکزی طرف سے پسماندہ صوبوں میں تعلیم و صنعت کے مستقل عطیہ جات۔  
 ۷۔ اقلیتوں کے لیے صوبوں میں ویٹنج کا طریقہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔  
 ۸۔ ہندوستان میں مختلف ملتوں کے کچھول، زبان، مذہبی تعلیم، مذہبی تبلیغ، مذہبی عقائد، مذہبی اعمال، عبادت گاہیں، اوقاف آباد ہوں گے، حکومت ان میں مداخلت نہ کرے گی۔

۹۔ دستور اساسی میں اسلامی پرسنل لاہ کی حفاظت کے لیے خاص دفعہ رکھی جائے گی، جس میں تشریح ہوگی، کہ مجالس قانون ساز اور حکومت کی جانب سے ان میں مداخلت نہ کی جائے گی اور پرسنل لاہ کی چیزیں مثلاً احکام نکاح، طلاق، رحبت، عدت، خیار، بلوغ، تفریق زوجین، غلج، منین و مفقود، نفقہ زوجیت، احضانت، دلایت، نکاح و مال و وصیت، وقف وراثت، تکفین و تدفین و قربانی وغیرہ،

۱۰۔ مسلمانوں کے ایسے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے جن میں مسلمان حاکم کا فیصلہ ضروری ہے، مسلم قاضیوں کا تقرر کیا جائے گا۔ اور ان کو اختیار تفویض کیے جائیں گے۔“

مجلس احرار کی یہ تاریخی قرارداد دوسرے نتائج کی حامل تھی۔ وقتی اور فوری اثرات سے بے نیاز ہو کر احرار رہنماؤں نے اپنی دانست میں مسلمانان ہندوستان کے مستقبل کو ایسی قرارداد کے ذریعے محفوظ سمجھا۔

دہلی کا آخری اجلاس | درکنگ کمیٹی کے اجلاس سے فارغ ہو کر حضرت امیر شریعت اپنے رفیق مولانا حبیب الرحمن، شیخ حسام الدین اور اسٹراٹاج الدین انصاری کی معیت میں ۲۴۔ ۲۵ مارچ (۱۹۲۶) کو دہلی روانہ ہو گئے، جہاں

انہوں نے مختلف انجیال رہنماؤں سے بات چیت کی۔

ان دنوں دہلی میں برطانوی مشن مسلم لیگ اور کانگریسی رہنماؤں سے سیاسی مذاکرات میں مصروف تھا۔ ۳۰ مارچ کو جمعیت العلماء نے ہند کے رہنماؤں سے ان کی دعوت پر امیر شریعت کی گفتگو ہوئی، جس میں مجلس احوار کی قرارداد کا بھی ذکر آیا۔ اور آخر میں جمعیت کے ناظم اعلیٰ مولانا حفیظ الرحمن سیوہادی نے مجلس احوار کی قرارداد کو مسلمانان ہند کے لیے پسندیدہ قرار دیا۔ نینڈت جو اہر لال نہرو سے بھی انہی دنوں ملاقات ہوئی۔

۲۶ اپریل (۱۹۴۶ء) کو رات گیارہ بجے اردو پارک (دہلی) میں امیر شریعت نے ایک کثیر اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ آخری اجتماع ہے، اس کے بعد امیر شریعت پھر کبھی دہلی نہیں جا سکے۔ اس اجتماع میں تقریباً پانچ لاکھ انسانوں نے شرکت کی۔ چشم دہلی نے پیشتر ازیں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس اجلاس کی صدارت مولانا حسین احمد مدنی نے کی، اور ایٹج سیکرٹری کے فرائض شیخ حسام الدین نے انجام دیے، جبکہ عوام کو سنبھالنے کا انتظام احوار رضا کاروں کے ذمے تھا۔ اجتماع کے چاروں طرف احوار رضا کاروں کے دستے متعین تھے۔ اجتماع کے چاروں طرف احوار پرچم لالہ لنگل کی سی بہاریں دکھارے تھے۔ ایٹج پر مولانا حبیب الرحمن، ماسٹر تاج الدین انصاری اور جمعیت العلماء کے ہند کے رہنما موجود تھے۔

اچانک ہنسانی سمندر میں ایک لہر اٹھی، ایک ارتعاش پیدا ہوا، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شوق دید تجسس کے لیے سرگرداں ہوا کہ امیر شریعت زندہ باد کے نعروں نے جلسے کے امن و سکون کی ساری طنابیں توڑ دیں۔ حوام اپنے محبوب رہنما کی زیارت کے لیے سراپا نیا زاٹھ کھڑے ہوئے، شاہجہان کی مسجد کے مینار اور لال قلعہ کی دیواریں مجھو دید تھیں۔ آسمان ستاروں کی روشنی میں دنیا کی اندھیر گردی میں روشن چراغوں کو آخری بار ٹٹھانے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔



امیر شریعت ایٹج پر تشریف لانے کہ ایک دوسرا قافلہ آن پہنچا۔ اس میں برطانوی مشن کے سربراہ وزیر ہند لارڈ پیٹک لارنس، مولانا آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو نمایاں تھے، ایٹج اس وقت بین الاقوامی شخصیتوں سے بارونق تھا۔ ٹھیک بارہ بجے حضرت امیر شریعت نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ الفاظ جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے تھے، قرآن حکیم اپنے معانی و مطالب آپ سے آپ واضح کرتا جاتا۔ حضرت امیر شریعت کے گلے کی حلاوت اور طرز بیان سے ایسا محسوس ہوتا جیسے آیات خداوندی کا نزول ہو رہا ہو۔ لاکھوں انسانوں کے اجتماع میں ہو کا عالم۔ اس خاموشی کو کبھی کبھار آسمان پر ستاروں کی انگڑائیاں توڑ رہی تھیں۔

”میں تو صرف بخاری صاحب کا قرآن سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ برطانوی مشن کی آمد کے باعث میں زیادہ مصروف ہوں“

یہ سٹھے پنڈت جواہر لال نہرو کے الفاظ، جو انہوں نے امیر شریعت کے انتقام قرآن پر مہج سے خطاب کرتے ہوئے کہے اور واپس چلے گئے۔ امیر شریعت نے انسانی سمندر کے بھر بیکراں پر ایک نظر ڈالی اور خلاف معمول خطبہ مسنونہ سے پہلے فرمایا۔

”آپ حضرات درود شریف پڑھیں“

پھر فرمایا ”درود شریف پڑھیں“۔ تیسری بار بھی عوام سے یہی مطالبہ کیا، لوگ حیران تھے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آج یہ نئی رسم کیوں؟ اس سوال کے جواب میں خود ہی امیر شریعت نے فرمایا:

”میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اتنے بڑے عظیم اجتماع کی وجوہی کے باوجود صبح یا رات لوگ اخباروں میں کہیں گے کہ رات جمع تو چار یا پانچ

لاکھ کا تھا، اگر اس میں مسلمان کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے درود شریف پڑھوایا ہے تاکہ دوستوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس مجمع میں مسلمان ہیں یا یہ مجمع مسلمانوں کا ہے۔“

اس پر تمام مجمع کشت زعفران بن گیا۔

خطبہ مسنونہ کے بعد تقریر کرتے ہوئے حضرت امیر شریعت نے کہا:

”حضرات! مجھے آج کوئی تقریر نہیں کرنی، بلکہ چند حقائق ہیں جنہیں

بلا تمہید عرض کر دوں گا۔ اس وقت آئینی اور غیر آئینی دنیا میں خواہ اس کا

تعلق ایشیا سے ہو یا یورپ سے، جو بحث چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ

آیا ہندو اکثریت کو مسلم اقلیت سے جدا کر کے برصغیر کو دو حصوں میں

تقسیم کر دیا جائے۔ قطع نظر اس بحث کے کہ مجھے پاکستان بن جانے

کا اسی قدر یقین ہے جتنا کہ اس بات پر کہ صبح سورج مشرق سے

طلوع ہونے والا ہے، لیکن یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہوگا جو اس

وقت کے دہل کر وڑے مسلمانان ہند کے ذہنوں میں موجود ہے، اور جس

کے لیے آپ بڑے خلوص سے کوشاں ہیں، ان مخلص نوجوانوں کو کیا

معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔

بات جھگڑے کی نہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، تحریک

پاکستان کی قیادت کرنے والوں کے قول و فعل میں بنیادی تضاد ہے

اگر آج مجھے کوئی اس بات کا یقین دلا دے کہ کل کو ہندوستان کے

کسی قبیلے کی کسی گلی میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہونے والا ہے تو میں

آج ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں

لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو لوگ اپنی اڑھائی من کی لاش

اور چھٹ تدر پر اسلامی قوانین نافذ نہیں کر سکتے، جن کا اٹھنا، بیٹھنا، جن کا سونا، جاگنا، جن کی وضع قطع، رہن سہن، بول چال، زبان لباس، غرض کوئی چیز اسلام کے مطابق نہ ہو، وہ ایک قطعہ زمین پر اسلامی قوانین کس طرح نافذ کریں گے؟

کلما طوسی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر امیر شریعت نے مشرق اور مغرب پاکستان کے نقشے سمجھاتے ہوئے کہا:

”ادھر مغربی پاکستان ہوگا، ادھر مشرقی پاکستان، درمیان میں چالیس کروڑ ہندو کی حکومت ہوگی، لالوں کی حکومت، الالے دولت والے، لالے ہاتھوں والے، ہندو اپنی عیاری اور مکاری سے پاکستان کو ہمیشہ تنگ کرے گا۔ اسے کمزور بنانے کی ہر کوشش ہوگی۔ آپ کے دریاؤں کے پانی روک دیے جائیں گے، آپ کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ کی حالت یہ ہوگی کہ بوقت ضرورت مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کی اور مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان کی مدد کرنے سے قاصر ہوں گے۔ پاکستان پر چند خاندانوں کی حکومت ہوگی اور یہ خاندان، زمیندار، صنعت کاروں کے خاندان ہوں گے۔ جو اپنی من مانی کارروائیوں سے عوام اناس کو پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ غریب کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ امیروں بدن امیر تر ہو جائیں گے اور غریب، غریب تر“

رات کافی بھیگ چکی تھی۔ حضرت امیر شریعت اپنی سیاسی بصیرت اور سوچ بوجھ کے موتی بکھیر رہے تھے۔ مستقبل سے نا آشنا مسلمان منہ کھولے انجانے واقعات پیرت سے سن رہا تھا۔ اسی طرح ہندو سے خطاب کرتے ہوئے امیر شریعت نے کہا:

”پاکستان کی بنیاد ہندو کی مسلمان دشمنی پر استوار ہوئی ہے، دولت

سے پیار کرنے والے ہندو نے، گائے کی پوجا کی، پیپل ماراج پر پھول  
 پڑھائے، چیونٹیوں کے بلوں پر چاول ڈالے، سانپ کو اپنا دیوتا مانا۔  
 لیکن مسلمان سے ہمیشہ نفرت کی۔ اس کے سائے تک سے اپنا دامن  
 بچائے رکھا، پھر ایک ایسا دقت بھی آیا کہ بڑے سے بڑے ہندو نے  
 اچھوتوں پر اپنے مذروں کے دروازے کھول دیے۔ لیکن مسلمان سے  
 اس قدر نفرت کی کہ اس کے لیے دل کے دروازے کبھی باز کیے۔  
 آج اسی نفرت کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اپنا انگ و ظن مانگنے پر مجبور ہوا ہے۔  
 کانگریس یہ سب کچھ دیکھ کر بھی مصلحتاً خاموش رہی۔ اگر کانگریسی راہنما،  
 ہندو و مساجد، آریہ دل اور اسی قسم کی تحریکوں کو اپنے اثر سے ختم کر دیتے  
 تو مسلم لیگ کے پینے کی یہاں کوئی گنجائش نہ ہوتی، مگر میں کیا کروں یہ  
 کوڑھ کانگریس کے اندر سے پھوٹا ہے۔ جو بیماری جسم کے اندر سے پیدا  
 ہو، اس کا علاج باہر کے اثرات کیسے کر سکتے ہیں۔ کانگریس نے ہمارے  
 ساتھ بھی نباہ نہ کیا۔ اگر مسلم لیگ سے بگاڑی مٹی، تو نیشنلسٹ مسلمان  
 کی بات ہی مان لی ہوتی۔ آج اس قدر قربانیوں کے باوجود فرنگی کو اپنا  
 ثالث مان رہے ہو۔ اسے کاش! ہم سے نہیں تو مسلم لیگ ہی سے  
 بناچی ہوتی، تاکہ آپس میں بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کر لیا جاتا۔ لیکن اس قدر  
 قربانیوں کے باوجود آج فرنگی کو اپنا ثالث مان رہے ہو!

انہی میں امیر شریعت نے نوردار آواز میں کہا:-

”مسلم لیگ اور کانگریس دونوں میری بات سنو اسے

اجباب جمع ہیں میرے دردِ دل کہ لے

پھر التفاتِ دلِ دوستان رہے نہ رہے

یاد رکھو! اگر تم باہم ملی بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کر لیتے تو الگ الگ رہ کر بھی شیر و شکر رہتے، مگر تم نے فرنگی سے اپنا انصاف مانگا ہے، وہ تم دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا فساد ضرور پیدا کر جائے گا کہ تم دونوں قیامت تک چین سے نہیں بیٹھ سکو گے۔ آج تلواروں اور لاطھیوں سے رٹتے ہو تو آنے والے کل کو توپ اور بندوق سے رٹو گے۔ تمہاری اس نادانی سے انسانیت کو جو نقصان ہوگا، عورت کی جو توہین ہوگی اور شرافت جس بری طرح برصغیر میں زخمی ہوگی، اس کے لیے تم دونوں مجرم ٹھہرو گے **وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔** ۷

اب تو جاتے ہیں میکد سے سے میر

پھر ملیں گے اگر خدا لایا!

امیر شریعت کی یہ تقریر تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے جاری رہی، تا آنکہ شاہی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی اور صبح کی نماز اسی جگہ ادا کی گئی۔

امیر شریعت کشتی میں | امیر شریعت ہندوستان کے تمام سیاسی رہنماؤں سے برصغیر کے حالات پر گفتگو میں مہی کے آخر تک مصروف رہے یہ حالات

ان دنوں عاجلانہ طور پر آگے بڑھ رہے تھے، ہر صبح کا سورج نئے واقعات ڈھال رہا تھا مجلس احرار کے رہنماؤں کی نگاہیں کانگرس، مسلم لیگ اور برطانوی مشن کی ایک ایک حرکت کو احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ آخر مہی بہتر سمجھا کہ مسلم حقوق کے معاملات میں کانگرس کے مقابل مسلم لیگ کو ذمہ داری سونپ دی جائے، اس فیصلہ کے بعد احرار رہنماؤں نے ہر گوشہ تنہائی میں خاموش جا بیٹھے۔

انہی دنوں امیر شریعت اپنے حرم محترم سمیت کنبرا چلے گئے اور سری نگر سے چند میل دور سوپور نامی گاؤں میں خواجہ غلام محمد پٹ کے ذاتی حمان ہوئے۔ امیر شریعت

کی قیام گاہ لب بٹرک ایک اوسط درجے کے دو منزلہ مکان پر تھی۔

ہندوستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حالات بھی انقلاب کی ہنگامہ آرائیوں سے  
نبرد آزما تھے۔ سری نگر کے درمیان بہتا ہوا دریا جسے جہلم کا پانی کشمیری حریت پسندوں  
کے خون سے نہ جانے کتنی بار اپنی رنگت تبدیل کر چکا تھا۔ ڈوگرہ شاہی سے نجات کے  
لیے کشمیری غلام اپنی آخری پونجی داؤ پر لگا چکا تھا۔ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاسی ضرورتیں  
یہاں بھی اپنا جادو چلا رہی تھیں۔ لیکن امیر شریعت سوپور میں رہ کر بھی واقعات و حالات  
سے اس قدر اجنبان رہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ امیر شریعت کشمیر میں ہیں۔  
اس گمنامی کے باعث صبح سے شام اور رات سے سویرا ہونے تک ذکر الہی میں مصروف  
رہتے، الیتر دن کے کسی حصے میں میٹربان کی دکان پر بیٹھتے اور اخبارات پر ایک نظر  
ڈالتے، حالات سنتے اور پھر اپنی رہائش گاہ پر چلے جاتے۔ ان دنوں مولانا ابوالکلام  
آزاد بھی گلگ (دکشمیر) میں قیام پذیر تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ امیر شریعت سری نگر میں  
موجود ہیں تو اس نمنا کے ساتھ رقم کے توسط سے ملاقات کی خواہش کی۔

”شاہ جی سے کتنا زندگی اور موت کے مابین اب کوئی فاصلہ نہیں ہے۔“

حالات نے دونوں کو جس ڈگر پر ڈال دیا ہے، جانے اس سفر میں کس

کی جیت ہو، اس لیے بہتر ہے کہ وقت نکال کر مل جائیں۔

گلگ سے واپسی پر راقم نے امیر شریعت کو جب یہ پیغام دیا۔ تو بے اختیار

رونے لگ پڑے اور اس قدر رونے کہ داڑھی آنسوؤں سے مہیگ گئی۔

خیالات کی ہم آہنگی بھی کیا چیز ہے، برسوں کی رفاقت کے بعد ایک

منزل کے دو لہری وقت کے عاجلانہ فیصلے کے ہاتھوں جب بے بس ہوئے

اور اپنے اردوں میں شکست نظر آنے لگی تو اپنی تمناؤں کی ساری عمارت اپنے

آنسوؤں کی نذر کر دی۔

عجوبی حکومت میں احرار کو شمولیت کی دعوت | ہندوستان کے سیاسی حالات  
 بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو  
 رہے تھے۔ برطانوی حکومت فیصلہ کر چکی تھی کہ ہندوستانیوں کو ان کے حقوق جلد سے جلد منتقل  
 کر دیے جائیں۔

کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین عجوبی حکومت میں مساوی نمائندگی کی بحث چل رہی  
 تھی، کانگریس اپنے نمائندوں میں ایک مسلمان کو شامل کرنا چاہتی تھی لیکن مسلم لیگ  
 غیر مسلم لیگی مسلمان کو نمائندہ ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس بحث نے جب طول کھینچا تو  
 بالآخر دائرے ہند لارڈ ڈیول نے ۱۶۔ جون ۱۹۴۶ء کو بہر حال عجوبی حکومت بنانے کا  
 اعلان کر دیا۔

فریقین میں بحث جاری تھی کہ اس دوران کانگریس نے مجلس احرار کو بھی دعوت دی  
 کہ وہ عجوبی حکومت میں شامل ہو جائے۔  
 غالباً کانگریس کا مشاققاہ کہ اگر مسلم لیگ کسی طرح بھی عجوبی حکومت میں شامل ہونے  
 کے لیے راضی نہ ہو تو مجلس احرار کو شامل کر لیا جائے۔ احرار رہنماؤں نے امیر شریعت کے  
 مشورے سے جو ان دنوں کشمیر میں تھے کانگریس کی اس پیش کش کا جواب حسب ذیل  
 الفاظ میں دیا:۔

”ملک کی موجودہ حالت کے پیش نظر مجلس احرار یہ ضروری سمجھتی ہے  
 کہ کانگریس، مسلم لیگ سے باوجود وسیع اختلافات کے کوئی ایسا عارضی  
 سمجوتہ کر لے جس پر مسلم لیگ کے نمائندے عارضی حکومت میں شامل ہو کر  
 کام کر سکیں تاکہ متحدہ ہندوستان کی جدوجہد کسی نہ کسی مرحلہ پر کامیاب ہو جائے۔  
 اگر مسلم لیگ عارضی حکومت میں شامل ہونے کے لیے کسی طرح بھی  
 رضامند نہ ہو تو مجلس احرار اس شرط پر عارضی حکومت میں اپنا نمائندہ بطور ذریعہ

بھیجنے کو تیار ہے کہ مجلس احرار کا نمائندہ مجلس احرار کی ہدایت کے مطابق کام کرے گا۔

۳، مجلس احرار کا نمائندہ اس کا پابند نہ ہوگا کہ وہ سیاسی سمجھوتے یا عدم سمجھوتے کی بنا پر صرف کانگریس ہی کا ساتھ دے۔“

مولانا ابوالکلام آزاد نے مجلس احرار کی اس شرط کو جو کانگریس ہائی کمانڈ کی دعوت کے جواب میں تھی، کانگریس ڈرنگنگ کمیٹی میں پیش کیا۔ سردار ٹیل نے اس مشروط پیشکش کی سخت مخالفت کی، بنا بریں مجلس احرار نے بلا شرط عارضی حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔

مسلم لیگی حلقوں میں خاص کر نواب زادہ لیاقت علی خاں تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے احمد شاہ بخاری کے ذریعے شیخ حسام الدین کو جو ان دنوں مجلس احرار کے صدر تھے، مبارک باد کا تار بھیجا کہ ”مجلس احرار نے ملک کے سیاسی سمجھوتے کے بارے میں ایک صحیح قدم اٹھایا ہے۔“

کشمیر سے واپسی | قریباً تین ماہ کے بعد جب امیر شریعت کشمیر سے واپس آئے تو برطانوی وفد حالات سے مات کھا کر واپس جا چکا تھا، لیکن ملک کے سیاستدان اپنی اپنی بساط پر نئے مہرے چن رہے تھے۔ کانگریس اور مسلم لیگ اقتدار کی کشمکش میں مصروف تھیں۔

غیر ملکی حکومت کا بھتا ہوا پرتاع دور محفل بنا ہوا تھا کہ ۲۔ نومبر ۱۹۴۶ء کو میرٹھ میں کانگریس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر سردار دلہ بھائی ٹیل نے اپنی تقریر کے دوران کہا: ”آج ۱۹۴۲ء کے حالات نہیں ہیں، کانگریس پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ زیادہ توانائی اور آسانی سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ موجود فرقہ وارانہ رطانی اگر ختم نہ ہوئی، تو ان لوگوں کو جن پر حملے کا خدشہ ہے میں



کوں گا کہ تلوار سے اپنی حفاظت کریں۔ ہندوستانیوں کو چاہیے کہ وہ غنڈوں سے اپنی حفاظت کریں۔ پولیس اور فوج پر انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ تلوار کا جواب تلوار ہے۔ میں لوگوں پر زیادہ زور دیتا ہوں کہ وہ حفاظت خود اختیار کر کے یہ طاقت کا استعمال کریں۔

میں عوام کو یہ مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مرکز میں اس وقت کوئی گورنمنٹ نہیں، انتقالِ اختیارات کے اس مرحلے میں حکومت مفلوج ہو چکی ہے۔

سر داہٹیل کی یہ تقریر کانگریس کی آئندہ پالیسی کی آئینہ دار تھی۔ اخبارات کے ذریعے جب یہ تقریر ایمر شریعت تک پہنچی تو ان کے ذہن میں ہندو اراکوں کا سارا نقشہ کھینچ گیا، وہ پارٹی سے مشورہ کے بعد متحدہ پنجاب کے اصلاح میں ودرے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔

پنجاب میں ان دنوں مندوں میں جن سنگھ اور کالی پارٹی ایک ساتھ ساہن جوب کے طریقہ استعمال کی مشق کر رہی تھیں۔ ہندو اسکھ ڈیڈ پیٹے اور اکھاٹوں میں ورزش کرتے ہندو محلوں کے سامنے آہنی دروازے لگا دیے گئے۔ اس طرح اندرون خانہ مسلمانوں سے مقابلے کی پوری تیاری ہو رہی تھی۔ ریوالوں اور دستوں سے قریباً تمام ہندو محلوں کو مسلح کر دیا گیا تھا، لیکن جذباتی مسلمان جسے مسلم لیگ نے صرف لغووں سے لیس کیا تھا، آنے والے خطرناک ہندو مضموبوں سے نا آشنا تھا۔ مسلمان ہمیشہ جذبات کی رو میں سانس لی اور محض تدبیر کے سہارے تقدیر بنانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ قوموں کی تقدیر۔ تدبیر سے نہیں شمیر سے بنتی ہے۔ ایمر شریعت نے اس پر آشوب دور کو اپنی بالغ نظری سے جھانپ کر انبار سے راولپنڈی تک کے مسلمان نوجوانوں سے کہا:

”عزیز من! وقت آ گیا ہے کہ اپنے تمام مذہبی اور سیاسی اختلاف کو

بھلا کہ صرف اپنی آبرو سچالے کی تدبیریں سوچیں۔ ہمسایہ قومیں تمہارے  
مٹانے کی فکر کر رہی ہیں۔ سکھوں کے گوردوارے، ہندوؤں کے مندر  
جنگی قلعے بن گئے ہیں۔ سامانِ حرب سے لیس ہمسایہ قومیں تمہارے  
خون کی پیاسی ہیں۔

میں نے گذشتہ تیس سال سے تمہیں ایک طرف انگریز کے خلاف  
آگسایا، تو دوسری طرف اپنے بازو پر بھروسہ کرنے کا سبق بھی دیا۔ عزیز من!  
تمہیں یاد ہو گا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے اندر زندہ رہنے کی صلاحیتیں  
پیدا کرو! قومیں جب قصاص لینے پر آتی ہیں تو لحاظ نہیں کرتیں، مگر تم نے  
میری ایک نہیں سنی۔ آخر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔

سب تو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا

کئے جاؤ مے خوار و کام اپنا اپنا

یاد رکھنا اگر اب بھی تم نے فیصلہ کرنے میں ڈھیل کی تو دریا نئے نیاس  
اور ستلج پانی کی بجائے تمہارے خون سے بہیں گے۔ جو کچھ میری لگا ہے  
دیکھ رہی ہیں، دشمن جو منصوبے باندھ چکا ہے۔ خدا نہ کرے، اگر ایسا ہوا تو  
پھر مسلمانو! تمہاری عزت و آبرو کا خدا حافظ۔ وقت تمہیں مہلت نہیں دے  
گا۔ اٹھو! حالات سے مقابلے کے لیے کفن بردوش ہو جاؤ۔ اپنے گھروں  
میں جس قدر سامانِ حرب جیسا کیسا ہو جمع کرو، اور اپنی حفاظت کے لیے  
کمر بستہ ہو جاؤ۔ یہ میری آخری گزارش ہے، پھر خدا جانے میں زندہ رہوں  
یا تم میں سے کوئی حالات کی نذر ہو جائے۔ یہ دقت زیادہ لمبی پوڑی تقریروں  
کا نہیں کہ میں تمہیں صبح تک بٹھانے رکھوں، لیکن نہیں۔ جاؤ! اپنے  
اپنے گھروں میں جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تیاری کرو۔“

اس قسم کی تقریریں امیر شریعت نے پنجابی اور اردو زبان میں پنجاب کے شہروں  
 قصبوں اور دیہاتی آبادیوں کے عام اجتماعوں میں کیں۔ اس کے ساتھ وہ محلوں میں  
 خفیہ اجلاس بلا کر مسلمان نوجوانوں کو حالات و واقعات سے آگاہ کرتے۔ نیز محترم حضرات  
 کو اکٹھے کہ وہ صوبہ سرحد سے اسلحہ منگوا کر منگوا کر نوجوانوں میں تقسیم کریں اور استعمال کی  
 تربیت بھی سیکھیں، فوجی پنشنروں کی خدمات حاصل کریں تاکہ اسلحہ کے استعمال کی  
 تربیت دے سکیں۔ جالندھر اور امرتسر جیسے مرکزی شہروں میں اسلحہ کی درآمد دسمبر ۱۹۴۶ء  
 کے آخر تک جاری رہی۔ مجلس احرار کے ذمہ دار کارکن اور باعبار مسلم لیگی اس کام  
 میں امیر شریعت کے معاون تھے۔

۱۹۴۷ء میں سلطان محمد علی دالئی میسور نے آزادی وطن کے لیے غیر ملکی  
 حکمرانوں کے خلاف جو جہاد شروع کیا تھا، ۱۹۴۷ء کا سال اس مہم کا  
 آخری سال تھا۔ ایک سو اسی برس کی طویل جدوجہد کے دوران مجتہدین وطن کو غیر ملکی  
 سامراج سے نبرد آزما ہونے میں جن سنگلاخ وادیوں سے گزرنا پڑا، تاریخ کا ایک ایک  
 ورق اس نونچکاں داستان کو مستقبل کی امانت سمجھ کر سمیٹ چکا ہے۔ برطانوی کینٹ  
 کمیشن آج جن جیلے بانوں سے پاک و ہند کے راہنماؤں کو اپنی بساط پر لیے بیٹھا ہے،  
 یہ اس بچتے ہوئے چراغ کی آخری ٹوہ ہے، جس نے ایک سو اسی سال برصغیر پاک و ہند  
 میں روشن رہ کر دلوں میں ایسی اندھیر گودی چھادی کہ اس ملک کا تمدن ہی اپنا رہا اور  
 نہ اخلاق!

پاک و ہند کی نئی دیواریں تعمیر ہونے کا یقین پختہ ہو چکا تھا۔ ہندوستان کی تمام  
 قومیں اپنے اپنے حقوق کی نگہداشت میں چوکس نظر آرہی تھیں۔ سکھوں کے لیڈر  
 گیانی کرتار سنگھ نے اس افراتفری میں ۱۲۔ جنوری ۱۹۴۷ء کو ایک پریس بیان میں  
 اعلان کیا:-

”وزارتی مشن کی سیکم کے مطابق جلد ہی گروپ اسمبلیاں قائم ہو رہی ہیں ان اسمبلیوں میں مسلم لیگ کی اکثریت ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے گروپ بنا کر پاکستان کا اصول تسلیم کر لیا گیا ہے، ان حالات میں ہندو اور سکھوں کا مفاد اسی بات میں ہے کہ وہ اپنے لیے ایک الگ صوبے کا مطالبہ کریں۔“

پاک دہند کے دوسرے سیاسی حلقوں کے علاوہ احرار حلقوں میں یہ بیان بڑی معنی خیز نظروں سے اڑھا گیا۔ سکھوں کے اس بیان سے تقسیم و تقسیم کا شبہ ہونے لگا۔ چنانچہ احرار نے ورکنگ کمیٹی کا فوری اجلاس طلب کیا۔ جس نے ۲۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو لاہور میں جنرل کونسل کا اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان کے حالات روز بروز بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ یہ خبریں لندن پہنچیں تو ایوان برطانیہ سے ۲۰ فروری ۱۹۴۷ء کو ایک اعلان شائع ہوا۔

”عبوری کا بیٹہ میں کوئی سافر ترقی رہے اور کوئی سا نہ رہے۔ اس سے متعلق ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم خود (برطانیہ) جون ۱۹۴۸ء تک یعنی زیادہ سے زیادہ اٹھارہ ماہ کے اندر ہندوستان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے ہم چاہتے ہیں کہ میاں سے رخصت ہوتے وقت حکومت کسی ایسی ادارے کے سپرد کر سکیں، جو کا بیٹہ مشن پلان کے مطابق باہمی سمجھوتے سے قائم ہو۔“

برطانیہ کے اس اعلان نے حالات کو مزید پریشان کرنے میں کافی مدد دی۔ ان دنوں ہندوستان بے یار و مددگار تھا۔ نہ تو اس کا کوئی وارث اور نہ ہی اس پر کسی کا راج تھا۔ ۲-۶ مارچ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ سر خضر حیات ٹوانہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ۴-۶ مارچ کو ماسٹر مار اسنگھ نے پنجاب اسمبلی ہال سے باہر کرپان کو بے نیام

فضا میں لہراتے ہوئے اعلان کیا۔

”جو مانگے گا پاکستان! اس کو دیں گے قبرستان“

تارا سنگھ کے ان الفاظ کی تائید ہندو رہنماؤں نے کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی شام امرتسر میں سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان خونریز فساد کی ابتدا ہوئی۔ حضرت امیر شریعت اس وقت امرتسر میں موجود تھے۔ حالات کا رخ دیکھ کر محلے کے تمام نوجوانوں کو اپنے گھر میں جمع کیا اور انہیں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے تیار رہنے کی تلقین کی اور خود ان کے ساتھ تمام رات تلوار سے مسلح پہرہ دیتے رہے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور رات بھر محلے داروں کی محبت میں گلوالی گیت سے باہر جس کے قریب ہی سکھوں کا مرکز تھا، پہرہ دار رہے۔ آخر ۶ مارچ کو امرتسر میں کرنیو لگا دیا گیا۔

سکھوں کے ۱۳ جنوری والے اعلان کے بعد مجلس احرار

**تقسیم پنجاب کی مخالفت**

اپنے اجلاس میں تقسیم پنجاب کی شدت سے مخالفت کر چکی تھی کہ ۱۹ مارچ کو لاہور بریلے ہال میں پنجاب سوشلسٹ پارٹی اور مجلس احرار کا مشترک اجلاس ہوا جس میں حضرت امیر شریعت نے تقسیم پنجاب کی مخالفت میں دو گھنٹے تک اپنے دلائل دیے اور اپنے خدشات کا ازسرنو اظہار کیا، اور مسلم لیگ پر زور دیا کہ وہ پنجاب کی تقسیم کو کسی صورت میں بھی منظور نہ کرے ورنہ مشرقی پنجاب کا مسلمان تباہ ہو جائے گا۔

آنروہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ پنجاب کے فسادات کی آڑ لے کر کانگریس نے اعلان کیا۔

”پنجاب اور بنگال کی تقسیم ناگزیر ہے“

ہندو مہاسبھا اس کے لیے پہلے سے تیار تھی، گو گاندھی جی نے اس اعلان کی مخالفت کی، لیکن واقعات اس قدر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ نہ حکومت بری تھی اور نہ لیڈر دونوں بیکار ہو چکے تھے۔ ایسی افراتفری کے دور میں ۲۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو لاہور میں مجلس احرار کی جنرل کونسل نے ایک ہزار سے زائد نمائندوں کی موجودگی میں

سہ روزہ بحث کے بعد حسب ذیل تاریخی قرارداد منظور کی :-

» پنجاب کے حالیہ فسادات میں وحشت و بربریت، لوٹ مار، آتش زدگی، قتل و خونریزی وغیرہ جرائم کا سیلاب جس بے پناہ تیزی کے ساتھ برونے کا ر آیا اور جس باقاعدگی سے اس خانہ جنگی کو ہوا دینے کے لیے صوبہ کے مقتدر اور ذمہ دار غیر مسلم افراد اور جماعتوں نے اس میں حصہ لیا، اس کی روشنی میں مجلس احرار اسلام ہند کی یہ پختہ رائے ہے، کہ یہ انسانیت سوز تصادم برطانوی استعمار کے حالیہ اعلان کا بدیہی نتیجہ ہے، جس میں قطعی طور پر ہندوستان کی زمام اقتدار کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جس کے باعث صوبے کی غیر مسلم اقلیتوں نے انتقال اختیارات سے پیشتر ہی جبر و تزویر سے ایسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے سم کر صوبے کی اکثریت اپنے جائز اور آئینی حق کے استحصال سے قاصر اور مجبور ہو کر رہ جائے، اور صوبے کا اقتدار آسانی کے ساتھ غیر مسلم نطانی قوتوں کے قبضہ و تصرف میں منتقل ہو سکے اچانچہ خضر وزارت کے مستعفی ہونے کے فوراً بعد ڈاکٹر گوپی چند مہارگو، سردار پرتاب سنگھ کیروا ممبر کانگرس و رنگ کیدی، پودھری کرشن گوپال دت، پودھری لہری سنگھ، ایڈیٹر سدشن اور مسٹریشیاں خازن پنجاب کانگرس کمیٹی جیسے کانگریسی رہنماؤں نے قومیت متحدہ کے بلند بانگ دعوئی کو پس پشت ڈال کر، مسٹر تارا سنگھ اور گپنی کرتا سنگھ جیسے اکالی رہنماؤں سے گٹھ جوڑ کیا، اور رنگ لنگوٹ کس کر یہ اعلان کرتے ہوئے نہ شرائے، کہ ہم قومیت پر صوبہ میں مسلم اکثریت کو اس کے جائز حق سے محروم رکھیں گے خواہ اس سے دہلے کے امن اور انسانی جانوں کو کتنا ہی نقصان کموں نہ پہنچے

واضح رہے کہ یہ صورتِ حال اضطراری نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ  
 سکیموں اور سازشوں کا بدیہی ردِ عمل ہے جن کا علم ملک کو پہلے پہل  
 اس وقت ہوا تھا، جب ماسٹر تارا سنگھ نے گورنمنٹ ہند اور برطانوی  
 حکومت کو تسلی دینے کے لیے روزنامہ "اجیت" کے "کلٹی دھر نبر" میں  
 مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۴۵ء کو ایک توضیحی مضمون اپنے نام سے چھپوایا  
 تھا۔ اس سے ایک طرف تو اسٹر صاحب کا مقصد یہ تھا کہ ان کی پارٹی  
 کے متعلق انگریز دشمنی کے الزامات کی تردید ہو جائے، اور ساتھ ہی ہندو  
 فسطائیت کو یہ یقین دلایا جائے کہ اکالی سوراؤں نے ہمارا جہ پٹیا لہ کی  
 امداد سے سکھوں کو بندوقوں وغیرہ سے مسلح کر لیا ہے، تاکہ انگریز کے  
 ملک چھوڑنے پر پنجاب سے مسلمانوں کو بھی زبردستی بے دخل کر دیا  
 جائے۔ دوسری طرف ہندو فسطائیت کے عزائم کا ذمہ دار اعلان  
 اس وقت ہوا جب میرٹھ کانگریس کے مشترک پلیٹ فارم سے ہمارا  
 گڑھ مکتیشر اکلکتہ اور تو اکلھی کے انسانیت سوز فسادات کے سلسلے میں  
 ایک طرف تو راشٹریہ سیوک سنگھ کی بہیمانہ کارروائیوں پر پردہ ڈالنے  
 کے لیے صدر کانگریس نے حائید کردہ الزامات کو مذاق میں اڑا دیا اور  
 دوسری طرف کانگریس کے نفسِ ناطقہ سردار پٹیل نے فسطائی گرج میں  
 اعلان کیا کہ مخالفین کو تلوار کا جواب تلوار سے دیا جائے گا، جس کے بعد  
 ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اکالی سیناؤں  
 اور راشٹریہ سیوا دل کی تنظیم کا کام باقاعدگی کے ساتھ شروع کر دیا گیا۔  
 مجلسِ عاملہ کی رائے میں پنجاب کے حالیہ فسادات بھی اسی غیر مسلم  
 فسطائی سازش کا قدرتی نتیجہ ہیں، جس کا مقصد محض غیر مسلم اقتدار کو ہر حال

ملک پر مسلط و قابض کرنا ہے، خواہ اس کے حصول کے لیے جنگ کے ہولناک سیلاب ہی سے گزرنا پڑے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال کو کوئی بھی ذمہ دار جماعت جسے ملک میں آبر و مندانہ اور منصفانہ زندگی بسر کرنی ہو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔

مجلس احرار ہمیشہ سے ملت کی سر باندی اور آزادی دطن کی حامی رہی ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی اور آبر و مندانہ اشتراک و تعاون کی داعی چلی آئی ہے۔ اب جبکہ حکومت کے انتقال اقتدار کے اعلان سے غیر مسلم فسطائی قوتیں کانگرس کی مشترک دطنی ریاست دپالیسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انداز اور باہر حصول اقتدار کے لیے عزیمتیں طریقے پر برسر کار نظر آتی ہیں۔ مجلس عاملہ تمام مسلم جماعتوں کو توجہ دلاتی ہے کہ وہ اس نہایت نازک مرحلے پر سیاسی اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے مشترک دشمن کی جارحانہ سرگرمیوں کے مقابلے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوں، تاکہ ملت مسلمہ کے ننگ و ناموس اور مستقبل کی حفاظت کی جا سکے۔

مجلس عاملہ کو اگرچہ پنجاب کے حالیہ فسادات میں انسانی مال و جان کے اتلاف کا دلی رنج ہے، جس کی تلافی عرصہ تک نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی مجلس عاملہ ان مسلم و غیر مسلم افراد کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے جنہوں نے سفاکی اور بربریت کے اس دور میں جب انسان انسانیت کے دائرے کو تار تار کر چکا تھا سچے ہمسائیگی اور انسانی اخلاق کو سربلند رکھا اور عورتوں، بچوں اور ان کے متعلقین کو پناہیں دیں۔

مجلس احرار اسلام کی مجلس عاملہ جملہ رضا کاران اور کارکنان



ہمدردانِ احرار کو بھی مبارک باد دیتی ہے کہ انہوں نے ہر جگہ امن کی بجالی اور مظلومین کی خدمت کے فرائض تاجحد امکان پر قسم کے خطرات اور حوصلہ شکن واقعات کے باوجود جو انہوں نے کے ساتھ ادا کیے اور مجلس توفیق رکھتی ہے کہ وہ اس نیک کام کو زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی واضح کر دینا چاہتی ہے کہ ملتِ اسلامیہ ابھی تک خطرے سے محفوظ نہیں ہوئی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو جوشِ احرارِ اسلام کی تنظیم میں بیش از بیش سرگرمی کا اظہار کیا جائے اور اپنی اپنی جگہ دیگر اسلامی جماعتوں سے اشتراک و تعاون سے اس نیک مقصد کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ واضح رہے کہ ابتداءً آزمائش کے اس نازک ترین دور میں ملتِ اسلامیہ کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے، جس کی بجا آوری کے لیے سیاسی اختلافات بہ نفع سدراہ نہیں بننے چاہئیں۔

عطا اللہ شاہ شہید کر دیے گئے | ایک طرف برطانیہ ہندوستان کو آئین کے ذریعے اس کے حقوق منتقل کر رہا تھا، تو

دوسری طرف غیر آئینی سرگرمیاں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ انسان انسانیت سے ماوراء ہو کر ایسی حرکتوں پر اترا آیا کہ خونِ انسانی کی ارزانی سے انسانیت کا دامن ہمیشہ کے لیے داغدار ہو کر رہ گیا۔ اس جنگی دور میں دائرہ لارڈ دیول کی ناکامی کے بعد ۲۲-۶ مارچ ۱۹۲۷ء کو لارڈ مونٹ بیٹن نے بطور دائرہ لارڈ دیول اپنے عہدے کا چارج لیا اور ساتھ ہی واقعاتِ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔

امیر شریعت ان دنوں اپنے بال بچوں سمیت لاہور میں قیام پذیر تھے۔ مشرقی پنجاب سے اجڑ کر آنے والے لوگوں کی خون آشام داستانیں سن کر اس قدر پتھر دل

ہر گئے تھے کہ تمام دن دفتر میں خاموش بیٹھے رہتے، نہ کسی سے بات کرتے، نہ کوئی مشورہ ہی دیتے۔

جو آدمی اپنے دہود میں خود ایک انجن تھا، جس کی مسکراہٹوں سے بہاروں کا جو بن کھرتا رہا، جس کے ایک بول پر سینکڑوں خاموشیاں رقص کنناں تھیں، انسان کے بگڑے ہوئے چلن نے آج اسے پتھر کی تصویر بنا دیا تھا۔

اپریل اور مئی کے مہینے اسی پر آشوب طریق سے گزرے کہ ۳ جون ۱۹۴۷ء کو متحدہ ہندوستان میں برطانیہ کے آخری نمائندے لارڈ مونت بیٹن نے مسلم لیگی اور کانگریسی رہنماؤں کے مشورے پر حکومت برطانیہ کا وہ تاریخی اعلان کیا جس کی رو سے برصغیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ساتھ ہی پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر بھی اپنی مہر ثبت کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکھوں اور ہندوؤں نے وہاں کی اقلیتی آبادی کا قتل عام شروع کر دیا۔ انہی دنوں ۱۴۔ اگست کو امرتسر کے اہل حدیث رہنما مولوی شہناز اللہ کے رط کے مولوی عطار اللہ کو ہندوؤں نے اپنے حملہ میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ لیکن اخبارات میں یہ خبر بھیچی، کہ سید عطار اللہ شاہ بخاری کو امرتسر میں شہید کر دیا گیا۔ اس خبر نے پنجاب اور سارے ہندوستان کو پریشان کر دیا۔ چنانچہ چیٹوٹ کے ملک اللہ دتہ بلوچ نے اس خبر کی تصدیق کے لیے اپنے ایک عزیز کو لاہور بھیجا۔ جیسے ہی اس نے شاہ جی کو دفتر میں سلامت پایا وہ بانج بانج ہو گیا، اور اس نے دوستوں کی تسلی کے لیے امیر شریعت کے ہاتھ کی تحریر چاہی۔ آخر امیر شریعت نے بڑے اصرار کے بعد ۲۰ اگست کو ملک اللہ دتہ کے نام حسب ذیل خط تحریر کیا۔

لاہور۔ ۲۰۔ اگست ۱۹۴۷ء

عزیزان من نذر محمد ملک اللہ دتہ!

السلام علیکم۔ میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں سمیت خیریت سے

ہوں۔ مارچ کے مہینے سے لاہور میں ہوں۔ اب خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ میں نواب نعر اللہ خاں کے یہاں چلا جاؤں گا۔ اڑدہ کر لیا ہے۔  
 امرتسر بالکل تباہ ہو چکا ہے، اور آئندہ مسلمانوں کے دہاں آباد ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس وقت ایک لاکھ کے قریب مسلمان لاہور پہنچ چکا ہے، اور اب فیروز پور، ہیشیا پور وغیرہ کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ مشرقی پنجاب کا مسلمان اس وقت تباہ ہو چکا ہے، باقی ہورہا ہے۔

سکھ قوم کی خباثت کو انگریز کی اور ہندو کی تائید حاصل ہے، اور وہ تباہی چھا رہی ہے، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ باقی رہے۔  
 میرا ایک مکان خاک میں مل چکا ہے، دوسرا جس میں میں رہتا تھا، ابھی تک تو موجود ہے۔ میری زندگی کی ساری کمائی یعنی میری ساری کتابیں اور سامان زندگی دہنچ ہے۔ اللہ کے حوالے ہے، ابھی تک کوئی صورت سامان برآمد کرنے کی نظر نہیں آتی۔ پہلے بھی فقیر ہی تھا، لیکن اب سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے، دعائے خیر سے یاد کریں۔ ملکی حالات اتنے خراب اور خطرناک، ہیبت ناک ہیں کہ ان سطروں میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ کل کراچی میل سے مٹان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔

زندگی رہی تو آئندہ ملاقات پر بائیں ہوں گی۔ والسلام دوستوں

اور عزیزوں کو سلام و دعا۔ (سید عطا اللہ شاہ)

مندرجہ بالا خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ امیر شریعت تقسیم ملک کے بعد رونما ہونے والے واقعات سے کس قدر متاثر تھے۔ حالات نے انہیں اس حد تک

رفیقِ انقلب کر دیا تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر آنسوؤں کی جھڑپی باندھ دیتے۔ اپنے علمی اہمات کے ضائع ہونے کا تو انہیں زندگی بھر احساس رہا۔ جب کبھی مسائل پر سبقت چھڑتی تو فوراً ان کا ذہن اپنی امرتسر ضائع ہو جانے والی لائبریری پر جاتا اور ساتھ ہی سرد آہ بھر کر خاموش ہو جاتے۔

اچھی کتاب اور اچھا رفیق دو درواں میں کہاں ملتے ہیں۔ زندگی میں ان کا بچھڑ جانا موت سے زیادہ دزنی ہوتا ہے، بشرطیکہ پہلو میں حساس دل ہو۔

۱۹۴۷ء کے انسانیت سوز واقعات نے زندگی کی تمام عبارت کو اس بری طرح پریشان کیا کہ امیر شریعت جیسا خود دار انسان بھی دل و نظر پر قابو نہ رکھ سکا۔

عورت کی عظمت بھی مذہب کے تقدس سے وابستہ ہے۔ جب انسان نے مذہب کی دیواروں پر کھڑے ہو کر عورت کا نیلام شروع کر دیا، تو مذہب کی پاکیزگی کیوں محفوظ رہ سکتی ہے۔ سال ۱۹۴۷ء میں انسان نے اپنی ضرورت کے لیے جن نقشوں کو آدمی کے لہو سے خوبصورت بنا نا چاہا، انہی نقشوں کی لیکرول پر سے انسان کے اپنے مہینے کا احتمال بھی تھا۔ ایسی ناپائیدار عمارت کی خوبصورتی نگاہوں کو سکون تو دے سکتی ہے مگر دلوں کی تسلی نہیں کر سکتی۔

امیر شریعت، جس نے زندگی بھر عظمت آدم کا احترام کیا تھا جب وقت کے اس موڑ پر پہنچا، تو آپلے سے باہر ہو کر کہہ اٹھا:

تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی رسوا کر دیا

میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں

خان گڑھ میں قیام | مارچ سے جولائی ۱۹۴۷ء تک امیر شریعت لاہور میں رہے اور اگست کے آخری ہفتے بچوں سمیت صلح منظر گڑھ کے ایک گاؤں خان گڑھ چلے گئے۔ اس علاقے کے رئیس نوابزادہ نصر اللہ خاں ان دنوں

آل انڈیا مجلس احرار کے ناظم اعلیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ وہ  
 امیر شریعت کے میزبان تھے۔ آموں کے باغ جو اس ضلع کی خصوصیات ہیں، امیر شریعت  
 کے لیے اپنی تمام بہاریں لے کر حاضر تھے۔ گھر کا سامان، شب دروز خدام کی حاضری  
 نے گو امیر شریعت سے اجنبیت چھین لی تھی، لیکن دل کا سکون یہاں بھی بیگانہ رہا۔  
 یہیں سے ۲۴- دسمبر ۱۹۴۷ء کو صدر مجلس احرار کے نام امیر شریعت نے حسب ذیل  
 تاریخی خط لکھا، جس کی بنا پر مجلس احرار کی آئندہ پالیسی وضع کی گئی :-

خان گڑھ - ۲۴- دسمبر ۱۹۴۷ء

برادر محترم ماسٹر جی! السلام علیکم

مقام کی میٹنگ میں حالات کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا۔ اس کے  
 بعد بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور آخر غالب آگئی، نتیجہ یہ ہے کہ اس  
 وقت نشست و برخاست بھی آسانی سے نہیں کر سکتا۔ تفصیل کیا لکھوں  
 کیا گزری؟ پھر محسن اور مہتمم بیمار ہو گئے اور ایک وقت ایسا بھی آگیا  
 کہ ہم محسن سے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ دھو بیٹھے، اخیر اللہ تعالیٰ نے کرم  
 کیا، اب اس کی حالت اچھی ہے لیکن مہتمم بہت کمزور ہے اور بخاریں  
 مبتلا ہے۔ رات نہنی سا بھ سحت بخاریں تھی۔

یہ ہے میرا مختصر سا حال۔ اس وقت میں اپنے بچوں کی خدمت کے  
 قابل بھی نہیں اور گھر میں کوئی دوسرا شخص بھی نہیں، جو پریش احوال  
 کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ حسبنا اللہ و انعم اللہ وحیل

لے اس طرح الدین انصاری جوان دونوں مجلس مرکز کے صدر تھے۔ امیر شریعت کے بڑے سے  
 چھوٹے صاحبزادے تھے سب سے چھوٹے صاحبزادے لگے سب سے چھوٹی صاحبزادی۔

مستان میں آپ کے اجلاس کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ چند باتیں لکھ دیتا ہوں۔ اگر احباب کو پسند ہوں تو بہتر ہے۔

۱۔ لیگ سے ہماری سیاسی کشمکش ختم ہو چکی ہے اور الیکشن کے ساتھ ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت لیگ قوت حاکم ہے۔ مسلمانوں نے اسے بنایا اور قبول کر لیا ہے۔ پاکستان نہ صرف مسلم لیگ کا بلکہ کانگریس کا تقسیم پنجاب کے اضافے کے ساتھ تسلیم کر رہا ہے، جس پر حضور بڑا نیر کی مہر ثبت ہے۔ اس میں صرف مسلم لیگ کو بدف ملامت بنانا آئین شرافت سے بعید ہے۔ اگر اچھا کیا تو کانگریس اور لیگ دونوں نے، اگر برا کیا تو دونوں نے۔ اب پاکستان بن چکا اور تقسیم پنجاب کو کانگریس نے پیش کر کے مسلمانوں سے پاکستان کی بہت بڑی قیمت ادا کر لی اور کراہی ہے۔ ابھی نہ جانے کب تک مسلمانوں کو سود و سودا دیکر ناپڑے گا۔ میری آخری رائے اب یہی ہے کہ ہر مسلمان کو پاکستان کی فلاح بہبود کی۔ اپنی سوچنی چاہیں، اور اس کے لیے عملی اقدام اٹھانا چاہیے۔ مجلس احوار کو ہر نیک کام میں حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور خلاف شرع کام سے اجتناب۔ اصلاح احوال کے لیے ایک دوسرے سے مل کر "الدین نصیحتہ" پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ ارشاد ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا۔

۲۔ مجلس کا قیام و بقا بہر حال ایک شرعی امر ہے، تبلیغ اعتقاد صحیح اور تنفیذ رسومات قبیحہ، اعلان کلمۃ الحق، اعلان و بیان ختم نبوت و اظہار فضائل صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین مجلس کے فرائض میں سے ہیں۔ خصوصاً اس دورِ لادینی میں جنس انسانی کی تمام مشکلات

کے لیے شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو ہی بطور حل پیش کرنا ہمارا وہ فریضہ ہے کہ اگر ہمیں دارورسن تک بھی رسائی ہو جائے تو الحمد للہ۔ اس لیے مجلس کے قیام بقا کی بہر حال کوشش رہنی چاہیے اگر دوستوں کو یہ باتیں محقول و مدلل نظر آئیں، تو ان بنیادوں پر آئندہ زندگی کی عمارت استوار کریں، ورنہ جیسے ان کی مرضی، میں کسی کی راہ میں حائل نہیں، اب میں ٹھک گیا ہوں۔ ورنہ مفصل بھی لکھ سکتا تھا۔

غریب الدیار۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری۔

## پسحی کی وفات

انسان اور مصائب کے رشتوں پر سے صدیاں گزر چکی ہیں کبھی انسان غالب آ جاتا ہے، کبھی مصائب انسان کو زیر کر لیتے ہیں، لیکن دونوں کے تعلقات میں بال برابر خلیج حائل نہیں ہوتی۔

امیر شریعت عوام کی کہانیاں سنتے سنتے خود مصائب کا پہاڑ بن کر رہ گئے۔ اچھے ہوئے دلوں پر غموں کا رین بسیرا، مسکراتی رہنے والی آنکھوں میں آنسو، سرخ و سفید چہرے پر موت کے دھبے۔ امیر شریعت کا ان دنوں ایسا ہی حال تھا کہ

۷۔ فروری ۱۹۴۸ء کو عزیز بی سائیکل کا انتقال ہو گیا۔ محصوم سچی جو غم کی اندھیری رات میں گھر کا چراغ اور سو گوار دلوں کا کھلونا تھا۔ اس کی موت نے سارے گاؤں میں صفت ماتم بچا دی۔

نئی سائیکل اس اعتبار سے خوش نصیب رہی کہ باپ اس کے جنازے میں شریک تھا، ورنہ اس سے قبل امیر شریعت کی دو سچیاں فوت ہوئیں تو وہ چلیانوں میں۔

برصغیر کی غلامی کا آخری سورج جب اپنی پنہایوں میں غروب ہوا تو ہندوستان تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک ہی دھرتی کی کوکھ سے

پاکستان ۱۹۴۷ء

جہنم بیٹے والے لاڈلے بیٹوں نے اپنی آشاؤں کے لیے ماں کو دو حصوں میں بانٹ

یہاں — آہ! انسان کتنا خود غرض ہے۔

آسمان نے یہ سارا تماشا دیکھا۔ زمین کے ذرات انسانی گناہوں سے رزہ برآمد ہو گئے۔ لیکن خلافتِ ارضی کا وارث تختِ شاہی کی طلب میں ایسا کھویا کہ دامنِ یزداں کی بجائے اشارہ ابلیس پر رقص کرنے لگا۔ اور اسی طرح ۱۹۴۵ء اپنے جنو میں گزشتہ سال کی خون آشام تاریخ لے کر نمودار ہوا، شفق اپنے دامن سے خون پھوڑ رہا تھا۔ انسانوں کی بے گور و کفن لاشوں نے درندوں کو بھوک سے بے نیاز کر دیا تھا۔ فطرتِ جہان تھی کہ شاید انسان کا انسانیت سے علیحدگی کا یہ آخری سال ہے، اگر نہیں ہے

یہ کہہ رہی ہے پلٹ کر نگاہِ یارِ بھی!

زمانہ اور بھی بدلے گا ایک بار بھی!

امیر شریعت ۱۹۶۱ء میں برطانوی سامراج سے اپنے دطن کو آزاد کرنے کے لیے جذبات کا ایک الاؤ سینے میں لے کر نکلے تھے۔ ۱۴- اگست، ۱۹۴۷ء کو جب یہ مراد برآئی تو جوانی کے ساتھ ساتھ جذبات کی آگ بھی دھواں دے رہی تھی، وہ جس پورے کو خون کی آبیاری سے نثر آدر دیکھنا چاہتے تھے، جب اس پر بہار آئی تو اسے کانٹوں نے گھیرا ہوا تھا۔ باونسیم منہ تکتی رہ گئی، مگر باونسیم کے تیز چھوٹوں نے گل بوٹوں کی تمام پتیاں خزاں کے حوالے کر دیں۔

اس سال، امیر شریعت اپنی عمر کے ستادن برس گزار رہے تھے۔ ہمتِ جواب دے چکی تھی۔ دانت ساتھ چھوڑ گئے تھے، چہرے پر عمر رفتہ کی پگڈنڈیاں گزر رہی تھیں۔ وقتوں کو پکار رہی تھیں۔ جن آنکھوں میں ہلاکی چمک تھی وہ خشک ندی نالوں کی طرح اداس دکھائی دیتی تھیں۔ ہاتھوں میں تلوار اور کلہاڑی کی جگہ معمولی چھڑی نے لے لی تھی۔ آنکھوں پر عینک، خمیدہ کمر کے ساتھ چھڑی کے سہارے امیر شریعت، بازار سے گزرتے تو یوں لگتا جیسے دیمک کھائی ہوئی گزشتہ



ربیع صدی کی تاریخ گذر رہی ہے۔

جس کی آواز سے ایوانِ افرنگ میں زلزلہ آجاتا تھا، ۱۹۴۷ء کے حادثات نے اسے سن قدر مصحح کر دیا کہ وہ پنجاب کے دور افتادہ گاؤں دغان گڑھ میں بیٹھاپنی آواز کو ترس رہا تھا۔

دروگرہ کی تکلیف کا آغاز بھی انہی دنوں ہوا۔

قریباً ایک سال خان گڑھ خاموش رہنے کے بعد اپریل ۱۹۴۸ء کو امیر شریعت رضا کاروں کے اصرار پر مٹان آئے اور جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے کہا:۔  
 ”میرے بزرگو اور عزیزو!..... ایک سال کا عرصہ ہو گیا کہ میں نے کسی اجتماع میں تقریر نہیں کی۔ اب بھی خدشا ہے کہ بادلِ نخواستہ اٹھ کر آیا ہوں، اس ڈر سے کہ رضا کار ناراض نہ ہو جائیں۔ ورنہ تقریر سائیس سال سے جو کچھ میں نے آپ سے کہا اگر اسی کو سمجھ لیتے تو کافی تھا۔ لیکن میری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ میرا تو شکار ہی کتے کا ساحل ہے جو شکار کو دیکھ کر بھونکتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اسی کی آواز لگاتا ہے۔ وہ دوڑتا ہے، کودتا ہے، پھرتا ہے، پھدکتا ہے کہ شکار سے لپٹ جاؤں، اور بھونکتا ہے کہ اپنے مالک سے اس کی قبر کر دوں۔ اسی طرح میں دیکھ رہا تھا شکار کو اور تمہارے دروازے پر بھونکا، جس دروازے پر گیا اسی نے لاشی رسید کی، بے ایمان سونے نہیں دیتا، حالانکہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں، اسی کی صدا لگاتا تھا۔“

عزیزو! میری صحت خراب ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے حسین و جمیل دنیا اڑتی دیکھی ہے۔ دلکش و دلغریب دنیا، اچھی دنیا، بری دنیا، معزز بزرگ، معزز بیٹیاں، معصمت نآب بیٹیاں، سب اڑے اور ہم سب کے ساتھ اُڑے

وہ اڑے تو میں بھی اڑا، اور سب ایک ساتھ اڑے۔ حضرت زیدؓ کیا حال تائوں  
کیسے بتاؤں؟ اگر کسی کا حال مجھ سے بہتر ہو تو بتاؤ؛ اللہ جانے کس پر کیا  
گزری؟

اس وقت یہاں سزا کے طور پر کھڑے ہوں، رضا کاروں نے مجھے سزا  
دی ہے، اور میں نے اس سزا کو قبول کر لیا ہے، تقریر کا ارادہ نہ تھا اور نہ ہے،  
بس یونہی دو ایک باتیں کرنے آیا ہوں۔ صحت تباہ ہو گئی ہے، اور اصل ساری  
بات صحت پر ہوتی ہے۔ دیکھنے کو بوز جا ہوں، آپ کے درمیان، مگر کفر  
کے لیے ویسا ہی توانا، کفر کے لیے توانا مجھ ساماں نے آج تک نہیں جنا۔  
یہ ضعیفی ایہ پیری، ادھر تم زور آدر، اور جب جی چاہا پکڑ کر میدان میں چھوڑ  
دیا۔ تم دعا دو تب بھی خوش۔ ہم تو اسی میں خوش ہیں، جس میں آپ کی خوشی  
ہے۔ ہماری اپنی تو خوشی رہی ہی نہیں۔ اب تو اپنا حال یہ ہے اللہ کو خوش  
کروں یا نہ کروں، مگر تم کو ناراض نہ کروں۔ تمہارے لیے میں اگر جہنم میں چلا  
گیا تو کیا ہوا، پر میرے جانے سے تم تو خوش رہتے ہو نا۔ بھئی! یہ سیدھی سی  
بات ہے کہ اگر ایک شخص کے جہنم جانے سے قوم یا ملت بچ جائے تو ایسا  
کام سبحان اللہ! ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی تیرے لیے کر دیا۔

بیماری کی دہر سے اور کچھ ایسی یاد کی وجہ سے وہی نقشے، وہی کلیاں  
دہی زمانہ، وہی کوچے، وہی باغ و بہارا جب یاد آتے ہیں تو دل بیٹھنے  
لگتا ہے۔

تو میں یہ فرض کر رہا تھا کہ رضا کاروں کا ڈر تھا جو حاضر ہو گیا ہوں، ان  
کو نہیں کہیں کہ بھائی مجھے چھوڑ دو۔ میں اب نہیں بول سکتا۔ ممکن ہے  
وہ بات ایسا آجانے کہ میں خود بخود اٹھوں۔ مگر انہیں سمجھانے سے کون؟

جی کی بات ہے، اب وہ بولنے نہیں دیتا۔ تین سال پوتنارہ ہوں، اب  
خدا سے دعا ہے جس نے تیس سال بولنے کی توفیق عطا کی کہ اب  
نہ بولائے۔

ابھی جو مولانا غلام غوث اور مسٹر تاج الدین آپ کے سامنے کہ  
گئے ہیں، مجھے بے چین کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تم دآہ سرد بھر  
کر، کہہ کر بھی بھول جاتے ہو اور اپنا یہ حال ہے کہ نہ کہا بھولتا ہے اور نہ  
کسی کا سنا بھولتا ہے۔ اب اس کا کیا جواب؛ گنگھی تو میری جیب میں بھی  
ہے، جب جی چاہتا ہے اس میں کر لیتا ہوں۔ گو تم نے سر میں بال نہیں  
چھوڑے، بہت کم رہ گئے ہیں۔ اگر دو چار دن زندہ رہا، اور یہی حالت  
باقی رہی تو انشاء اللہ ایک بال بھی باقی نہیں رہے گا ہاں (سرد آہ بھر کر)  
تم جیتے رہو۔ ہمارا کیا پوچھنا میاں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اور اس کا فیصلہ  
تو دہاں ہوگا میدان قیامت میں، جہاں سیاہ اور سفید چہرے الگ الگ  
کر دیے جائیں گے۔

بہر حال اب میں یہ کہوں کہ قرآن کے چار جملے ہیں، مجھے یہی آتا  
ہے اور وہ تمہیں پسند نہیں۔ جو تم چاہتے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ کوئی نئی  
بات نہیں، وہی ایک بات اسی کتاب کی، جسے آجکل کی زبان میں فرسودہ  
نظام کہا جاتا ہے، جسے تم کہتے ہو یہ ہمیں فرٹ نہیں آتا، تو یہ نکاح، یہ  
طلاق، یہ شادی، یہ قربانیاں، یہ مسجد، یہ نماز، یہ کیسے فرٹ آئیں۔ پھر تو  
سرے سے چلو کہ یہ بیت اللہ سرے سے فرٹ نہیں۔ نہ وجود باری تعالیٰ  
ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ وحی ہے، نہ نزول وحی ہے۔ آتا ہے تو یوں سیدھے  
آؤ، یہ منافقت نہ کرو۔

درمیان میں کسی نے امیر شریعت کا نعرہ لگایا۔

” دیکھیے بھائی! میری تقریر میں اس قسم کے نعرے نہ لگائیے۔ میں دونوں سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ نہ مردہ باد کے قابل ہوں۔ نہ زندہ باد کے لائق۔ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں اذانیں دے رہے ہیں۔ میں اضطرابی طور پر چپ نہیں ہوں۔ سوچ سمجھ کر چپ تھا۔ تیس سال چنچن رہا ہوں۔ اب آرزو ہے کہ نہ بولوں۔ طبیعت پر خدانے اپنا اختیار دیا ہے۔ جی چاہتا ہے، چپ رہوں۔

میں تو صرف نوجوانوں کی دلداری کے لیے آیا ہوں۔ نہ درگنگ کمیٹی کے دباؤ سے اور نہ مارٹر صاحب کے کہنے پر بلکہ ان رضا کاروں کے دباؤ سے جنہیں مجھ سے محبت ہے۔“

حضرت امیر شریعت کی یہ تقریر رات ڈیڑھ بجے تک جاری رہی۔ عوام اور خاص دونوں رو رہے تھے۔

پاکستان کی بنیاد کے ساتھ ہی علماء نے دین پسند طبقہ کو نفاذ شریعت کا نعرہ لگایا۔

گھریو پریشانیوں اور اپنی مسلسل بیماری کے باوجود امیر شریعت سرحدی علماء کے فیصلے پر پھول چڑھا کر سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی سلسلے میں سرحد کے مقتدر رہنما پیرانکی شریف، قائد اعظم کے پاس کراچی پہنچے اور ان سے تحریری وعدہ لیا کہ پاکستان کا آئندہ نظام حکومت اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ہوگا۔ ان دنوں سرحد میں عبدالصیوم خاں کی حکومت تھی۔ کانفرنس کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں کہ حکومت نے دفعہ ۱۴۴ کے ذریعے کانفرنس کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ اس کے نتیجے میں دین پسند لوگوں کو بہر حال تعجب

ہوا۔ مگر اس کے نتیجے میں پیرانگی شریف مسلم لیگ سے علیحدہ ہو کر عوامی لیگ میں شامل ہو گئے۔

ملتان میں قیام | ملک کے سیاسی حالات ہنوز اتہر تھے، عوام اقتصادی لحاظ سے کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے تھے۔ ہر آدمی خانگی پریشانیوں میں مبتلا

تھا۔ نوزائیدہ مملکت کی سرحدیں غیر محفوظ تھیں۔ اس زمانے میں عوام سے نہ تو کوئی بات کہی جاسکتی تھی اور نہ ہی عوام اس کے لیے تیار تھے۔ ملک کی سیاسی جماعتیں وقتی طور پر اپنا وجود ختم کر چکی تھیں۔ پھر وہ لوگ جن کی زندگی خزاں کے خشک پتے کی طرح آوارہ نہیں تھی اس بازار میں کیونکر آتے، جہاں ہر دوکان پر جنس انسانی کو ڈیوں کے مول چل رہی ہو۔

امیر شریعت بھی زندگی کی سنگلاخ وادیوں سے گزر کر آئے تھے، ان کے اہلہ و عیال جن راہوں کو اپنے خون سے سیراب کر چکے تھے وہ راہیں ہنوز تشنہ تھیں لیکن ساز زمانہ جن انقلابی سروں میں نغمے الاپ رہا تھا، سالار کارواں کے پاس اتنی مہلت کہاں تھی کہ برس کارواں کو چھوڑ کر غبار کارواں پر توجہ دیتا۔

۱۹۴۸ء کے آخر میں خان گڑھ چھوڑ کر امیر شریعت ملتان کے ایک گناہ محکمہ (ڈپٹی شیر خاں) میں تیس روپے ماہوار کرایہ کے مکان میں آ بیٹھے اور گوشہ نشینی کا فیصلہ کر لیا۔ جماعت کے مستقبل کی پوزیشن ہنوز واضح نہیں تھی، اور وقت کا تقاضہ بھی تھا کہ بہار آنے پر گل دکھیں سے کیونکہ بڑا ڈکھیا جانے، حیاد سے ہمارے راہ و رسم کن طور و طور سے ہوں، نسیم صبحگاہی سے اٹھکیلیاں ہوں تو کس طرح، اور اگر کبھی بکھار بادِ مسموم چمن کو اجاڑنے لگے تو آشیانوں کا دفاع کس دامن کی ادٹ میں بیٹھ کر ہو؟

۱۹۴۹ء | خزاں پر سے کتنے موسم گزرتے ہیں کہ بہار آتی ہے، رات بھر نہ جانے کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے کہ صبح نمودار ہوتی ہے۔ جماعتوں کی تشکیل کا بھی یہی قانون ہے، اور اسے باندھ کر کئی بار توڑنے پڑتے ہیں۔ دل و دماغ کو ہم آہنگ



میں کمزور اور پس ماندہ اقوام کو اپنے اپنے وطنوں میں شامل کرنے کے لیے ہر قسم کی حیلہ جوئی، لالچ اور باؤس۔ انسانیت کو پھر ایک نفعہ ناقابل تصور تباہی اور ہلاکت کا شکار بنا رہے ہیں۔ بالخصوص جمعیت اقوام کے پردے میں یہودی وطن کی تخلیق، مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید میں اقتصادی تحفظات کے نام پر ترکی، ایران، عراق، مشرق اردن، سعودی عرب، فلسطین، امین، اشام، مصر، سوڈان اور انڈونیشیا وغیرہ اسلامی ممالک کی آزادی، امن اور ترقی کو برابر قربان کیا جا رہا ہے۔

سفید نام اقوام نسلی برتری اور سیاسی اجارہ داری کے تحفظ اور بقا کے لیے جس منظم طریق سے انگریزی زبان بولنے والی قوموں اور مغربی یورپی اقوام وغیرہ کے نعروں کے فریب سے اپنے انسانیت سوز عزائم کو پورا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً ملت اسلامیہ کی سلامتی اور عالمگیر امن کی خواہش رکھنے والے افراد اور گروہ اس صورت حال کو خاموشی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔

بنا بریں دفاع پاکستان احوار کا فرنس کا یہ تاریخی اجلاس اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ ایسے نازک ترین وقت میں اسلامیان پاکستان بہت حد تک اس زہر کا تریاق پیدا کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ملت کی رہنمائی اور ترقی کے لیے ان کی داخلی سیاست کو ہر قسم کی گروہ بندیوں سے آزاد کر کے ایک ہی مشترک پلیٹ فارم کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ اس سے ایک طرف ملت اسلامیہ کے اندونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے وہاں پاکستانیوں میں صحیح اور سنجیدہ غور پیدا کرنے کا راہیں بھی کھل جائیں گی اور کم سے کم مدت میں قوم میں ضبط و نظم

اور خود اعتمادی کی خصوصیات پیدا ہو سکیں گی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مجلس احرار کے مقاصد میں اسلام کی سر بلندی کے ساتھ ساتھ وطن کی آزادی بھی شامل تھی، جو قیام پاکستان کے بعد سیاسی طور پر اب پوری ہو چکی ہے، لہذا دفاع پاکستان احرار کانفرنس کا یہ اجلاس غیر مبہم لفاظی میں یہ اعلان کر دینا اپنا ملی فرض سمجھتا ہے کہ آئندہ سے مجلس احرار اپنی سعی و عمل کو مسلمانوں کے دینی عقاید و رسوم کو درست رکھنے اور خصوصاً مسئلہ ختم نبوت کی مرکزی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے تبلیغی سرگرمیوں تک محدود رہے گی۔ جو اراکین و مہمندان احرار زمانہ حال کے موافق سیاسی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنے روایتی اخلاص اور عملی انہماک سے ملک و ملت کی خدمت میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔

اس قرارداد کی تائید کرنے سے پیشتر حضرت امیر شریعت نے جیوش مجلس احرار کے عہدے داروں کو انعام میں تلواریں اور تمغے دیے۔ ان اہم ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر امیر شریعت نے اپنی تقریر کا آغاز ایک فارسی کے شعر سے کیا اور پھر ایک واقعہ دہرایا کہ دہلی میں ایک مجذوب چٹلی قبر کے آس پاس اکثر یہ مصرعہ دہرایا کرتا تھا:

اس لیے مجھ کو ترپینے کی تمنا کم ہے۔

بچے اس کے پچھلے شور مچاتے "کس لیے" مگر وہ دوسرا مصرعہ زبان پر نہ لانا، لوگ اسے تنگ کرتے، اچھی طرح سے، مگر وہ صرف یہی کہتا: "اس لیے مجھ کو ترپینے کی تمنا کم ہے۔ ایک روز کچھ نوجوانوں نے اسے گھیر لیا اور دوسرا مصرعہ سنانے کے لیے مجبور کر دیا۔ عاجز اگر اس فقیر نے کہا

موسعت دل ہے بہت و سحت صحرا کم ہے

اس لیے مجھ کو ترپینے کی تمنا کم ہے۔



یکہ اور ایک آہ کے ساتھ وہ سر دھو کر رہ گیا۔

امیر شریعت نے فرمایا: مجھ سے دل کی بات نہ پوچھو۔ میں اپنے دل کی بات کہنے نہیں آیا، تمہارے دلوں کی کہنے آیا ہوں۔“

بزرگانِ ملت! برادرانِ عزیز! کافی عرصہ کے بعد آپ حضرات کی

خدمت میں مجھے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں ناتواں

ہوں، وہ نہیں جو آج سے دو چار برس پہلے تھا۔ اس لیے میری گزارش

ہے کہ آپ حضرات اپنی خاموشی سے میری مدد کریں۔ میں زیادہ دیر تک

آپ حضرات کا وقت نہیں لوں گا۔ میں آپ سے چند ضروری باتیں کہنا

چاہتا ہوں۔ اس وقت گردو پیش میں جو تاریک بادل چھائے ہوئے

ہیں، انہ آپ ان سے بے خبر ہیں اور نہیں۔ امنی حالات نے مجبور کیا

ہے کہ میں آپ کے سامنے آؤں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی نئی

بات نہیں بلکہ آج سے کافی عرصہ پہلے یعنی ۱۳۔ دسمبر ۱۹۴۷ء کو مجمل طور

پر ایک تحریر کے ذریعے میں نے جماعت کو اپنا پیغام بھیج دیا تھا جو

طبع شدہ ہے۔

دسمبر کے آخر میں جب طوفانِ حوادثِ تھم چکا تو لاہور میں ہماری

جماعت کی مجلسِ عاملہ کا اجلاس ہوا ہوا تھا۔ میں اس وقت بسترِ مرگ پر

تھا۔ مسلسل تین ماہ سے بیمار تھا اور میرے سچنے کی بہت کم امید تھی۔

تو اس وقت میں نے اپنے دو عزیزوں نوابزادہ نصر اللہ خاں اور سردار محمد شفیع

کی معرفت اس طرح تاج الدین الفزاری کی خدمت میں یہ خط بھیجا تھا۔

مسلم لیگ سے ہمارا اختلاف صرف یہ تھا کہ ملک کا نقشہ کس

طرح بنے۔ یہ نہیں کہ ملک نہ بنے بلکہ یہ کہ اس کا نقشہ کیونکر ہو۔ یہ کوئی

بنیادی اختلاف نہیں تھا۔ نہ حلال و حرام کا، نہ گناہ و ثواب کا، اور نہ مذہب کا وہ تو ایک نظریے کا اختلاف تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ پورے چھ صوبے میں اور مسلم لیگ بھی چاہتی تھی۔ ہمارا اختلاف صرف مرکز کی علیحدگی پر تھا۔ مسلم لیگ بھی فرقہ وارانہ جماعت تھی اور مجلس احرار بھی مسلم لیگ میں بھی کوئی غیر مسلم شامل نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ احرار میں کوئی غیر مسلم شامل ہو سکتا ہے۔ بس، اختلاف تھا تو اتنا کہ ہم کہتے تھے کہ آزادی مل جائے، ذرا سنبھل میں اور اس کے دس سال بعد مرکز سے بھی علیحدہ ہو جائیں گے۔ مگر لیگ کہتی تھی کہ نہیں۔ مرکز کے ساتھ بہلا کوئی الحاق نہیں رہ سکتا۔ وگرنہ تقسیم ملک کے ہم بھی قائل تھے۔ کہ پس فارمولا اب بھی موجود ہے، اس میں تقسیم ملک ہی کا قصہ درج ہے، ہم پورے چھ صوبوں پر مہر تھے، لیکن کانگریس نے تقسیم در تقسیم کو قبول کیا، اور گائے کا قیمہ کر کے اس کے کوفتے بنا دیے۔

پس! اب ہمارا مسلم لیگ سے کوئی اختلاف نہیں، نہ پہلے ہمارے اور ان کے درمیان مذہبی اختلاف تھا۔ نہ خدا کا، نہ رسول کا، نہ ہم ولی ہیں اور نہ لیگ والے قطب، اگر لیگ والے گناہگار ہیں، تو ہم کون سے دلی اللہ ہیں۔ ہمارا اور ان کا اختلاف صرف مرکز سے علیحدگی پر تھا اور آئندہ کے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے۔ مدت سے میری ان کی قیامت کی ہے تکرار  
بات اتنی ہے وہ کل کہتے ہیں میں آج  
ہمارا اور لیگ کا اختلاف کوئی کفر اور ایمان کا اختلاف نہ تھا۔ یہ تو بالکل سطحی اختلاف تھا۔

بھائی حمام الدین نے آپ کے سامنے جو قرارداد پیش کی ہے وہ  
جلسہ احرار کی آئندہ پالیسی کی آئینہ دار ہے، ہم نے اپنی تیس سال کی کمائی  
حکومت اور مسلم لیگ کے حوالے کر دی ہے۔ - ع

سپر دم بتو مایہ خویش را

کانگریس کے سب سے بڑے لیڈر گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہندوستان  
کی تقسیم گانے کے دو ٹکڑوں کے برابر ہے اور میں اسے کبھی قبول نہیں  
کریں گا، یہ خبر اخبارات میں آئی تو لیگ نے کہا، "نہیں، وہ دھکڑے  
ہوں گے۔" اب میں لیگ کا نام ہی کیوں لوں، یہ مطالبہ ایسی، پچاسی  
فیصد مسلمانوں نے کیا۔

پچاس گاندھی جی کی زندگی میں مونٹ بیٹن کے سامنے پنڈت  
نہرو اور قاندا اعظم نے ہندوستان کی تقسیم کو قبول کیا، یعنی کانگریس نے  
گانے کے دو ٹکڑے کر دیے۔ بنقال اور پنجاب کی تقسیم کا مطالبہ کانگریس  
نے کیا۔ کون کانگریس؟ نیشنلزم کی مدعی کانگریس، ایک وطن، ایک  
تہذیب اور ایک ملک کا نعرہ لگانے والی کانگریس، اس کانگریس نے  
ضلعوں کو بٹوایا۔ گنوماتا کے دو ٹکڑے ہی نہیں کروائے بلکہ گانے کا  
قیمہ قیمہ کر کے اس کے کوفتے بنا دیے۔

(اس موقع پر بے انتہا قہقہے بلند ہوئے، تو آپ نے فرمایا)

یہ وقت مذاق کا نہیں، لوجوالوں! سوچئے اور سمجھنے کی صلاحیت

پیدا کرو، ازنہ رہنے کے عزائم سوچو، سپاہی بنو!

اس موقع پر چودھری غلام عباس جنہیں مجلس احرار نے اپنے اجلاس میں شامل  
ہونے کی دعوت دے رکھی تھی، پنڈال میں داخل ہوئے۔ جیوش احرار نے اپنے

روایتی انداز میں ان کا استقبال کیا۔ اس دوران ”کشمیر ہمارا ہے“ کے نعرے بھی بلند ہوئے۔ اس موقع پر امیر شریعت نے چودھری غلام عباس اور دوسرے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

”چودھری صاحب کی آمد سے بات دوسری طرف چلی گئی“

عزیز دبا خدا جانے اب آپ کس کشمیر کو لینے کے ارادے کر رہے ہیں، یا کس کشمیر کے متعلق سوچتے ہیں؟ درندہ کشمیر جو ذہنوں میں جنت کا نشان ہے، جس کے متعلق میری رائے ہے کہ پروردگار عالم نے آسمانوں پر اپنی موجودگی میں تیار کروا کے اسے زمین پر اتار دیا وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جس پر اب نہیں بلکہ ۱۹۴۷ء سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس زمانے میں ہم نے اسی کشمیر کے متعلق مسلمانوں سے بات کہی تھی لیکن اس وقت کے رئیس مسلمانوں نے جن کا دخل فرنگی ایوانوں میں تھا، ہماری بات نہ سنی، اگر اس زمانے میں جب ہم نے چالیس ہزار کے قریب مسلمانوں کو جیل میں بھجوا یا اور بائیس نوجوانوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش فرمایا تھا، ہماری بات مان لی ہوتی تو آج کشمیر کا نقشہ یہ نہ ہوتا۔ خیر۔۔۔ بہر حال اب آپ بھی سن لیں اور چودھری صاحب بھی! کشمیر تو آپ اپنے ہاتھ سے دے چکے۔ اگر فائر بندی کی بات نہ ہوتی تو ممکن ہے کوئی بات بن جاتی، مگر اب تو میری بات لکھ کر حبیب میں ڈال دو، فرنگی اور ہندو اب آپ کو کشمیر نہیں دیتے۔ ہاں البتہ اگر کبھی فرنگی کو غروریت ہو کہ وہ اس مستقل نساد کو ختم کرنا چاہے تو ممکن ہے اس کا کچھ حصہ آپ کے پاس آجائے“

آخر میں آپ نے فرمایا :-

” مجلس اجراء اب مذہبی اور اصلاحی کاموں میں سرگرم عمل رہے گی۔ مسئلہ ختم نبوت اس کا بنیادی مسئلہ ہے۔ سیاست اب ہماری منزل نہیں، وہ جانے مسلم لیگ اور اس کا کام۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلم لیگ کے پاس قوت ہے اور ہم اس قوت سے ڈر گئے ہیں، نہیں! نہیں! بلکہ ملک کی ضرورت اور حالات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم متحد ہو کر بغیر کسی اندرونی خلفشار نے پاکستان کی کمزور بنیادوں کی نگہداشت

کریں۔ ان الفاظ سے میں اس قرارداد کی تائید کرتا ہوں“

امیر شریعت کی یہ تقریر رات دو بجے کے قریب ختم ہوئی۔

سیاسیات سے علیحدگی | میدان جنگ کے بعد سیاسی لڑائیاں ہمیشہ فکر و نظر کے تحت رطبی گئیں۔ کبھی شطرنج پر مردوں کی اٹھا ٹپک

سے اور کبھی افراد کی ذہنی کاوش سے، لیکن میدان میں مات کھانے والے لوگ نہ بزدل ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں بزدل کہا جاتا ہے۔

امیر شریعت اور ان کے رفقاء نے زندگی کی بساط پر جو بازی لگائی، وہ اسلحہ کی رطائی نہیں تھی بلکہ ایک نظریے کی جنگ تھی۔ ایک طرف اقتدار وہ بھی غیر ملکی، ہمنڈرپ کے پائی اور پہاڑوں کی بلندیاں جن کے پاؤں چھوٹی بھٹی - سورج جن کے جلو میں طلوع ہو کر جب شام کو شفق کی پنہائیوں میں غروب ہوتا تو یہاں بھی برطانوی پرچم کی اڑائیں ہی اسے پناہ دیتیں اور دوسری طرف یہ درویش منش لوگ، جن سے اپنے بھی ناخوش، جو اپنی تقدیر کے آپ خالق تھے، لیکن ان کی تدبیروں سے شہنشاہوں کے مقدر بنتے اور بگڑتے رہے۔ وہ آواز دیتے تو اقتدار کی زبانیں گنگ ہو جاتیں۔ ان کی رفتار سے کڑا کو کئی راہیں میں، انہیں غیر ملکی راج کے داروں نے لوہے کی زنجیروں میں جکڑا

پس دیوارِ زنداں اُن کے حوصلے توڑنے کی کوششیں کیں، پھانسی کے تختے ان کے راستے میں بچھائے، لیکن مردانِ مِٹاپنی منزل سے دور نہ رہے اور آخر وقت آیا کہ برطانوی سامراج کا سانس اکھڑ گیا اور وہ موت کی ایسی غاریں دفن ہو کر نشانِ تک باقی نہ رہا۔

یہ فکدہ نظری لڑائی کا نتیجہ تھا کہ ان لوگوں کی جیت ہوئی، جو ایمان کی قوت سے مسلح تھے، جن کے عزم و ارادوں نے وقت کی سب سے جاہر سلطنت سے ٹکرا کر بھی فتح پائی۔

پاکستان دو نظریوں میں اختلاف کی جنگ تھی، نہ کہ مقصد کی جس پر مغفط فتح اور شکست کا اطلاق کیا جائے، امیر شریعت اپنے مقصد میں کامیاب نکلے کہ برطانوی پرچم سرنگوں ہو گیا۔ بلاشبہ وقتی طور پر وہ اپنی رائے کی بازی ہار گئے، جس کا انہوں نے ۲۲۔ دسمبر ۱۹۴۶ء کے خط میں اعتراف کیا، لیکن اب یہ فیصلہ مستقبل کے ہاتھ میں ہے، کہ امیر شریعت کی رائے درست تھی یا ۱۹۴۷ء کا برطانوی آئین؟

۱۲۔ جنوری کی قرارداد کے بعد امیر شریعت سیاست سے کنارہ کش ہو کر طمان میں گوشہ نشین ہو گئے۔ البتہ کبھی کبھار دیہات کے مذہبی اجتماعات میں شرکت کرتے اور وہ بھی بڑے اصرار پر اور نہ مکان کی مراد نہ بیٹھک میں عبادتِ الہی میں مصروف رہتے ملتے والے ہیں آجاتے تو پھر گھنٹوں ادبی محفلیں جتیں۔ اسی طرح کی ایک محفل میں لاہور کے ایک ایڈووکیٹ بابو عبدالغفور نے امیر شریعت سے سوال کیا —

”شاہ جی! آج کل سیاست کیسی ہے؟“

جواب میں فرمایا

”ریاست میں سیاست کیسی بابو۔ اپنے بال بچوں کا پیٹ پاؤ، اگر ہو سکے تو نیکی کرتے رہو اور مر جاؤ۔“

کسی نے پوچھا: شاہ جی! پہلے آپ مسلم لیگ کی مخالفت کرتے تھے اور اب  
حمایت؟

فرمایا: بھائی ان دنوں حضرت حسینؑ کی سنت ادا کرتا تھا اور اب  
حضرت حسنؑ کی۔

انہی دنوں لاہور کے حاجی دین محمد، امیر شریعت کی خدمت میں حاضر ہوئے  
تو کرائے کا مکان دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے، اور کہا: شاہ جی! اگر آپ چاہیں تو لاہور شاد باغ  
میں زمین خرید کر مکان تعمیر کرادوں۔ جواب میں فرمایا۔

”حاجی صاحب! میرے پاس اتنی رقم کہاں؟“

حاجی صاحب نے کہا: ”نہیں تو پھر بیس ہزار روپیہ مجھ سے لے لیں اور جہاں  
مناسب سمجھیں مکان بنالیں۔“

امیر شریعت نے مسکرا کر جواب دیا: ”نہیں حاجی صاحب! شکریہ!“

اسی سال لائل پور کے جے ایم، ہوزری کے مالک شیخ محمد طفیل بھی ملتان  
آئے کہ شاہ جی کے لیے مکان کا انتظام کیا جائے۔ گو جرنالہ کے دوستوں نے تو  
زمین بھی خرید لی، لیکن ان سب کو امیر شریعت نے ایک ہی جواب دیا۔

”میں تمام احباب کا ممنون ہوں، جو اپنی اپنی جگہ پر میرے لیے

رہائش کا انتظام کر رہے ہیں۔ شاید انہیں نہیں معلوم کہ اسی طرح کی

کوشش ایک دفعہ نواب بہاولپور نے بھی کی تھی، لیکن اگر میں نے

مکان ہی بنانے ہوتے تو ہر شہر اور ہر بستی میں سونے کے مکان بنا

سکتا تھا۔ لیکن جس نے اپنے امرتسر والے مکان کا کلیمہ داخل نہیں کیا

جو میرا حق بنتا ہے وہ کسی دوسرے کا ممنون احسان کیونکر ہو سکتا ہے۔“

پٹنہ میں میرے ننہال کی خاصی جائیداد تھی۔ وہاں گیا تو دیکھا

کہ اس پر بند دلوں نے مندر تعمیر کر لیا ہے۔ اس جائیداد کو میں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ چلو اللہ کی عبادت ہی کریں گے۔ میرے عقیدے پر نہ سہی اپنے رنگ میں ہی سہی۔

بہر حال میں تمام دوستوں کا ممنوں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بخائے

نیر دے !!

مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے مفتی محمد شفیع صاحب ایک دن امیر شریعت سے ملنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ مرغیوں کو دانہ کھلا رہے ہیں مفتی صاحب نے سوال کیا۔ شاہ جی! یہ کام باقی رہ گیا تھا؟  
جواب میں فرمایا۔

”تیس سال تک میں نے آپ لوگوں کو بلایا ہے، مگر آپ مجھ سے

بھاگتے رہے۔ اب یہ بے زبان ہیں، ذرا سی آواز دیتا ہوں تو فوراً

چلے آتے ہیں۔ اس دور کے انسانوں سے تو یہ حیوان کہیں بہتر ہیں !!

غرض اسی طرح کی ادبی اور نیم سیاسی گھریلو محفلوں میں اور کبھی کبھار شہری آبادی

سے دور دیہاتی عوام میں مذہبی قسم کے وعظ کرتے ہوئے امیر شریعت نے ۱۹۵۰ء تک کا زمانہ گزار دیا۔





۱۹۵۰ء — ۱۹۶۱ء

پانچواں باب

## استحکام پاکستان

برصغیر پاک و ہند کے آزاد ہوتے ہی برطانوی سامراج کی تمام نوآبادیات اپنی آزادی کے لیے پرتو نئے لگیں۔ اسلامی ملک اور خاص کر عرب ریاستوں کو برطانوی اقتدار نے جن اطوار سے غلام بنا رکھا تھا، وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہے تھے۔ انہی دنوں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خاں لیاقت علی خاں کو روس نے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ اس سے پیشتر امریکہ نے بھی وزیر اعظم پاکستان کو اپنے ہاں دورہ کی دعوت دے رکھی تھی، جسے لیاقت علی خاں نے فوراً منظور کر لیا، لیکن وہ روس کی بجائے امریکہ چلے گئے۔ یہ ۱۹۵۰ء کا واقعہ ہے۔

پاکستان کو روس اور امریکہ کی دعوتیں برطانوی منشا کے خلاف تھیں، جبکہ مصر اور ایران اپنے اپنے ملک سے برطانوی اقتدار کے خاتمے کی فکر میں تھے۔ ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا برطانوی منشا کے خلاف حرکت کرنا تعجب نیز تھا۔ ہینوز پاکستان کی بنیادیں بھی ناپختہ تھیں۔ ایک طرف ملکی استحکام متزلزل تھا، دشمن پاکستان کی کمزور دیواروں سے جھانک رہا تھا۔ تو دوسری طرف اندرون ملک کے حالات بھی موافق نہیں تھے۔ مرزائی جماعت کا الہامی عقیدہ تھا اور ہے کہ:۔

پاکستان کا وجود عارضی ہے اور کچھ وقت کے لیے دونوں قومیں دہندو، مسلمان، جدا جبار ہیں گی، مگر یہ حالت عارضی ہونگی اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلد دور ہو جائے۔

بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ ”اکھنڈ“ ہندوستان بنے اور ساری توہیں  
 باہم شیر و شکر ہو کر رہیں۔“

(اخبار ”الفضل“ ۵ اپریل ۱۹۴۷ء)

ایمر شریعت نے انہی دنوں ملتان میں تقریر کرتے ہوئے کہا:-

”عزیزو جوانوں! میں پورے ایک سال سے ارادتا خاموش ہوں  
 اور نہ اب تقریر کرنے آیا ہوں، ظاہر ہے کہ میں تم سے کون تو کیا کہوں؟  
 جو کہنا چاہتا ہوں وہ تم سنتے نہیں، اور جو تم سنتے ہو، وہ میرے بس میں  
 نہیں۔ میں گھر کی چار دیواری میں بند ہوں، جس کے اندر سارا کچھ ہی ہے  
 اور باہر کچھ بھی نہیں۔ وہ ہے اسلام!“

میرے پاس اللہ کی ایک کتاب ہے، جسے میں معاشوا انسانی  
 کے لیے ضابطہٴ حیات سمجھتا ہوں، اور اسی کی تبلیغ گذشتہ چالیس سال  
 سے کر رہا ہوں، تم مانتے نہیں ہو اور میں خاموش نہیں رہ سکتا۔

جب بھی خطرے کی کوئی بات دیکھتا ہوں تو مجھ سے برداشت  
 نہیں ہوتا، باہر نکل کر بھونکتا ہوں کہ چور دیواریں توڑ رہے ہیں، مگر  
 تم چور کو تو دیکھتے نہیں، الٹا مجھے مارنے دوڑتے ہو کہ کم بخت سونے  
 نہیں دیتا۔ مگر کیا کروں عادت سی بن گئی ہے۔

بیماری نے میرا کچھ مرز نکال دیا ہے، اسارا جسم بغاوت پر اتر آیا،  
 ہوتی بھی تو کم نہیں اس کم بخت کے ساتھ، بغاوت نہ کرے تو  
 کیا کرے۔

مرزا بیہ الدین محمود نے ایک امام شائع کیا ہے جسے آجکل  
 مرزائی بڑی تیزی سے ہوا سے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے

ایک رویا دیکھا ہے جس کے معنی ہیں کہ گاندھی آئے ہیں اور حضور کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹنا چاہتے ہیں اور ذرا سی دیر میں اٹھ بیٹھے اور گفتگو شروع کر دی۔

اس امام کی تعبیر میں وہ خود ہی (مرزا بشیر الدین محمود) کہتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان اکٹھے ہو جائیں گے۔ (یعنی ہندوستان اور پاکستان اکٹھے ہو جائیں گے)

میں تم سے پوچھتا ہوں، مسلمانو! جس ملک کو دس ہزار بیٹیوں کی آبرودے کر اور چالیس لاکھ مسلمانوں کی بربادی اور تباہی کے بعد حاصل کیا ہے اسے کیا پھر ہندوستان کے ساتھ ملانے کے ارادے ہیں؟

مسلمانو! مرزا ٹیٹ کے یہی ناپاک ارادے مجھے گھر کی چار دیواری سے نکال کر تمہارے سامنے لے آئے ہیں، ورنہ اب میں تھک چکا ہوں، رہی سہی کسر بیماری نے پوری کر دی ہے، میں ایک عظیم خطرے سے پھر تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں۔ مرزائیوں کے ناپاک عزائم خدا جانے کیا رنگ لائیں گے۔ انگریز گورنر اپنی روحانی اولاد کو چناب کے اس پار جو قیمتی زمین کوٹریوں کے بھاؤ دے گیا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انگریزوں کا یہ خود کا شتہ پووا پاکستان میں بیٹھ کر بھی برطانیہ کی جاسوسی کر رہا ہے۔

میر ہی حکومت نے اگر اس طرف توجہ نہ دی، تو مجھے ڈر ہے کہ

اس ملک پر مرزائیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ میں اپنے پیارے وزیر اعظم کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اس سیاسی ٹولے پر خصوصی نظر رکھیں۔

ایمر شریعت کی اس تقریر کو اس زمانے کے اخبارات نے کافی دلچسپی سے شائع کیا۔ امریکی دورے سے واپسی پر خاں یباقت علی خاں نے ایمر شریعت سے ملنے کی خواہش کی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر وزیراعظم کو ملنے سے انکار کر دیا کہ :-  
 ”یہ کام جماعت کے صدر کا ہے کہ وہ ملک کے کسی ذمہ دار آفیسر

سے یا عہدے دار سے ملیں، میں تو ادنیٰ رضا کار ہوں۔“

ان دنوں مجلس احرار کے صدر ماسٹر تاج الدین تھے۔ انہوں نے بھی کہا مگر ایمر شریعت نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کام آپ کا ہے۔

مُسلم لیگ کی غلطی | اسی سال صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں پنجاب مسلم لیگ نے اپنے امیدواروں میں چھ مرزائیوں کو شامل کر کے انہیں

ٹکٹ دے دیے۔ اس سلسلہ میں مجلس احرار نے ایک پریس بیان میں کہا:

”مجلس احرار براہ راست سیاسیات میں دخل نہیں اور نہ ہی وہ

الیکشن میں حصہ لینا پسند کرتی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نے مرزائیوں کو

ٹکٹ دیے ہیں، اب مجلس احرار ان کا مقابلہ کرنا اپنا دینی فسرط

سمجھتی ہے۔“

اس پر مجلس احرار نے پاکستان کے وزیراعظم خاں یباقت علی خاں سے جو مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، برقی تار کے ذریعے احتجاج کیا، جس کے جواب میں وزیراعظم نے احرار رہنماؤں کو اپنے ایک ذمہ دار اور بااعتماد ذریعہ سے یقین دلایا کہ وہ ان حلقوں کا دورہ نہیں کریں گے جہاں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مرزائی الیکشن لڑ رہے ہیں۔

انتخابات کے دنوں حضرت ایمر شریعت نے اپنی بیماری اور نقاہت کے باوجود شب و روز ان قصبات کا دورہ کیا، جہاں مرزائی اسلام اور مسلمانوں کا ساہا

پہن کر الیکشن کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جب اس الیکشن کا نتیجہ نکلا تو تمام مرزائی شکست کھا چکے تھے جس پر مسلم لیگ کو کافی شرمندگی اٹھانا پڑی۔

**والد صاحب کا انتقال** | ایران اور مصر کے حالات نے اس تیزی کے ساتھ کر دیا

لی کہ برطانوی سامراج کے ہاتھوں کے طوطے اڑنے لگے ایران کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق نے اینگلو پریشن کمیٹی کے مابین معاہدوں کو ختم کر کے تمام وسیع کاروبار کو قومی تحویل میں لے لیا۔ اس سے برطانوی مفاد پر خاصی ضرب پڑی۔ دوسری طرف مصر کے وزیر اعظم نجاس پاشا اس معاہدہ کے خلاف ہو رہے تھے، جس کی رو سے برطانیہ کو نرسسویز کی حفاظت کے لیے ایک مخصوص علاقے میں اپنی فوج منتہین کرنے کی رعایت حاصل تھی۔

ایشیا میں یہی حالات برطانیہ کے خلاف وہاں کے عوام میں بغاوت پھیلا رہے تھے کہ بھارت کی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پر متعین کر دی گئیں، جنہیں پاکستان کے لیے فوجی خطرہ محسوس کرتے ہوئے وزیر اعظم لیاقت علی خاں نے بھارت کے وزیر اعظم پنڈت ہرداس سے احتجاج کیا اور ساتھ ہی ۱۰ جولائی ۱۹۵۱ء کو کراچی کے ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

”پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن حملہ آور کے لیے پاکستان کا

”مکہ تیار ہے“

یہی ”مکہ“ بھارت کے خلاف پاکستان کا قومی نعرہ بن گیا۔ ان تمام واقعات نے

ایران، مصر اور پاکستان کو ایک دوسرے کی دھڑکنیں سننے پر مجبور کر دیا۔

پاکستان، بھارت کی ان جھگی سرگرمیوں کی وجہ سے میدان جنگ بن گیا، اور ہر پاکستانی ملک کی حفاظت کے لیے کفن بردوش نظر آنے لگا۔ ان دنوں ۲۱ اگست ۱۹۵۱ء کو لاہور موچی دروازہ کے باغ میں پنجاب اسمبلی کے سپیکر آنر ایبل خلیفہ شجاع الدین کی

زیر صدارت امیر شریعت نے کہا:

”حضرات اور صدر محترم! بزرگان ملت اور برادران عزیز! جنگ کے متعلق کوئی مشورہ یا رائے دینا میرے بس کی بات نہیں، یہ وزارت جنگ جانے اور محکمہ جنگ، کہ کہاں لڑنا ہے اور کہاں نہیں، یا کب لڑنا ہے اور کب نہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں، لیکن دعا گو ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔“

۱۴۔ اگست کو ہم نے یوم آزادی منایا اور عوام نے دل کھول کر جوش کا مظاہرہ بھی کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ اس جذبے کو مستقل کر دیں۔

جب کچھ حاصل ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن خوشی میں اصل چیز کو نہیں مہول جایا کرتے۔

پاکستان کسی چار دیواری کا نام نہیں، اگر ہماری زندگی منفعتیات سے عبارت ہے تو پاکستان بھی آپ سے کچھ تقاضا کرتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں، لیکن جب گلے پڑ جائے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ناگماں کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔

ہندو ماہیجانے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کو بزورِ شمشیر فتح کریں گے۔ تشکیل پاکستان کے وقت ”ملاپ“ اخبار نے بھی لکھا تھا کہ ”نی لمال چلو پھر قوت کے ساتھ واپس آئیں گے“۔ اب تو بھارتی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پر جمع بھی ہو گئی ہیں۔ لیکن خان لیاقت علی خان کے جواب میں پنڈت نہرو نے کہا: ہم جنگ نہیں چاہتے، یہ فوجیں ہم لے امن کے لیے

جج کی ہیں "خدا جانے پنڈت منرونے یونہی بے خبری میں کہہ دیا ہو لیکن  
خان لیاقت علی خان نے کہہ دکھایا ہے . . . . . تاہم مجھے یقین ہے کہ  
جنگ نہیں ہوگی۔

اگر اعلان جنگ ہوا، تو بوڑھا بخاری بھی میدان جنگ میں کود پڑے  
گا۔ مجھے افسوس ضرور ہے کہ میں جوان نہیں لیکن دشمن کے مقابلے میں  
جوان ہوں۔ میری تمنا ہے کہ بستر پرائیڈیاں رگڑ کر مرنے کی بجائے میدان  
جنگ میں جان دوں۔

جنگ اور کشیدہ حالات کے لیے احکامات مختلف ہوتے ہیں۔ اب  
یہ ہمارا ملک ہے۔ ذہنیت کو تبدیل کرنا چاہیے، ہم کسی کے ملازم نہیں  
یہ قطعہ زمین ہم نے بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے اور تیرہ سو سال  
میں آج تک کسی نے آزادی کے لیے اتنی قیمت ادا نہیں کی جتنی ہمیں کرنی  
پڑی ہے۔ اب اس بیش قیمت ملک کو بچانے کیلئے تیار رہنا چاہیے۔  
نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:-

"ہوائی جہاز بھی قوت ہے، بمبار طیارے، سرنگس، برین گنیں،  
رائفلس، ٹینک یہ سب چیزیں قوت ہیں، انہیں اکٹھا کرو، اپنے فرائض کو  
سمجھو، حکومت کو مشورہ نہ دو، وہ اپنی ذمہ داری خود محسوس کرتی ہے، اور  
خدا کرے زیادہ سے زیادہ محسوس کرے۔"

میں مجب کی زیادتی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی پر جوش جلسہ دیکھنا  
پسند کرتا ہوں۔ یہاں سے اپنے مقدر کا فیصلہ کر کے اٹھو نوجوانو! یہ میدان  
کارزار کی بات نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے۔ رطائی کے وقت کیا کرنا  
ہوگا۔ اس کے لیے اور احکام ہیں، ابھی تو صرف آنے والے وقت کی تیاری

کو ادھاک بٹھا دو، قرآن کے ارشاد کے مطابق اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے  
دشمنوں کیلئے تمنا سامان مہیا کر دو کہ دشمن مرحوب ہو جائے۔ قوت میں سب کچھ  
ہے، قوت کے بغیر کچھ بھی نہیں!

انہیں مجلس احوار کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے اعلان کیا:  
”یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے پاکستان کی مخالفت کی۔ لیکن جو کچھ کیا اور جو  
کچھ صحیح سمجھا وہی کچھ کیا۔ ہمارا ضمیر اس وقت بھی مطمئن تھا اور آج بھی  
شرمندہ نہیں ہے۔“

آج ہم کسی سے دب کر کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ پوری آزادی سے کہتے  
ہیں کہ دفاعِ وطن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی خدار ہو تو اسے کبھی فریاد  
تک پہنچاؤ۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ میرے پاس نہ دولت ہے نہ  
ثروت صرف آپ کی خدمت میں پورے خلوص سے التجا کرتا ہوں۔ آپ  
کے پاؤں پر سفید داڑھی رکھ کر اپیل کرتا ہوں کہ آپ اسے منظور کریں! اور  
وہ یہ کہ ایک جوان بھی ایسا نہ رہے جو نیشنل گارڈ کی وردی نہ پہننے سے ہٹے!

امیر شریعت کی اس تقریر نے سارے لاہور کو میدانِ کارزار کے لیے تیار کر دیا۔  
حالاتِ جوشِ جہاد کے جذبات سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سارا ملک جنگی تیاریوں میں  
مصروف تھا۔ امیر شریعت کراچی، راولپنڈی، پشاور اور لاہور کے علاوہ دیہات و  
قصبات میں بھی جہاد کی تقریریں کر رہے تھے کہ ۱۶- اکتوبر ۱۹۵۱ء کو راولپنڈی کے  
ایک عام اجتماع میں خان لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔

اسی سال ۶۸- شعبان اتوار کے روز امیر شریعت کے والد محترم حافظ سید  
ضیاء الدین شاہ صاحب بخاری اٹھاسی سال کی عمر پا کر اپنے گاؤں ناگڑیاں ضلع گجرات میں  
انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت امیر شریعت کی اپنی عمر ساٹھ سال کے قریب تھی، لیکن



اس مقام پر بھی حضرت امیر شریعت جب کبھی گاؤں جاتے تو والد صاحب انہیں مولوی عطار اللہ کہہ کر پکارتے، یا بڑے پیار میں ہوں تو حافظ جی کہہ دیتے۔ مگر قبول امیر شریعت ایسا وقت زندگی میں کم ہی آیا۔ کیونکہ حافظ سید منیا والدین شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ علیہ کی طبیعت میں جلال ہی جلال تھا۔

والد صاحب کی موت نے امیر شریعت کی صحت کو غصتہ دیوار کی طرح گرا دیا۔ لیکن پاکستان کے حالات اور مرزائیوں کے ہمدردوں نے انہیں والد صاحب کے افسوس اور تخریبیت کا بہت کم وقت دیا۔

ایک اہم انکشاف | پاکستان کے وزیر اعظم کی موت کے باوجود بھارت کے جنگی ارادے بدستور قائم رہے۔ اس کے پیش نظر ملک کے دفاعی انتظامات

ہورہے تھے کہ ۲۴-۲۵ مارچ ۱۹۵۲ء استحکام پاکستان اجرا کانفرنس میں شمولیت کے لیے امیر شریعت سرگودھا پہنچے۔ سارا حلقہ اپنے محبوب رہنما کی زیارت کے لیے اُٹھ آیا تھا آپ کی قیام گاہ پر ایک شخص نے امیر شریعت سے صلہ رحمی میں گفتگو کر لے کو کہا۔ جسے بڑے اصرار کے بعد امیر شریعت نے مان لیا۔ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد جب امیر شریعت دس دوستوں میں آئے تو ان کے پھرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔

کبل اوڑھے اسیاہ ہینک لگائے دراز قامت یہ شخص کون تھا؟ کہ جب امیر شریعت اس سے مل کر صلحیہ ہوئے تو تحریک ختم نبوت کا آغاز ہو گیا۔ یہ راز صرف حضرت امیر شریعت کے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ البتہ تحریک ختم نبوت کے بعد ہائی کورٹ سے رہا ہوئے تو اپنے مکان (ملتان) میں بیٹھے بیٹھے راقم سے کہنے لگے:-

”جاننا باز! تم اس سال سرگودھا کانفرنس میں موجود تھے جب ایک آدمی مجھے

صلحیہ لگی میں ملا تھا؟

”جی میں وہیں تھا“

”بھلا وہ آدمی کون تھا اور اس نے کیا کہا تھا؟“

”حضرت! یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا“

مسکرا کر فرمانے لگے: ”نام تو اب بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہارے ایک سرکاری آدمی اور بتایا اس نے یہ تھا کہ راجہ حفصہ علی دجوان دنوں ایران میں پاکستان کے سفیر تھے، اور سر ظفر اللہ خاں (جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے) کے درمیان حال ہی کی ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس وقت ہم دونوں اقتدار پر ہیں کیوں نہ حکومت پاکستان سے ایسا قانون پاس کرالیں کہ پاکستان میں کوئی فرقہ کسی فرقے کو کافر نہ کہے۔ اس کے لیے کوشش شروع ہو چکی ہے، شاہ صاحب! اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں۔“

یہ واقعہ سننے کے بعد امیر شریعت نے کہا:-

تمہیں یاد ہے کہ میں نے اسی رات بغیر جماعت کے مشورے کے سر ظفر اللہ کا شہر میں جنازہ نکھوانے کا اعلان کر دیا تھا، اگر اس رات یہ حرکت نہ کرتا تو ممکن ہے ملک میں کوئی قانون ایسا بن جاتا کہ باطل کو اپنی زندگی کے ایسے قانون کا سماں میرا جاتا، سازش محل میں ہو یا جھوٹری میں، قانون دونوں جگہوں کو مجرم قرار دیتا ہے۔ راجہ حفصہ علی (شیخ) اور چودھری سر ظفر اللہ خاں (مرزائی) اپنی سرکاری ذمہ داریوں کی ادھ لے کر اگر اپنے اردوں میں کامیاب ہو جاتے، اگر ان کی باہم سازش پاکستان میں کسی قانون کے بنانے کی مرتکب ہوتی، جس کی رو سے کفر کو کفر کناہم قرار دے دیا جاتا، تو پھر استحکام پاکستان کے ایسے صدیوں کی ضرورت پڑتی۔

امیر شریعت کی فراست اور دوسرے نگاہوں نے متوڑی سی تلخی گوارا کر کے یہ

ذہر بھی پی لیا کہ وطن عزیز کا مستقبل باطل کے ہاتھوں تار یک نہ ہو جائے۔

**بیٹی کی شادی** گھریلو رسم و رواج اور برادری کے مرد و برآئین سے انحراف جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ پھر اس آدمی کے لیے جس نے عوام

کو ہمیشہ مذہب کی راہیں سجاتی ہوں اس وادی سے گزرنا اور بھی مشکل ہے۔

ایر شریعت کے قدم اس راہ میں بھی نہیں ڈگمگائے، حالانکہ ان کی برادری بھی تھی اور خاندان کی رسمیں بھی، لیکن غیر ملکی سلطنت کے باغی اور اسلام کے داعی نے سماج کے بنائے ہوئے تمام قوانین کو ٹھکرا کر اسلام کے ضابطہ حیات کو اپنی عاقبت کے لیے بہتر سمجھا، اور نہ تو بیٹی کا "وہ تلاش کرنے میں حجت کی، اور نہ ہی خاندانی حصار میں رہے، بلکہ نیک سیرت، نیک خصلت اور تقویٰ کے پابند نوجوان کی جستجو میں بیٹی کے بالغ ہونے تک اپنی نظروں کو مصروف رکھا۔ آخر اس تجسس میں کامیاب نکلے۔ سحر حوادث کے باوجود ایسا موتی تلاش کیا کہ جس کی تردستی پر فرشتے دھو کر سکتے ہیں۔

عبدالحکیم ضلع ملتان کے ایک گنم گنم سید محمد شفیع شاہ صاحب، جن کا آبائی وطن پسرورد ضلع سیالکوٹ ہے کے رط کے سید وکیل احمد شاہ سے اپنی لڑکی کی نسبت کر دی۔

وکیل احمد شاہ شادی سے قبل دینی کتب سے فارغ ہو کر بی۔ اے کے طالب علم تھے۔ سیرت کے ساتھ مشاطہ فطرت نے انہیں حُجُن ظاہری سے بھی سنوارا ہے۔ پوٹاسا قذا چشم آہو، کھلی پیشانی، یہ سارا کچھ گندمی رنگ کے چہرے پر اس قدر خوبصورت اور دل آویز ہے کہ صنارح فطرت کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے۔

**جہیز** بیٹی کا جہیز موجودہ زمانے کے رسم و رواج میں والدین کے لیے عذابِ دنیوی سے کم نہیں۔ یہ رسم قرض لے کر پوری کی جائے یا اثاثہ حیات بیچ کر۔ دونوں صورتوں میں لڑکی کے والدین کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، لیکن ایر شریعت نے

گھر کی اس عمارت کو استقلال کے جن ارادوں سے چکنا چور کیا، اور عزیز بیٹی کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لپیٹ کر گھر سے رخصت کیا، یہ بھی ایک جہاد تھا، موسائجی کے۔ مروجہ رواج کے خلاف جس سے دور رواں میں نجات مشکل ہے۔

انصاف کلاتھ ہوس دلائل پورہ کے مالک شیخ گلزار کا بیان ہے کہ:  
 ”شاہ جی اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کراچی آئے اور کہا تمہاری ہمیشہ کی شادی کے لیے کپڑا خریدنا ہے بازار چلو۔ میں ہزار روپیہ جیب میں ڈال کر شاہ جی کے ساتھ ہولیا۔ پانچ سو سے کچھ کم کا کپڑا خرید چکے تو کہا ”بس بیٹیا!“

میں نے عرض کیا: ”حضرت یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔“

جو اب میں کہا بیٹیا! میری گرہ اسی قدر اجازت دیتی ہے۔“

اس پر میں نے عرض کیا: ”حضرت! پیسے بہت ہیں۔“

فرمایا: ”نہیں میرے عزیز! میں تمہیں اس لیے ساتھ نہیں لایا، کہ تمہارے پاس پیسے بہت ہیں، بلکہ مجھے اس کپڑے کی پہچان نہیں، اور دوسرا

تمہارے ساتھ ہونے سے کچھ رعایت ہو گئی۔“

”چنانچہ شاہ جی نے تمام رقم اپنی گرہ سے ادا کی۔“

رسم نکاح مخدوم محترم حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری نے ادا فرمائی،

اور اس طرح مارچ کے آخر یا اپریل ۱۹۵۲ء کے شروع میں امیر شریعت نے اپنے

جگر گوشے کو آنسوؤں کے زیورات سے آراستہ کر کے گھر سے رخصت کیا۔

شادی کے بعد سید وکیل احمد شاہ نے عربی کا ایم۔ اے کیا۔ اور اس پر سر

سے پانک کھدر کے لباس میں ملبوس، شرعی دائرہ طبیعت میں سادگی لیے ہوئے

یہ نوجوان آج میونسپل کالج اوکاڑہ میں پروفیسر ہے۔

**تحریکِ ختمِ نبوت**، ۸۵ء کے بعد غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے دائمی استحکام کے لیے ہندوستان کی مختلف اقوام میں منافرت کا جو بیج بویا، اس کے برگ و بار میں مرزائیت ایک ایسی تحریک ثابت ہوئی کہ نہ صرف اسلام کے بنیادی ستون ہی متزلزل ہوئے بلکہ ہندوستان کی غیر ملکی غلامی کی عمر بھی طویل ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے اجنبی راج کا اقتدار بڑھ پکڑتا گیا، اسی رفتار سے مرزائیت کو نپٹنے کے وسائل میسر آتے رہے۔

اپنی بنیاد کے دو سال بعد مجلسِ احرار نے اس تحریک کے مقابلے کے لیے قادیان میں اپنا دفتر قائم کیا۔ زمانے احرار کے نزدیک غلامی سے آزادی تک کا راستہ مرزائیت کی موت کے بغیر طے نہیں ہو سکتا تھا۔ جڑ کاٹنے سے پیشتر درخت کے تنے اور شاخیں کاٹنا ضروری ہوتی ہیں۔

۱۹۲۰ء میں امیر شریعت نے مرزا بشیر الدین محمود کو لٹکا رہا تھا۔ اس وقت ان کی لٹکار انفرادی حیثیت رکھتی تھی لیکن ۱۹۳۱ء میں مجلسِ احرار نے جب مرزائیت کا محاسبہ کیا تو امیر شریعت کے لاکھوں مرید اور ہزاروں رضا کاروں کی فعال جماعت ان کی پشت پناہ تھی۔ ۱۹۲۶ء میں انگریزی سامراج کے خاتمے نے یہ امید دلائی تھی کہ پاکستان اسلامی ریاست ہوتے ہوئے غیر اسلامی مذاہب کو اس قدر اہمیت نہیں دے گا کہ وہ براہِ راست ریاست کے نظم و نسق پر حاوی ہو جائیں۔ ان دنوں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان عملاتی سازشوں کا جال اس تیزی سے بچھا یا جا رہا تھا کہ اندرونِ ملک کی سیاسی تلابازیوں سے حکمران طبقہ قطعاً نا آشنا تھا۔

خان ییاقت علی خان کی موت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزارتِ عظمیٰ کی کرسی پر جا بیٹھے، اور اپنی جگہ ملک غلام محمد جو وزیر خزانہ تھے کو پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا اور وزیر خزانہ کی کرسی چودھری محمد علی کے حوالے کر دی گئی۔ اس عاجلانہ تبدیلی نے پاکستان کی

سابقہ خارجہ پالیسی پر بھی اثر کیا۔ شہید وزیر اعظم نے اسلامی ممالک سے جو راہ ورسم بڑھاتے تھے، انواجب ناظم الدین نے اپنی حکومت کا رخ ان سے مختلف کر دیا۔ مصر اور ایران کی حمایت کرنے کی بجائے برطانوی قربت داری کو مقدم سمجھا گیا۔

اس افزائش میں صوبائی اور مرکزی حکومت کے مابین اختلافات میں اور کشیدگی پیدا ہوئی۔ پنجاب میں میاں ممتاز محمد خاں دوٹونا اور سرحد میں خان عبدالقیوم نے من مانی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس طرح سندھ کے گورنر شیخ دین محمد نے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمد ایوب کھوڑو اور وزیر ہلال قاضی فضل انڈ کے خلاف پیر وڈا کے تحت مقدمات دائر کر دیے۔ مشرقی پاکستان میں اردو کے مقابل بنگالی زبان کو پاکستان کی قومی زبان بنانے پر وہاں کے طلباء نے ایچی ٹیشن شروع کر دی۔ غرض ہر صوبہ کے حاکم اعلیٰ نے اپنی اپنی سیاسی ضرورت کے لیے کبھی الیکشن کا چنگامہ کبھی آٹے کی قلت کا سوال اور کبھی بنگالی اور اردو کے تصادم سے عوام کو مرکزی حکومت کے خلاف اکسایا۔

پاکستان کے ایسے حالات کو مرزا یوں نے اپنے لیے مفید پا کر اکھنڈ بھارت کے الہامی عقیدے کی تبلیغ شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے مختلف انجیال رہنماؤں کو مرزائیت کے متعلق سوچنا پڑا۔ ایمر شریعت ۱۹۴۹ء میں سیاسیات سے علیحدگی کے بعد قادیانیت کے استحصال کے لیے ہمہ تن مصروف تھے کہ ۹ مئی ۱۹۵۱ء کو برکت علی ہال لاہور میں ایک کنونشن بلا لایا گیا، جس میں ایمر شریعت بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس کے اختتام پر مرزائیت کے خلاف سارے مغربی پاکستان میں تحریک کا آغاز ہوا، لیکن حکومت کے سامنے مطالبات رکھنے کے لیے کنونشن کے مختلف اجلاس لاہور اور کراچی میں ہوئے۔ اس اثناء میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے مابین حالات نے کئی کرڈیں لیں۔ حکمرانوں کو غافل پاکر مرزائی لیڈر مرزا بشیر الدین محمود نے کمنٹا شروع کر دیا:

۱۔ "اجتہادیت کے مخالف عقرب مرزا صاحب یا ان کے کسی جانثار کے

ساتنے مجرموں کی طرح پیش ہوں گے۔“

(خطبہ جمعہ لبشیر الدین محمود - ۳ - جنوری ۱۹۵۲ء)

۲: ”احمدیوں کو تکفین کی گئی ہے کہ وہ فوجی محکموں کی طرح گورنمنٹ کے دوسرے محکموں میں بھرتی ہونے کی کوشش کریں تاکہ تبلیغی پروگرام کو تقویت پہنچے۔“

(خطبہ جمعہ لبشیر الدین محمود - ”الفضل“ - ۱۱ - جنوری ۱۹۵۲ء)

نیز مرزا شیوں کو ہدایت کی گئی:

”ایسے حالات پیدا کر دو کہ ۱۹۵۲ء گزرنے سے پہلے پہلے دشمن اصرار کے آغوش میں گرنے پر مجبور ہو جائیں۔“

(”الفضل“ - ۱۴ - جنوری ۱۹۵۲ء)

مرزائیوں کی ان اشتعال انگیز تحریروں نے پاکستانی عوام کو اس قدر مشتعل کیا کہ وہ وطن عزیز اور ایمان ایسی گرانبار دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے تدبیریں سوچنے لگے۔ امیر شریعت کی صحت اور . . . ان کا ذاتی معالج (حکیم عطار اللہ خاں) انہیں کسی قسم کے سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن توہین خاتم الانبیاء کے باعث امیر شریعت اپنی بیماری کو بھول چکے تھے۔ تحریک راجپال کے بعد یہ دوسرا موقعہ تھا کہ امیر شریعت مرزا سیت کے خلاف اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ اس سے پیشتر انہیں کبھی اتنا متشدد نہیں دیکھا گیا تھا۔

”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے آگے ”لابی بعدی“ کا جملہ ہر مجمع میں کہتے اور عوام کو تاکید کرتے کہ:

”مقام نبوت ایسے خطرناک موڑ پر آن پہنچا ہے، اگر آج اس کی حفاظت نہ کی گئی، تو قیامت کے دن ہم سب کی بخششوں کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔“

ایک سوال پر گواہ نے کہا کہ جبکہ شارٹ ہینڈ نوٹوں میں چھوڑنی تھی۔  
 س: کیا یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ جہاں آپ کا خیال ہو جبکہ چھوڑ دیا کوئی خاص جگہ چھوڑنے  
 کے لیے کہا گیا تھا۔

ج: کہیں ایک لائن کہیں دو لائنیں۔

س: میرا سوال یہ ہے کیا یہ قطعی سولت دی گئی تھی کہ کس طرح جگہ خالی چھوڑی جائے؟  
 ج: نہیں، خاص طریقے کی ہدایت نہیں دی گئی تھی۔

س: یہ ہدایات کس کی تقریروں کے متعلق تھیں؟  
 ج: سید عطار اللہ شاہ کی تقریر کے متعلق۔

س: تقریر کہاں کرئی تھی؟

ج: پرفارمی میں۔

س: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جبکہ چھوڑنے کے متعلق کیوں ہدایت کی گئی تھی؟  
 ج: مجھے پتہ نہیں۔

س: آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے کسی سے خیال بھی ظاہر نہیں کیا؟  
 ج: نہیں۔

س: آپ قیاس بھی نہیں کر سکتے تھے؟

ج: قیاس تو ہر شخص کر سکتا ہے ایک معمولی سا ملازم بھی۔

عدالت سے تحفظ کی درخواست | س: کیا پہلا موقع تھا جب آپ نے اس طرح  
 خالی جگہ چھوڑی؟

ج: اگر عدالت مجھے تحفظ دے تو میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔

چیف جسٹس: آپ کو تحفظ دیا جاتا ہے، لیکن اگر سبھی خیال ہوا کہ آپ کا جواب غلط ہے تو  
 مقدمہ چل سکتا ہے، اگر درست ہوا تو نہیں۔



لدھارام، میری عرض یہ ہے کہ میں جن واقعات کے متعلق جواب دوں گا، اس میں مقدمہ چل کر مزا ہو سکتی ہے۔

مستر سلیم، ہائی لارڈ، میری درخواست ہے کہ یہ کارروائی میں لکھا جائے کہ گواہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس سوال کا جواب دے۔ اس میں سب کچھ آجاتا ہے۔

میاں عبدالعزیز، لیکن اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گواہ جواب دینے سے انکار کر دے۔

چیف جسٹس، محض یہ سوال دریافت کیا جائے کہ کیا گواہ کو پہلے بھی یہ ہدایت ملی تھی۔  
مستر سلیم نے یہی سوال کیا جس کے جواب میں گواہ نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ہدایات ملی تھیں۔

مستر سلیم، آپ کو ہدایات کب ملی تھیں؟

اس مرحلے پر وکیل معنائی میاں عبدالعزیز نے درخواست کی کہ اس سوال کے جواب میں گواہ کو سخت دیا جائے۔

چیف جسٹس، یہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ گواہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہدایات ملتی رہی ہیں۔

میاں عبدالعزیز، لیکن اس معاملہ میں گواہ کو ضرور سخت دینا چاہیے۔

چیف جسٹس، صرف اس خاص سوال کے جواب میں سخت دیا جائے گا۔

مستر سلیم، گواہ سے، سید بخاری کے جلسے کے متعلق آپ کو ہدایات دی گئی تھیں، کیا اس وقت بھی کوئی چٹھی آئی تھی؟

ج: چٹھیاں تو کئی آئی رہتی ہیں۔

مستر جسٹس رام لال، کیا اس خاص جلسے کے متعلق کوئی چٹھی دکھائی تھی؟

لدھارام: جی ہاں۔

ختم المسلمین کی عزت و ابرو پر قربان ہونے والو، مبارک ہیں ان کے والدین  
 کہ ان کے نذرانے سرکارِ سالتمآب میں شرفِ قبولیت حاصل کر گئے۔

یوں تو اس دنیا میں ہزاروں بچے جنم لیتے ہیں اور مرتے ہیں ہزاروں  
 کلیں کھلتی ہیں اور بادِ سموم کے پھٹیڑوں کی تاب نہ لا کر مرجھا جاتی ہیں۔ مگر  
 وہ موت جو حق اور راستی کی راہ میں آئے، حیاتِ جاوداں بن کر آتی ہے۔

جو موت آئے تو زندگی بن کے آئے

قضا کی زالی ادا چاہتا ہوں

مجلس عمل کا قیام | صدرِ مملکت بننے کی خواہش میں ملکِ غلام محمد گورنر جنرل، خواجہ  
 ناظم الدین کی کیبنٹ میں اپنا اثر بڑھا رہے تھے، اور اس میں وہ

اچھے خاصے کامیاب رہے۔ کیبنٹ کے پارلیمانی اختیارات آہستہ آہستہ گورنر جنرل کے  
 ہاتھ میں آگئے اور فیصلوں کی تمام ذمہ داری گورنر جنرل کے قبضے میں چلی گئی۔ مرکزی اور  
 صوبائی حکومتوں کی اس باہم کھینچا تانی نے مرزائیت کے خلاف تحریک کو زیادہ ہوا دی۔

پنجاب کے وزیرِ اعلیٰ میاں ممتاز محمد خاں دولتانہ کی نواب افتخار حسین آف ممدوٹ  
 سے اندرون خانہ چل رہی تھی۔ نواب ممدوٹ نے سرحد کے مجدد القیوم خان سے دولتانہ  
 کے خلاف سمجھوتہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف دولتانہ مرکزی حیثیت حاصل کرنے کی غرض  
 سے خواجہ ناظم الدین کے خلاف ابھرتی ہوئی مسلمان ایچیٹیشن کو اراکین نظر انداز کر  
 رہے تھے۔

یہ تھا پس منظر جس نے عوام میں یہ تاثر دیا کہ مرزائیت کے خلاف تحریک دولتانہ  
 کی پیداوار ہے۔ حالانکہ دولتانہ مرکز سے اور نواب ممدوٹ سے اپنا سیاسی انتقام  
 لے رہے تھے۔

ایسے حالات میں مرزائیوں کی بڑھتی ہوئی ریشہ و روایتوں نے عوام کو موقع دیا کہ وہ

حکومت سے مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کریں۔  
جھاگیر پارک میں ظفر اللہ خاں کی تقریر کے بعد کراچی میں ۲۔ جون ۱۹۵۲ء کو آل پاکستان مسلم  
پارٹیز کنونینشن طلب کیا گیا۔ جس میں دو دن کی مسلسل بحث کے بعد حسب ذیل قرارداد  
کی تشکیل کی گئی۔

۱۔ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔

۲۔ چودھری ظفر اللہ وزیر خارجہ کو اس کے عہدے سے الگ کر دیا جائے۔

۳۔ مرزائیوں کو تمام کلیدی آسامیوں سے ہٹا دیا جائے۔

ان مطالبات کی تصدیق کے لیے ۱۳۔ جولائی ۱۹۵۲ء کو لاہور برکت علی ہل میں

آل مسلم پارٹیز کنونینشن کا پھر اجلاس ہوا، جس میں حسب ذیل حضرات کی ایک مجلس عمل  
مرتب کی گئی۔

۱۔ مولانا ابوالحسنات محمد احمد قادری صدر جمعیتہ علمائے پاکستان

۲۔ مولانا امین احسن اصلاحی (جماعت اسلامی)

۳۔ مسٹر تاج الدین انصاری (احوار)

۴۔ شیخ حسام الدین (احوار)

۵۔ مولانا عبدالحلیم قاسمی (جمعیتہ علمائے اسلام)

۶۔ مولانا محمد طفیل (جمعیتہ علمائے اسلام)

۷۔ مولانا محمد بخش نسلم (جمعیتہ علمائے پاکستان)

۸۔ مولانا غلام محمد ترنم (حزب الاخوان)

۹۔ مولانا غلام دین (حزب الاخوان)

۱۰۔ مولانا داؤد غزنوی (جمعیتہ اہل حدیث)

۱۱۔ مولانا عطاء اللہ حنیف (جمعیتہ اہل حدیث)

- ۱۲ — مولانا نصر اللہ خاں عزیز جماعت اسلامی)
- ۱۳ — حافظ کفایت حسین (ادارہ تحفظ حقوق شیعہ)
- ۱۴ — منظر علی شمسی (ادارہ تحفظ حقوق شیعہ)
- ۱۵ — مولانا نور الحسن شاہ بخاری (تنظیم اہل سنت والجماعت)
- ۱۶ — صاحبزادہ فیض الحسن (انجمن سجادہ نشیناں پنجاب)
- ۱۷ — مولانا عبد الغفور ہزاروی (انجمن سجادہ نشیناں پنجاب)
- ۱۸ — علامہ علاؤ الدین صدیقی (نامزد)
- ۱۹ — مولانا اختر علی خاں (نامزد)
- ۲۰ — مولانا مرتضیٰ احمد خاں میکیش (نامزد)

جلس عمل نے ۲۳۔ جنوری ۱۹۵۲ء کو وزیر اعظم پاکستان سے مل کر انہیں اپنے مطالبات پیش کیے اور ایک ماہ کا نوٹس دے دیا کہ اگر ۱۲۔ فروری ۱۹۵۳ء تک مجلس عمل کے متذکرہ مطالبات منظور نہ کیے گئے تو مجلس اپنے مطالبات منوانے کیلئے راست اقدام کرنے پر مجبور ہوگی۔

اس دوران دوسری جماعتوں کے مقررین کے علاوہ امیر شریعت نے پنجاب، سندھ اور سرحد میں تقریریں کر کے مسئلہ ختم نبوت کو عوام کے سامنے بڑی وضاحت سے بیان کیا اس ضمن میں پشاور کے چوک یادگار کی ایک تقریر کے اقتباس خاص اسمیت رکھتے ہیں مفتی سرحد مولانا عبد القیوم پوپلڑی کی صدارت میں تقریباً ساٹھ ہزار نفوس کی حاضری میں امیر شریعت نے فرمایا:

۱۰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں ہر نبی کے بعد آنے والے دوسرے نبی کی پہلے اطلاع دے دی۔ چنانچہ تمام انبیا کرام علیہم السلام اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت

دیتے رہے۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ نبوت خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آن پہنچا۔

آپ نے فرمایا کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْ مَّجَالِكُمْ وَلَكِن مَّرْسُولَ اللَّهِ  
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۝

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں  
ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔

اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا اور یہ سلسلہ نبوت جاری رہتا  
ہوتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ اعلان نہ فرماتے کہ انا خاتم النبیین

لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا۔  
یہ تاجدارِ مدینہ رحمت و دو عالم، خاتم الانبیاء کی شانِ اقدس پر انتہائی کینہ  
اور گستاخانہ حملہ ہے کہ ایک انگریز کا پروردہ اٹھ کر یہ اعلان کرے کہ قرآن  
پاک کی وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔

(ایک غلطی کا ازالہ)

امیر شریعت نے فرمایا:

”اگر میں آج یہ اعلان کروں کہ میں قائد اعظم ہوں تو کیا تم برداشت

کرو گے؟“

سامعین: ”ہرگز نہیں۔“

امیر شریعت: ”اگر تم اپنے ایک دنیوی لیڈر کا مقام کسی دوسرے شخص کو دینے کی

اجازت نہیں دیتے تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کا پٹھو، تاجدارِ مدینہ  
خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے

یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد ہوں۔

اسی اصول اور ضابطے کے مطابق ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزائیوں نے چونکہ حضور پر نور کے بعد مرزا غلام احمد کو اپنا نبی تسلیم کر کے اپنا تعلق سرکارِ مدینہ سے توڑ لیا ہے، اسلئے ہم ان کے مطابق حضور کے بعد کسی دوسرے نبی کو مننے والا مرتدا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“

امیر شریعت نے قادیانی امام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:

مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ موجودہ ملکی تقسیم غلط ہے، یہ تقسیم ختم کرانے اور دونوں ملکوں کا باہمی افتراق دور کرانے کی وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس عارضی تقسیم کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے گا اور ہندوستان کو پھر اکھنڈ ہندوستان بنایا جائے گا۔“

جو آزادی ایک لاکھ ماؤں، بہنوں کی عزت و آبرو قربان کر کے اردس لاکھ مسلمانوں کا خون بہا کر ایک کروڑ مسلمانوں کی خانہ بربادی کے بعد حاصل کی گئی ہے اس کو عارضی آزادی سمجھنے والا ملک و ملت کا بدترین دشمن نہیں تو اور کیا ہے؟“

یہ بصیرت افزوہ تقریرات ایک بجے تک جاری رہی۔

**راست اقدام** | ۲۳۔ جنوری (۱۹۵۳ء) سے ۲۷ فروری (۱۹۵۳ء) تک واقعات نے کئی کروٹیں لیں۔ صوبائی اور مرکزی حکام نے مجلس عمل کے رہنماؤں کو دھمکایا بھی اور اکثر کارکنوں پر مقدمات بھی دائر کیے۔ اخبارات پر قدغن بھی لگائی گئی، لیکن مرزائیت کے خلاف حوام کا غصہ اُبلتے ہوئے لاوے کی طرح تیز تر ہوتا چلا گیا تا آنکہ ۲۲۔ فروری کا سورج طلوع ہوا۔

خدا اور رسول کے نام پر حاصل کی ہوئی مملکت کے حاکموں پر مسلمانوں کو یقین تھا کہ کچھ بھی ہو، پاک سرزمین پر تختِ ختم نبوت تک پہنچنے والے پاؤں سلامت نہیں رہ سکتے۔

وہ ہاتھ جو سرتاج انبیا کے گریبان تک پہنچنے کی گستاخی کرے گا، اشل کر دیا جائے گا، وہ آگکے پھوٹ  
 دی جائے گی، جس کے ارادوں میں برائی جھلک رہی ہوگی، مگر اپنی کرسیوں کے لیے رٹنے  
 والے حاکموں نے پیغمبر خدا علیہ السلام کی نبوت کو لاوارث قرار دے کر اس سے ایسی بے اعتنائی  
 برتی کہ ۲۲- فروری کا دن امیدویاس کے درمیان گذر گیا۔ اس سے پیشتر لاہور سے کراچی  
 روانہ ہوتے ہوئے امیر شریعت نے دہلی دروازہ کے باغ میں اپنی تقریر کے دوران فرمایا کہ:

”عزیزانِ من! مرزائیت جیسے فتنے کی پرورش برطانیہ نے کی ہے اگر  
 افغانستان ہوتا تو اس فتنے کا کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ امیر حبیب اللہ پر خدا  
 کی ہزار ہزار رحمت ہو، جس نے افغانستان کی حدود میں مرزائیت کو داخل  
 نہ ہونے دیا۔“

مرزا غلام احمد قادیانی نے امیر حبیب اللہ کو ایک خط لکھا کہ میں نبی  
 بن گیا ہوں تم مجھ پر ایمان لاؤ۔

امیر حبیب اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جواب دیا ”ابنِ جابیا“۔  
 مرزا غلام احمد وہاں کیسے جانا، اور اگر چلا جاتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا اور مرزا غلام احمد  
 کا دماغ درست ہو جاتا۔

آج یہ اجتماع تاریخی اجتماع ہے، جو مرزائیوں اور سلف اللہ کے خلاف  
 مظاہرہ کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے۔ یہ اجتماع مجلس عمل کے زیرِ اہتمام ہو رہا ہے۔  
 میں خواجہ ناظم الدین صدر مسلم لیگ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ  
 مسلم لیگ کو قوم کی واحد نمائندگی کا دعویٰ ہے۔ آج لاہور کے تمام مسلمان  
 جمع ہیں جو مرزائی ذریعہ راجہ کے خلاف عدم اعتماد اور اپنی بیزاری کا اظہار  
 کر رہے ہیں۔

یہ وہی جلسہ گاہ ہے جہاں کئی سیاسی تحریکات نے جنم لیا، اور پروان

پڑھیں۔ نہرو رپورٹ کے سلسلہ میں بھی غالباً اسی باغ میں تاریخی اجتماع ہوا تھا اور آج مرزا بیوں کو اقلیت قرار دینے اور سر ظفر اللہ کو اس کی ذمہ داریوں سے صیغہ کرنے کے لیے بھی اسی باغ میں اجتماع ہو رہا ہے۔

میں کتا ہوں خواجہ ناظم الدین صدر مسلم لیگ کی حیثیت سے اس باغ میں ایک جلسہ منعقد کریں اور اسلامیان لاہور کو اس میں شرکت کی دعوت دیں جلسہ کی صدارت خواجہ صاحب خود کریں، اور پھر ظفر اللہ کے متعلق عوام کا ووٹ حاصل کریں، ان باتوں کا فیصلہ آج ہی ہو جائے گا۔ اگر خواجہ صاحب کے فرمان پر کوئی آدمی بھی نہ آیا تب بھی فیصلہ ہو گیا، اور اگر لوگوں نے اگر ظفر اللہ کے خلاف عدم اعتماد اور ہزاری کا اظہار کر دیا تب بھی فیصلہ ہو گیا۔

خواجہ صاحب نے پچھلی دفعہ ایک تقریر میں کہا تھا کہ کسی کے پیچھے ہجوم کا ہو جانا کسی جلسے میں زیادہ حاضری اور کثیر اجتماع اس امر کی دلیل نہیں کہ اسے عوام کا اعتماد حاصل ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ "خواجہ صاحب ساری زندگی تو اسے دلیل اور مدار قرار دیتے رہے، وہ اب کیوں گریز فرما رہے ہیں؟ اور اگر اجتماع دلیل نہیں اور کسی کے ساتھ اکثریت کا ہو جانا مدار نہیں تو پھر مسلم لیگ کو واحد نمائندگی کا حق کیسے حاصل ہے؟ اور پھر آپ کس واحد نمائندہ جماعت کے صدر اعظم ہیں؟"

امیر شریعت نے آئی۔ جی پولیس میاں انور علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"کیا میاں صاحب نے "الفضل" میں شائع شدہ مرزا محمود کا خطبہ یا بیان

پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو اب پڑھیں اور اس کے ساتھ ان پرچوں کو بھی پڑھیں جن میں "الفضل" نے "خونی ملا کے آخری دن" لکھ کر علمائے کرام کو قتل کی دھمکی دی تھی؟



## ”الفضل“ کی عبارت

”ہاں آخری وقت آن پہنچا ہے۔ ان علمائے حق کے خون کا بدلہ لینے کا، جن کو یہ علماء قتل کراتے آئے ہیں۔ اب ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔“

(۱؛ سید عطار اللہ شاہ بخاری سے (۲) ملا بدایونی سے، (۳) ملا احتشام الحق سے (۴) ملا محمد شفیع سے (۵) ملا مودودی پانچویں سوار سے“

(”الفضل“۔ ۱۵۔ جنوری ۱۹۵۲ء)

آپ یہ اقتباس پڑھ کر سنا رہے تھے کہ مجمع سے ایک آواز آئی ”حکومت اس وقت کہاں سو رہی تھی“

”حکومت تو وہیں سو رہی تھی جہاں اب ہے، لیکن تم کہاں سو رہے ہو؟ جو اس مشین کے پرزے جو میں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں دولتانا سے ملاقات کی اور ڈاکٹر کیڑے لعلقات عامر کی وساطت سے اخبار ”الفضل“ کا اقتباس پڑھ کر سنا یا تو میاں صاحب نے ایکشن لینے کا وعدہ کیا“

آخر میں امیر شریعت نے فرمایا:

”مجلس عمل کا جو وفد خواجہ ناظم الدین سے ملا تھا، اس وفد کے سامنے خواجہ صاحب مرزائی وکیل کی حیثیت سے پیش آئے اور رضی بروزی کا ہجڑا لے بیٹھے۔“

میں پوچھتا ہوں، خواجہ صاحب ایک وزیر ہیں، انہیں شیخ الاسلام کس نے بنایا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی کی وفات کے بعد خواجہ صاحب خود بخود شیخ الاسلام کے فرائض بھی انجام دینے لگ گئے ہیں۔“

عوام سے خطاب کرتے ہوئے امیر شریعت نے کہا:

”تم ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کرو۔ میں تمہارے کتے پالنے کو تیار ہوں“

میں تمہارے سوچاؤں کا۔ میں کہتا ہوں مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، ملک تقسیم کرایا ہے، یہ انجمن احمدیہ نے نہیں بنایا۔ مرزا محمود اور ظفر اللہ کا پاکستان سے کیا تعلق؟ یہ دم بریدہ سگانِ برطانیہ آج پاکستان میں دندنا رہتے ہیں۔ ہم ان کی یہ خدارانہ سرگرمیاں ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔

**گفتاری** ۲۲۔ فروری کے بعد مجلس عمل نے راست اقدام جطریق کار پر غور کرنے کے لیے ۲۶۔ فروری ۱۹۵۲ء کو کراچی میں اپنا ایک اجلاس منعقد کیا۔ جس کی صدارت مولانا ابوالحسین نے کی اور حسب ذیل قرارداد منظور کی۔

۱۸۔ جنوری کے کنونشن میں مرکزی حکومت کو جو نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ چونکہ مجلس عمل کے ایک وفد نے اس حکومت کے حوالے کر دیا تھا اور ۲۲۔ فروری کو اس نوٹس کی میراث ختم ہو گئی ہے، بلکہ مزید چار دن بھی گزر چکے ہیں، اس لیے اب پر امن راست اقدام کی شکل کا فیصلہ کیا جانا ضروری ہے۔

راست اقدام کی شکل کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ پانچ رضا کار ایسے چننے اور اٹھائے ہوں گے جن پر مطالبات مثبت ہوں گے۔

شاہراہ عام پر سے نہیں بلکہ چھوٹی سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے وزیر اعظم کی کوٹھی پر جائیں گے۔ اگر وہاں سنتر می ان رضا کاروں کو روکے گا تو وہ اس سے کہیں گے کہ وہ وزیر اعظم کی خدمت میں مطالبات پیش کرنے اور ان کو تسلیم کرنے کی درخواست کرنے آئے ہیں، اور وہ اسی صورت میں واپس جائیں گے کہ وزیر اعظم ان مطالبات کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں۔

اگر یہ رضا کار گرفتار کر لیے جائیں گے تو مجلس عمل پانچ رضا کاروں کا ایک اور دستہ بھیج دے گی اور یہ سلسلہ پرامن طریقے پر اس وقت تک جاری

رہے گا جب تک مطالبات تسلیم نہ کیے جائیں گے۔  
گورنر جنرل کی کونٹری پر بھی اسی قسم کا پورہ لگایا جائے گا، تاکہ یہ نہ سمجھا  
جائے کہ اس تحریک کا رخ محض خواجہ ناظم الدین کی طرف ہے، کہ وہ  
بٹنگالی ہیں۔

مولانا ابوالحسنات محمد اس تبرک تحریک کے پہلے ڈکٹیٹر مقرر  
کیے گئے اور انہیں گرفتاری کی صورت میں اپنے جانشین کی نامزدگی کا  
اختیار دے دیا گیا۔ یہ بھی قرار دیا گیا کہ اسی دن شام کو آرام باغ میں جو  
جلسہ عام ہو رہا ہے اس میں عوام کو مشورہ دیا جائے کہ وہ حسب معمول  
اپنے کاروبار میں مصروف رہیں اور رضا کاروں کے ساتھ نہ جائیں۔

۲۶۔ فروری کو آرام باغ میں مجلس عمل کا عظیم اجتماع ہوا جس میں راست اقدام  
کیٹی کے منتخب ارکان کے علاوہ حضرت امیر شریعت نے حسب ذیل تقریر کی:-  
خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے فرمایا:

”مرزائی افسروں نے اپنے عہدوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے  
اسلامیہ پاکستان کو کافر اور مرتد بنانے کی ایک ہمہ گیر تحریک کے ساتھ  
ساتھ اپنے اہامی عقیدے کی بنا پر پاکستان کو ہندوستان سے ملانے  
کی ناپاک تحریک بھی شروع کر رکھی ہے۔ مجھ نے اور سادہ لوح مسلمان  
اقتصادی بد حالی اور معاشی الجھنوں سے تنگ آکر ان کے دام تزدیر کا  
شکار ہو رہے ہیں، اور اس طرح مرزائی ان کے ایمان پر ڈاکو ٹانٹنے میں  
کامیاب ہو جاتے ہیں

۶۔ اگست ۱۹۵۲ء کو پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے ایک آرڈینی منس  
کے ذریعے سرکاری ملازمین پر پابندی عائد کی تھی کہ وہ کسی مخصوص فرقہ کے

عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔

مرزائی افسران نے اس آرڈینیمنس کا جو مذاق اڑایا وہ حکومت اور حوام دونوں کے سامنے ہے۔

سب سے پہلے مرزائی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ نے اس قانون کی مخالفت کرتے ہوئے بیان دیا کہ ہم اپنے مذہبی عقاید اور ضمیر کی تبلیغ سے باز نہیں رہ سکتے اس کے بعد میاں نصیر احمد فاروقی چیف سیکرٹری حکومت سندھ، خان بہادر ڈاکٹر سید احمد سہیل، ڈپٹی سینیٹور سینیٹور سینیٹور سینیٹور، کرنل سید شبیر حسین شاہ، انسپٹر جنرل جیل خانہ جات اور ان کے علاوہ دوسرے مرزائی افسران نے کئی بار کلمے جیسوں کی صدارتیں کر کے کفر و ارتداد کی تبلیغ کی، اور سرکاری احکام کا کلمہ کھلا منہ پڑایا، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دراصل حکومت خود مرزائیت کی تبلیغ کر رہی ہے۔

ان کے مقابل اگر مسلمان اپنے دینی عقاید اور اسلامی روایات کی تبلیغ کریں تو اسے سرکاری اثر ڈال کر بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کی قومیں ارباب اقتدار سے اپنے مطالبات کتنی ہیں۔ اور حکومتیں انہیں تسلیم بھی کرتی ہیں۔ مگر ہمارے ارباب اقتدار عجیب ہیں۔ پوری قوم متفقہ طور پر ان سے مطالبہ کر رہی ہے لیکن ارباب اقتدار کے مہرے کانوں تک کوئی آواز نہیں پہنچ رہی اور وہ ملت اسلامیہ کی آواز کو سنی ان سنی کر رہے ہیں۔ مسلمانان پاکستان نے تاج تختِ نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے اور ان کی وزیر خارجہ کو وزارت سے برطرف کرنے کے متعلق حکومت سے جو مطالبات کیے تھے ارباب اقتدار ان مطالبات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور مختلف جیلوں بہانوں سے

تحتفظ ختم نبوت کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا خواجہ ناظم الدین بھی مرزا بشیر الدین محمود کے ہاتھ پر سجیت کر چکے ہیں۔ جیسی تو مرزائیوں کے متعلق پوری قوم کے مطالبات کو درخور اعتنا نہیں سمجھ رہے۔ مجھے خصوصی حلقوں سے معلوم ہوا ہے کہ خواجہ ناظم الدین اور مرزائیوں کے درمیان کوئی رشتہ نامی بھی ہو چکے ہیں اگر صحیح ہے تو مسلمان کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ مسلمان قوم کے حکمران وہی ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہوں اور محمد عربی کے خلام۔ محمد عربی کے باغی، کافر اور مرتد مسلمان قوم کے حکمران نہیں رہ سکتے۔

تقریر کے آخر میں آپ نے غصے اور جذباتی لہجے میں فرمایا:

”آل مسلم پارٹیز کنونشن نے حکومت کو ایک ماہ کا نوٹس دیا، جس کی میعاد چار دن ہوئے ختم ہو چکی ہے۔ ایک ماہ کے مسلسل صبر آزما اور توجہ کے باوجود حکومت نے جس بے اعتنائی کے ساتھ مسلمانان پاکستان کے متفقہ مطالبات کو ٹھکرایا یا اس حکومت کے زوال کی نشانی ہے“

عوام سے خطاب کرتے ہوئے:

”آپ حضرات میری زندگی کے گزشتہ تیس، بتیس سالوں کو جانتے ہیں میں نے جس کام میں ہاتھ ڈالا، اپنے ضمیر سے مطمئن ہو کر ڈالا۔ پھر چاہے مائتے میں جو آئے، میں نے اسے ہمیشہ ٹھکرا دیا۔ انگریز جیسی جابر سلطنت جب میرے مطالبہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکی تو اس ملک کے حکمران اجنبوں نے یہ ملک اللہ اور رسول کے نام پر حاصل کیا تھا اور آج اسی ملک میں وہ اپنے قوانین اور حکومت کے زور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوانین کے منکب ہو رہے ہیں، کیونکہ ٹھہر سکتے ہیں۔“

۲۲۔ فردری کے بعد تائیں دم ہم حکومت کے فیصلے کے منتظر رہے، گروہ خاموش  
تماشائی کی طرح ہمارے جذبات کا امتحان لیتی رہی۔ اس رات کے بعد قوم جو  
قدم اٹھائے گی، اس کی ذمہ داری پھر حکومت پر ہوگی۔ مسلمان ناموس مصطفیٰ  
کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے سے دریغ نہیں کریں گے۔“

اس اجتماع میں غیر ملکی پولیس اور فوٹو گرافرز کے علاوہ امریکن ایمبیسی کے ارکان بھی  
موجود تھے۔ امیر شریعت کے انداز خطابت، طرز تکلم کو دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ کہا،  
”اگر یہ شخص امریکہ میں ہوتا تو تمام عمر امریکہ کا صدر رہتا۔“

آرام باغ کی اسی تقریر سے متاثر ہو کر سندھ کے ایک وڈیرے نے سعودی عرب سے  
اپنے ایک دوست کو خط کے ذریعے اطلاع دی۔

”اگر ۲۶۔ تاریخ کو آرام باغ میں مید عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر نہ سنتا، تو  
شاید میں گمراہ ہو جاتا۔ الحمد للہ کہ ان کی تقریر نے مجھے گمراہی سے بچایا۔  
ورنہ قریب تھا کہ میں مرزائی ہو جاتا۔“

رات دو بجے کے قریب یہ اجتماع ختم ہوا تمام رہنما دفتر تحفظ ختم نبوت (بندر روڈ کراچی)  
میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ ابھی وہ نیند سے آنکھ چولی کھیل رہے تھے کہ پولیس  
کی بھاری جمعیت نے دفتر کی تمام عمارت کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ کراچی کے ذہن دار  
پولیس افسروں نے رہنماؤں کو جو اس وقت دفتر میں موجود تھے، گرفتار کر لیا۔ یہ ۲۶ فردری  
صبح چار بجے کا واقعہ ہے جس میں حضرت امیر شریعت اور ان کے رفقاء مولانا سید  
ابوالحسنات قادری، امیر تاج الدین انصاری، صاحبزادہ عین الحسن، مولانا مجمل حسین اختر،  
سید ظفر علی شمسوی اور مولانا عبدالرحیم جوہر قابل ذکر ہیں۔

امیر شریعت کی گرفتاری کے بعد مغربی پاکستان سے سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا  
گیا۔ سارے ملک نے لہجہ نوح کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شہر میں حکام اور عوام کے

درمیان تصادم ہوا۔ منڈیاں بند ہو گئیں، شہروں میں ہڑتال کر دی گئی، سرکاری عمارت کو نقصان پہنچایا گیا۔ سیدل کی پٹریاں اکھاڑ دی گئیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ۶ مارچ ۱۹۵۳ء کو لاہور شرفوج کے حوالے کر دیا گیا۔

**کراچی جیل** | زندگی کا سفر طویل ہو کہ مختصر، انسان اس راستے سے گزرتے وقت ان موڈوں یا صعوبتوں سے ناواقف ہونا ہے، جہاں کبھی تو اس کا دامن تارتا رہتا ہے اور کبھی خود ابلد یا ہو کر صحرا کی دیران و خشک وادیوں کو گلھائے رنگا رنگ سے مزین کر دیتا ہے، اسی جن زار کی بہاریں پھر نسیم صبحگاہی کو جب زندگی کا پیغام دیتی ہیں تو نہ صرف گل بوٹوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے بلکہ آشیانوں میں طیور بھی لالہ و گل سے ہمہکلام ہو کر نضاؤں میں جھومنے لگتے ہیں۔

یہ سارا کچھ انسان کے عزم پر موقوف ہے، اگر اس میں سختگی نہ ہو تو جو صلے کی بندی بھی انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔

تینتیس برس ہوئے کہ امیر شریعت صرف ایمان کو زاد راہ بنا کر عزم و ارادے کے پیر بن میں گھر سے نکلے تھے، اس طویل سفر میں قدم قدم پر جن سنگلاخ وادیوں سے ان کا گذر ہوا، اس منزل کا ہر موڑ گواہ ہے اور اس راستے کی ہر شے شہادت دے گی کہ بادِ سموم کے تند تیز جھونکے بھی اس مردِ دہلیز کے عزم و استقلال کی دیواریں نہ گرا سکے۔

سفینہ بزرگ گل بنا لے گا، اتافلہ صویر ناتواں کا

ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا

تحریک ختم نبوت سے پیشتر کئی سال ہوئے امیر شریعت کے تمام جہانی اعضاء ان سے بناوت کر چکے تھے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی کہ عینک لگانے کے عادی ہو گئے۔ دانت ایک ایک کر کے جواب دے گئے اور ان کی جگہ اجنبی دانتوں نے سنبھال لی۔ دردِ گردہ کے ایسے مریض ہوئے کہ معالج نے خوراک سے چا دل ہمیشہ

کے ایسے نکال دیے تبخیر معدہ کے باعث کئی کئی گھنٹے پریشان پڑے رہتے، پھر ان سب کی بڑھاپے نے اس قدر حوصلہ افزائی کی کہ ہر مرض بذات خود بغاوت کا علم لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور نقاہت کے آثار اس تیزی سے ابھرے کہ چہرے کی بھریاں صاف دکھائی دینے لگیں، اور امیر شریعت تادیح ماضی کے کھنڈرات کے سوا کچھ باقی نہ رہے ان حالات میں وہ کراچی جیل خانہ میں لائے گئے۔

ستارے رات بھر کے سفر سے تھک ہار کر اذگھر رہے تھے۔ کائنات کی سیاہ چادر پر آسمان کی روشن قندیلیں صبح صادق کے اجالے سے منہ پھپھاپہی تھیں کہ مؤذن نے الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کا اعلان کر کے مسجد کے میناروں کو گواہ بنا لیا کہ اس نے سوئی ہوئی انسانیت کو تلاشِ صداقت کا راستہ تجویز کر دیا ہے ورنہ انسان ہے کہ اپنا اثاثہ حیات ضائع کر کے ایسا سویا ہے کہ صورِ اسرافیل سے پہلے اس کا بیدار ہونا مشکل نظر آ رہا ہے۔ مولانا ابوالحسنات کی امامت میں امیرانِ ختم نبوت نے جیل خانہ میں صبح کی پہلی نماز ادا کی اور پروردگار عالم کے حضور دعا کی۔

”اے رب العزت! ہمارا کوئی جرم اس کے سوا نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو باقی رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ مگر تیرے دیندار لوگوں نے ایوانِ سلطنت میں بیٹھ کر ہماری فرود جرم پر ہمارے بانہی ہونے کی مرثیت کی ہے، مگر تو دلوں کو جانتے والا ہے کہ ہماری لڑائی اپنی ذات اپنے کسی منصب کے لیے نہیں بلکہ تیرے ارشاد کی تعمیل میں ہے کہ

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا“

رہنماؤں کی آنکھوں میں آنسو، دلوں میں جذبات کا طوفان اٹھ آیا۔ امیر شریعت کی سفید ڈاڑھی پر گرنے والے آنسو پھولوں پر شبنم کی بہاریں دکھا رہے تھے پرنٹمنٹ جیل خانہ



عنایت اللہ خاں حیدرآبادی نے امیر شریعت اور ان کے رفقاء سے کہا: "آپ حضرات جن کو ٹھٹھریوں میں لائے گئے ہیں، یہ وہی خوش بخت کو ٹھٹھریاں ہیں کہ جہاں ۱۹۲۱ء میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شوکت علی، ملک محمد سیف الدین کچھو بخت کے برم میں رہ چکے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ انگریزی اقتدار اور جو روسم کی سیاری تاریخ نقش بہ دیوار بن کر ابھرائی۔ جیل خانے کی ایک ایک اینٹ پس دیوار زباناں کی کہانی بیان کرنے لگی۔ امیر شریعت نے جیل خانے کے در دیوار سے خطاب کرتے ہوئے کہا:۔

”اے اونچی دیوار، آہنی دروازو! تم گواہ رہنا کہ مولانا حسین احمد

مدنی، مولانا محمد علی جوہر اور ان کے رفقاء وطن عزیز کی آزادی کیلئے ۱۹۲۱ء میں تمہارے مصائب جھیل سکتے ہیں، تو ۱۹۵۳ء میں عطا اللہ شاہ بخاری اور اس کے ساتھی بھی خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آبرو کے لیے تمہارے مصائب و آلام سے خائف نہیں ہوں گے۔“

امیر شریعت کے ان الفاظ پر سپرٹنڈنٹ جیل اور دوسرے افسران بہت متاثر ہوئے۔ کراچی جیل میں گورنر کا یہی طور پر کلاس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا تاہم ٹوراک اونچے درجے کی ملٹی آرہی اور سپرٹنڈنٹ جیل کے بہتر رویے سے وقت اچھا گزارا رہا۔

امیر شریعت دیوبندی، ابوالحسنات قادری بریلوی، فیض الحسن بریلوی، تاج الدین انصاری دیوبندی اور مظفر علی شمس شیعہ عقیدہ ختم نبوت کی طفیل یہ سب امیران ختم نبوت پانچ وقت کی نماز مولانا ابوالحسنات کی امامت میں پڑھتے رہے، انہ تو کسی کا مذہب مصلح ہوا اور نہ ہی کسی کے عقیدے میں فرق آیا، بلکہ ان کی باہم رفاقت نے اکثر شبہات کا ازالہ کر دیا۔

امیر شریعت کے اخلاق اور تواضع نے مولانا ابوالحسنات کو ان کا اس قدر گرویدہ کیا کہ وہ بے اختیار کہنے لگے:

”شاہ جی! آپ تو اس دور کے ولی ہیں۔ مجھے تو آپ سے متعلق بہت

کچھ کہا سنا گیا تھا، لیکن آپ سے قرابت داری نے میری ساری غلط فہمیاں دور کر دیں، الحمد للہ!

امیر شریعت برسن کر مسکرائے اور ”استغفر اللہ“ پڑھتے رہے۔

**حکام کے پیغامات** | اس دوران ایک روز پرنٹنگ ہاؤس جیل، وزیر اعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین کا پیغام لے کر آئے۔

”آپ کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں تشدد کی جو تحریک چل نکلی ہے اور اس کے نتیجے میں سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے آپ اس سے لاشعری کا اظہار کریں تاکہ ملک میں امن قائم ہو۔“ اس کے جواب میں امیر شریعت نے کہا:

”خواجہ صاحب کو میری طرف سے کہہ دو، روح پر قبضہ کر لینے کے بعد آپ

جسم کو تڑپنے کی اجازت ہی نہیں دیتے“

برسن کر پرنٹنگ ہاؤس جیل اپنا سامان لے کر چلے گئے۔

گرفتاریوں کے قریباً پندرہ روز بعد لاہور سے سی، آئی، ڈی کے دو ذمہ داران امر کراچی جیل

میں رہنمایاں ختم نبوت سے ملنے آئے اور کہا:

”اگر آپ حضرات یہ کہہ دیں کہ تحریک ختم نبوت اور تواتر کے ایما پر چلائی

گئی ہے تو حکومت آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔“

مکن ہے نکہت باد مہارمی کی اس پیش کش پر نواسیران قفس کی تیلیوں سے آزادی

پرواز کے شوق میں موسم گل سے نامہ و پیام کرتے، کہ امیر شریعت درمیان میں بول اُٹھے۔

”یہ جھوٹ ہے، دو تواتر ایک دنیا دار انسان ہے، اور تحریک ختم نبوت

پاک بنیاد کی حرکت، اس کی ذمہ داری کسی فاسق و فاجر پر نہیں ڈالی جاسکتی،

جاؤ، اپنی حکومت سے کہہ دو یہ تحریک میں نے چلائی ہے، اور اس کا ذمہ دار

بھی میں ہوں“

امیر شریعت کے یہ تیور دیکھ کر سی، آئی، ڈی کو اپنے، او سے کی ساری بساط اٹھی پڑی۔  
 تحریک اپنے شباب پر تھی، عوام اور حکومت کے درمیان کچھ ڈبڑہ رہا تھا۔  
 مصلحتی سازشوں کے جال صوبائی سیاست کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔

سکھر جیل

پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد جو تحریک ختم نبوت سے پیشتر خواجہ ناظم الدین کی حکومت کے گرد سازش کا ایک مضبوط ہار تیار کر چکے تھے، جس کے باعث سندھ مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کے ممبر اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے محمد ایوب کھٹوند، خواجہ ناظم الدین سے بغاوت کر چکے تھے۔ سرحد پہلے سے باغی تھا۔ تحریک ختم نبوت نے پنجاب کے حالات بھی گورنر جنرل کے حق میں ہموار کر دیے اور خواجہ ناظم الدین کے خلاف ان کی اندرونی سیاست بھی کامیاب ہو کر رہی کہ انہوں نے ۱۶- اپریل ۱۹۵۳ء کو یکایکی خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس سے پیشتر پنجاب کے وزیر اعلیٰ مسٹر دولتانہ کی معزولی پر خواجہ ناظم الدین سے دستخط کر لیے گئے تھے۔

خواجہ ناظم الدین کی جگہ مسٹر محمد علی بوگرہ کو جوان دنوں امریکہ میں پاکستان کے سیر تھے نیویارک سے بلوا کر پاکستان کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔

یہ سارا کچھ ڈرامائی انداز میں ہوا کہ خود حاکموں کو بھی اپنی معزولی کا علم نہ ہو سکا، جیسے خواجہ ناظم الدین نے اپنی برطرفی کا اعلان ریڈیو پر سنا۔

حکام بالا ان کھیل تماشوں میں مصروف تھے۔ شہری عوام، پولیس اور فوج سے دست-گریباں تھے کہ ۲۶ اپریل ۱۹۵۳ء کو حضرت امیر شریعت اور ان کے ساتھ مولانا ابوالحسن صاحبزادہ فیض الحسن، مظفر علی شمسی، عبدالرحیم جوہر کو کراچی سے سکھر جیل میں منتقل کر دیا گیا۔

مغربی پاکستان میں جن جیل خانوں کو اپنے اندرونی ماحول کے باعث خوف و ہراس کا مرکز قرار دیا گیا ہے یا جن کے تاثر کو جرائم پیشہ عناصر نے قبول کرنے سے پناہ مانگی ان

میں سرحد کی برہی پور جیل پنجاب میں ساہیوال اور میانوالی کے جیل خانے، بلوچستان میں مجھ جیل اور سندھ میں سکھر کا جیل خانہ مشہور ہے۔

اتحاد کر جیل خانہ کو دریائے سندھ سے نکلی ہوئی نہر پر تعمیر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے چچر اور کھٹل اس بند ہی خانے کی خاص سوغات ہیں۔ موسم گرما میں سندھ کی پتی ہوئی ریت بادِ موسوم کے دنوں جب آگ اگلتی ہے تو سارا سندھ جہنم کدہ معلوم دیتا ہے۔ اس پر بھی سکھر جیل کی پیداوار (کھٹل اور چچر) محدود نہیں ہوتی۔ حالانکہ پنجاب کی گرم ہوائیں ان بلاؤں کا خاتمہ کر دیتی ہیں لیکن سکھر کا جیل خانہ اپنی ان خصوصیات کے ساتھ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت امیر شریعت امدان کے رفقا جب اس جیل میں داخل کیے گئے تو موسم گرما اپنے شباب میں قدم رکھ رہا تھا۔ سندھ کے رنگستانوں میں بالوریت کے گھروندوں سے بادِ موسوم کی اٹھکیاں سستی کے قدموں کی تلاش میں سرگرداں تھیں، لیکن پنوں کو لے جانے والے ادنیٰ ان نشانوں کو بھی سمیٹ کر لے گئے تھے۔ مگر عشق ہے کہ ہنوز تلاش محبوب کا روپ دھارے صحراؤں کے دامن تازا کر رہا ہے۔

موسم کے اس جلاؤ میں امیر شریعت کو قانون اور سیاسی انتقام کے طے جُلمے جذبات سے سکھر کے جیل خانہ میں ڈال دیا گیا۔

**خوراک** غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے سیاسی حریف سے جیل خانوں میں ہمیشہ شرافت کا برتاؤ کیا۔ تعلیم، شہرت، خاندانی رکھ رکھاؤ، سزا دیتے وقت وہ ان سب کے پس منظر میں ایک نظر جھانک لیتے تھے اور سیاسی مجرم کے ذاتی اور اجتماعی حقوق ہمیشہ بحال رکھتے، لیکن ۱۹۵۳ء کے مسلمان حکمرانوں نے مذہبی رہنماؤں سے جو سلوک کیا، ماضی قریب کی تاریخ کا اس قدر گھناؤنا باب ہے کہ اس کی پردہ دری سے شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔

حضرت امیر شریعت ۱۹۲۱ء میں پہلی مرتبہ جیل خانے گئے تو انگریزی قانون نے

انہیں اپنے خیال میں بغاوت کا مجرم قرار دیا تھا، اس پر بھی انہیں سپیشل کلاس قیدیوں کی خوراک دی گئی۔ نیز ۱۹۲۰ء تک وہ جب بھی ایمر فرنگ ہوئے، انہیں اسی درجے کا مستحق سمجھا گیا، لیکن ۱۹۵۲ء کی تحریک نہ تو حکومت کے خلاف تھی اور نہ ہی اسے ملکی بغاوت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ خالص مذہبی نوعیت کی تحریک کو بغاوت کہنا اسلام کے بنیادی اصولوں سے عدم واقفیت کے مترادف تھا، مگر اس دور کے مسلم لیگی حکمرانوں نے صرف ذاتی وقار کے لیے اس تحریک کے قیدیوں سے جیل خانوں میں ایسا برتاؤ کیا کہ جیل مینول (JAIL MANUAL) بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔

سکھر جیل کا بلاک نمبر ۶ جس کا رقبہ اپنی وسعت کے اعتبار سے ان قیدیوں کی حیثیت کے مطابق نہیں تھا۔ لیکن حکام جیل نے انہیں یہیں رکھنا مناسب سمجھا۔ اس کے صحن میں نہ تو سائے کے لیے درخت تھا اور نہ پانی کا معقول انتظام، ہر قیدی کو نہالے کے لیے صرف ایک لوٹا پانی ملتا تھا، نو قیدی نو لوٹے پانی لے کر ایک قیدی کے نہالے کا انتظام کرتے اور اس طرح ایک آدمی کی بازی نودن کے بعد آتی تھی۔ خوراک میں چاول کے آٹے کی روٹی، گھاس پھوس اور تیل کے پگھارگی بیڑی، مسور کی دال، قریباً پندرہ دن یہی خوراک دی جاتی رہی کیونکہ بی کلاس کے کاغذات آنے میں دیر ہو گئی تھی، حالانکہ قیدی کی ایک جیل سے دوسری جیل میں تبدیلی کے ساتھ ہی اس کے متعلقہ کاغذات بھیج دیے جاتے ہیں، مگر ختم نبوت تحریک کے قیدیوں سے امتیازی سلوک کے پیش نظر حکام کی یہ حرکت بھی اپنی جگہ عجیب رہی، اس غفلت اور سی کلاس خوراک کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امیر شریعت کی بیماری دشوگر اور درد گردہ) میں اس قدر اضافہ ہوا کہ آخر کو یہی امراض جان لیوا ثابت ہوئیں، کیونکہ حکما کی تاکید تھی کہ چاول کبھی استعمال نہ کریں۔ لیکن چاول کی روٹی بہر حال کھانی پڑی اور بہتر خوراک کے کاغذات پہنچنے تک امیر شریعت اپنی رہی سہی توانائی بھی ضائع کر بیٹھے اور مسور کی دال کا بیٹائی پر بھی اثر ہوا۔ ان دنوں سکھر جیل کا

درج حرارت ۱۲۴ ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔ جیل میں پانی کی قلت، اسائے کی کمی اور خوراک کی بے ضابطگی، ایسی بے اعتدالیوں کو دیکھ کر حضرت امیر شریعت سکھر کے جیل خانہ کو مستقر (جہنم) لکھاتے تھے۔

**محمد علی بوگرہ کی آمد** | تحریک ختم نبوت کے باعث پاکستان کی سیاست میں عاجلانہ طور سے اکثر ایسی تبدیلیاں آئیں کہ عوام اور خود حکمران پارٹی کو بھی اس کا یقین نہیں تھا۔ مثلاً صوبہ سرحد کے خان برادران کا وجود مسلم لیگی حکمرانوں کے لیے دشمنی کا انتہائی بلند مقام رکھتا تھا۔ لیکن سیاسی ضرورت نے راتوں رات دشمنی کو دوستی میں بدل دیا۔ ملک غلام محمد گورنر جنرل پاکستان نے اپنی کابینہ کے رکن سکندر مرزا کے مشورے پر ڈاکٹر خان کو حکومت کے قریب کر لیا۔ عبدالقیوم خاں پہلے سے ہی محمد علی بوگرہ کی وزارت میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوبہ سرحد کی سیاسی چھٹاپش سیدشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن پنجاب کے امن کی باگ ڈور تحریک ختم نبوت کے رہنماؤں کے ہاتھ میں تھی۔ اور وہ سب کے سب جیل خانوں میں تھے، چنانچہ اس کام کے لیے گورنر جنرل پاکستان نے اپنے نامزد وزیر اعظم کو سکھر جیل میں بھیجا۔

”آپ حضرات اگر اپنی تحریک کے سلسلے میں حکومت کے روبرو معتد

کر دیں تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ میں اسی کام کے لیے آپ سے ملنے

آیا ہوں“

وزیر اعظم پاکستان کے یہ الفاظ حضرت امیر شریعت امدان کے ہم اسیرانِ قفس کے لیے نئے نہیں تھے اس سے پیشتر اس قسم کی پیش کش کراچی جیل میں سابق وزیر اعظم کی طرف سے بھی ہو چکی تھی۔

امیر شریعت نے محمد علی بوگرہ کو نہایت مختصر جواب میں فرمایا:

”آپ حضرات کو ہماری اس قدر فکر کیوں ہے، سہ

صبر اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا

کیے جاؤ مے خار و اکام اپنا اپنا

وزیر اعظم پاکستان امیر شریعت کا یہ شعر سن کر تھوڑی دیر ٹھہرے اور واپس چلے گئے۔

جب برائی اپنی منزل پر پہنچ کر دم توڑ دیتی ہے، تو نیکی اپنے سفر کا آغاز  
بھوپت ڈاکو کرتی ہے۔

برائی گفتار میں ہو کر کردار میں، انسانیت کے لیے ہم قاتل ہے، جب اس میں ننگی  
سرائیت کرتی ہے تو اچھا آدمی آدمیت سے محروم ہو کر سماج کی نظر میں آدمی نہیں رہتا بلکہ اس کا  
ہر کردار سوسائٹی میں برائی کا ہر بیج کا نشان بن کر اس کے اپنے حلق میں بیوست ہو جاتا ہے اور یہی  
نیکی اور برائی کا سنگم ہے، اگر کا نشان حلق سے نیچے اتر جائے تو سمجھیں آدمی برائی کا خالق بن کر  
ابلیس کے بھی پر کترنے لگتا ہے ورنہ سرشت اچھی ہو تو کا نشان اگل دینے میں دیر نہیں لگتی۔

۱۹۴۷ء کے بعد بھارت کی سرزمین کو وہاں کے دانشوروں نے اپنی غلط کاریوں کے  
باعث انسانوں کے لیے جہنم کدہ بنا دیا۔ بھوک، افلاس اور فقر پرستی نے آدمی کو آدمیت  
سے اس قدر بیگانہ کر دیا کہ پھر اس دھرتی کی کوکھ سے چور ڈاکو اور تانوں نے جنم لینا شروع کیا۔  
بھوپت ڈاکو اسی دور کی پیداوار ہے۔ راجپوتانہ کا علاقہ اس کی زد میں تھا۔ آس پاس کی خشک  
پہاڑیاں اس کی آماجگاہ تھیں۔ دولت مندوں کو لوٹ کر ان کا سرمایہ غریبوں میں تقسیم کرنا اور اس  
کے لیے اس کی قتل و غارت گری نے تمام راجپوتانہ کے اُمراء کو ہر سال کر دیا تھا۔ بھارت کا  
تانوں پولیس اور فوج اپنی ساری قوت کے باوجود بھوپت ڈاکو کو اس کی غیر آئینی حرکات  
سے روک نہ سکی۔ حالانکہ راجپوتانہ کے پتھر اور ریت کے ذرات تک حکومت کے معاون تھے،  
اونچے پھاٹوں کی چوٹیاں بھوپت ڈاکو کی چغلی کھا رہی تھیں، مگر برائی عزم انسانی کی ہمارے  
میں اس قدر توانا ہو چکی تھی کہ حکومت کے ذرائع بھی اسے شکست دینے میں ناکام رہے۔  
۱۹۵۳ء کے شروع میں بھوپت ڈاکو اپنے غیر آئینی افعال کے باعث بھارت سے

بھاگ کر تھر پار کر کے راستے پاکستان میں داخل ہوتے ہی سرحد پر گرفتار کر لیا گیا، اسے سکھر جیل میں امیر شریعت کے برابر والے احاطے میں رکھا گیا تھا۔

جیل خالے کی..... آئینی دیواریں توڑ کر بھوپت ڈاکو ہر روز امیر شریعت سے کسی نہ کسی طرح ملنے آجاتا اور پھروں بیٹھا رہتا۔ اس کی مسلسل اور پیہم بھٹک نیز حضرت امیر شریعت کے اخلاقی اور روحانی اثر نے بھوپت ڈاکو کو امیر شریعت کا گرویدہ بنا دیا۔

سکھر جیل کے مصائب نے امیر شریعت کو اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ اپنی صحت کے سوا کسی دوسرے کی فکر کرتے، مگر اسلام کے اس عظیم مبلغ نے اس جہنم کدہ میں بھی اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کی۔ قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ درس نے بھوپت ڈاکو کو انسانیت کی وہ راہیں دکھائیں جس سے بھٹکے اسے برسوں گزر چکے تھے۔ گناہوں کی وہ آگ جس نے بھوپت کی انسانیت کو جلا کر راکھ کر ڈالا تھا، اور اسے اپنے انسان ہونے پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس آگ کی ایک ایک چنگاری رشد و ہدایت کے پھول برسانے لگی۔ وہ اسلام کو اس قدر سمجھ چکا تھا کہ ممکن ہے مسلمان ہو جاتا۔ مگر بھارت گورنمنٹ نے اپنے مجرم کا پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کر لیا، اور بین الاقوامی قانون کے مطابق بھوپت ڈاکو کو بھارت مرکار کے حوالے کر دیا گیا۔

لاہور سنٹرل جیل | مسلم لیگی سکمرانوں کی تاقبوت اندیشی اور عوام کے مذہبی جذبات کے باعث ۱۹۵۳ء میں جو کچھ ہوا تاریخ نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے اور جب بھی یہ گروہ کھلے گی تو حقیقت شفاف پانی کی طسرح نظر آئے گی۔

۱۹- جون ۱۹۵۳ء کو گورنر پنجاب نے آرڈی منس نمبر ۳۱۹۵۳ء صادر کیا۔ جس کی رو سے ان واقعات کی تحقیقات مقصود تھی، جن کے باعث ۱۹۵۳ء میں مسلمانوں اور مرزائیوں کے درمیان ہنگامہ ہوا۔ چنانچہ چیف جسٹس مسٹر محمد منیر دھندہ تحقیقاتی عدالت اور مسٹر ایم کیو



دمبر تحقیقاتی عدالت، پر مشتمل ایک ڈویژن بیچ مقرر کیا، جس نے یکم جولائی ۱۹۵۳ء کو اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔

تحقیقاتی عدالت نے دیگر جماعتوں کی طرح مجلس احرار کو بھی فریق قرار دیا۔ احرار رہنماؤں نے جو ان دنوں لاہور سنٹرل جیل میں محبوس تھے، تحقیقاتی عدالت کے ذریعے حکومت مغربی پاکستان سے مطالبہ کیا کہ مجلس احرار کے ممتاز رہنماؤں کو مختلف جیلوں میں بند نہیں ان سے باہم مشورہ ضروری ہے، لہذا ان سب کو لاہور سنٹرل جیل میں اکٹھا کیا جائے تاکہ تحقیقاتی کمیشن کے راستے میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ زعمائے احرار کے اس مطالبے میں جیسے جیسے تاخیر ہوتی گئی، تحقیقاتی کمیشن کا اصرار بڑھتا رہا۔ تا آنکہ ۲۵ جولائی ۱۹۵۳ء کو سکھر جیل کے امران جن میں امیر شریعت کے علاوہ مولانا ابوالحسنات، مظفر علی شمسی، اصحابزادہ فیض الحسن اور دیگر رہنما شامل تھے، لاہور سنٹرل جیل میں لائے گئے۔

لاہور کا یہ تاریخی جیل خانہ جس کی جگہ اب ”شادمان کالونی“ آباد ہے، اپنی تاریخ کا واحد جیل خانہ تھا۔ اس کی ایک ایک کوٹھڑی، ایک ایک بارک حریت پسندوں پر کیے جانے والے ظلم و جور کی داستانیں سن سکتی تھیں۔ ہنس کی آنکھوں نے ان نوجوانوں کو پھانسی پڑھتے دیکھا تھا، جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ غیر ملکی سامراج کے خلاف صف آراء تھے۔ اس کے کانوں نے بید زنی کی دہ آوازیں سنی تھیں، جو رضا کاروں کو ٹھٹھکی سے باندھ کر صرف اس جرم میں مارے جاتے کہ وہ اپنے ملک میں غیر ملکی راج پسند نہیں کرتے تھے۔ لاہور سنٹرل جیل کی اونچی دیواروں نے ان نوجوانوں کو بھوک سے سکتے اور..... مرتے ہوئے دیکھا تھا جو جیل خانے کے غلط نظام کی اصلاح چاہتے تھے۔ آزادی وطن کے جرم میں تڑپ تڑپ کر مرنے والوں کا تماثرہ دیکھنا تو اس بندی خانے کا روز کا مشغلہ بن گیا تھا۔ اگر زبصریح کی تقسیم میں انگریز کا دخل نہ ہوتا تو لاہور سنٹرل جیل قومی عجائبات کے لیے محفوظ کر لی جاتی، مگر.....

منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے

۱۹۴۲ء کے مشہور تمدنہ بنیاد کے بعد امیر شریعت پہلی بار اس جیل میں آئے تھے

تقس کے دیوار و دریرینہ جرم کو دیکھ کر اس قدر بے قابو ہوئے کہ اسیرانِ تقس بھی اپنی تیلیاں توڑ کر موسم بہار کا مزہ لینے لگے۔ امیر شریعت کے اکثر فقہاء پیشتر سے اس جیل میں موجود تھے، جن میں شیخ حسام الدین، مولانا محمد علی جانندھری، مولانا محمد حیات ان سب کو دیوانی احاطے میں رکھا گیا تھا۔ امیر شریعت اور مولانا ابوالحسنات بھی یہیں رہے۔

سنٹرل جیل میں امیر شریعت کی آمد سے محفل عشاق میں رونق آگئی، گو امیر شریعت

کے پاس دل زندہ کے سوا اب کوئی دولت باقی نہیں تھی۔ صحت عمر رفتہ کے... ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ رہی سہی کسر سکھر جیل نے پوری کر دی۔ نقاہت کے باعث امیر شریعت کا پڑ بہار چہرہ پت بھڑکے موسم کی طرح اپنا رنگ و روغن ضائع کر چکا تھا، تاہم وہ اپنی گراں بہا دولت کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، کے سہارے جنگل میں منگل بنا کر اسیرانِ ہم تقس کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔

موقف اور اعتماد | عوامی زندگی میں ہمسفروں پر اعتماد اسی قدر لازمی ہے جس قدر انسانی اعضاء پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، ورنہ نہ تو گھر کا نظام چل سکتا ہے

اور نہ ہی سیاسی جماعتیں زندہ رہ سکتی ہیں۔

امیر شریعت نے صاحب رائے اور قادر الکلام ہونے پر بھی زندگی میں رضا کاروں تک کو اپنے بھروسے میں لیا اور قافلہ ہائے حیات کے ایک ایک فرد پر اعتماد کی ایسی عمارت استوار کی کہ ہر آدمی کو اپنے اعتماد کا وارث قرار دے دیا۔

تحقیقاتی عدالت کے رد و رد و مجلس اجراء اور مجلس تحفظ ختم نبوت کا موقف واضح کرنے

کا سوال آیا تو مشترک رہنماؤں کا ایک خصوصی اجلاس جیل میں منعقد ہوا، جس میں مختلف اجاب نے اپنا اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے تحقیقاتی کمیشن کے ساتھ تعاون پر زور دیا۔

اجس میں دوستوں کی رائے سن کر امیر شریعت نے ایک سردآہ کے ساتھ فرمایا:

”آپ دوست جو فیصلہ چاہیں، کہیں میں اس سے انحراف نہیں کروں گا، آپ حضرات کی باتوں نے میرے دماغ کو متاثر کیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو کیا کروں، یہ میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کمیشن ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، بلکہ ربا پر حکومت نے ہمیں رسوا کرنے کے لیے ایک خوبصورت چال چلی ہے۔“

اگر میری مانو تو ہمیں کمیشن سے عدم تعاون کا اعلان کر دینا چاہیے، پھر جو ہو گا دیکھا جائے گا۔

دیسے آپ لوگوں نے شہید گنج اور ۱۹۴۶ء کے انتخاب کے موقع پر بھی میری بات نہیں مانی تھی اور خود ہی ہو کر رہا جس کا میں نے اظہار کیا تھا مجھے یقین ہے کہ اب بھی آپ میری بات نہیں مانیں گے۔ تاہم اگر آپ حضرات اس پر مصر ہیں، تو پھر میں مشروط تعاون پر آمادگی ظاہر کرنی چاہیے کہ ہمارا اصل فریقِ مخالفت چونکہ قید و بند سے باہر ہے، اس لیے یا تو اسے بھی ہمارے ساتھ یہاں لایا جائے تاکہ مقدمہ کی پیروی کے لیے ہم دونوں کے وسائل اور فنڈز یکساں ہوں، یا پھر ہمیں آزاد کر دیا جائے تاکہ ہم بھی اپنا موقف آزادانہ ماحول میں واضح کر سکیں۔

ایک فریق کو آزاد اور دوسرے کو مسلمانوں میں بند کرنا، عملی صورت ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ربا پر حکومت اپنا فیصلہ صادر فرما چکے ہیں۔ میری مانو، تو اپنی زندگی کا باقی حصہ قید و بند کی نظر کر دو، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ وہ بہتر کارساز ہے۔ لیکن اگر آپ حضرات اس کے لیے آمادہ نہ ہو سکیں تو میں آپ کے فیصلے کا پورا پابند ہوں گا اور انشاء اللہ اس پر عمل کریں گا۔

ہمارے ہاں تو جماعت نام ہے چند دوستوں اور ساتھیوں کی رفاقت کا

امیر شریعت کی اس تقریر کے باوجود اجلاس نے فیصلہ کیا کہ مجلس احرار کو متوقع نتائج سے بے پروا ہو کر من حیث الجماعت تحقیقاتی عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کر دینا چاہیے۔

سکھ جیل کا تذکرہ | سجن کی زندگی امیران بلا کے لیے عجیب و غریب ہوتی ہے۔ گاہ یہ لوگ خراب میں بھی بہاروں کا سماں پیدا کر لیتے ہیں اور گاہ ان کی زندگی میں ایسا

موڑ آتا ہے کہ گھروں کی یاد بہاروں کا موسم بھی دیران کر دیتی ہے۔ اسی قسم کی ایک محفل آرائی میں امیر شریعت نے دوستوں کے اصرار پر سکھ جیل کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”کراچی کے ارباب اختیار نے ہم بوڑھوں دمولانا ابوالحسنات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر سکھ جیل کے افسروں کی اخلاق بانٹھی اور ان کی سردمہری کے واقعات سنانے اور کہا کہ جون جو لائی کی ہلاکت خیزیاں، سکھ جیل، پھر اس کے رحم دل اور ذرہ نواز ارباب اختیار اس یہ تو میرے اللہ میاں کا فضل و کرم ہوا کہ ہم وہاں سے زندہ اور سلامت آگئے ہیں در زمان لوگوں نے اپنی جانب سے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا تھا۔“

چاول اور نامعلوم اشیاء کے امتزاج سے جو سخت سے سخت روٹی تیار ہو سکتی تھی وہ ہمارے لیے میا کی جاتی تھی۔ ساگ پات کی جگہ گھاس پھونس اور مسلسل سور کی دال، یہ ہمارے لیے سب سے بہتر خوراک تھی اور یہ تھا صحت افزا مقام بنتے ہوئے مختصر قہر نما کرے جن سے معمولی ہوا کا زہریلے شکل سے ہو سکے، یہ تھی ہماری قیام گاہ۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان تکلیف دہ اور دلگداز حالات میں میری صحت کا ستیا ناس ہو گیا۔ جسم پر پہلے گرمی کے دانے نمودار ہوئے پھر سخت پھوٹے بن گئے، جنہوں نے میرے بدن میں اس طرح آگ لگا دی جس طرح کہ دیکھتے ہوئے انکار سے جسم پر رکھ دیے گئے ہوں۔

متحدہ ہندوستان میں میں نے سخت سے سخت جیل خانے دیکھے ہیں اور سفاک سے سفاک جیل کے انگریز افسروں سے بھی واسطہ پڑا ہے اور بعض افسروں سے تو ایسی بھڑنی کر رہائی تک اکھاڑہ جھاڑہ، لیکن سکھر جیل میں ہمارے ساتھ کچھ نرالا ہی سلوک ہوا ہے۔

میں قید و بند کے مصائب بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، بلکہ ان کا تذکرہ میچوب سمجھتا ہوں۔ لوگ حوالات میں ایک رات کاٹ آئیں تو باہر آکر اخبارات کے نمبر نکالتے ہیں اور زنداں کی ساعتیں منٹوں میں حساب لگا کر بیان کی جاتی ہیں۔ بابو ایچ پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ہمارے لیے جیل خانہ ایک گلشن بنا دیا ہے۔ پھولوں تک رسائی کا ٹھوں سے الجھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی گلشن زندگی میں ہم تلخیوں اور تنگیوں کے بعد ہی شمر مراد پا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! انہوں نے کتنی بلند بات کی ہے۔ رَبِّي السَّجُّنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ بِهٖ رَبِّي ۗ (اے میرے پروردگار یہ قید خانہ مجھے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے، جدھر وہ مجھے بلا رہے ہیں۔)

یوسف علیہ السلام کے ذکر سے مجھے ڈمڈم جیل یاد آگئی، ۱۹۴۰ء کے ایام امیری میں ایک رات میں سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا، چاندنی رات پورے نکھار پر تھی، فضا میں سناٹا اور ماحول دم بخود تھا۔ ایسے میں تلاوت قرآن مجید میں رات کا کچھ سماں بیت گیا۔ اسے میں داروغہ جیل نپڈت رام جی لال نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ کہنے لگا۔ ”شاہ جی! خدا کے لیے بس کر دو۔ میرا دل قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ اب مجھ میں رونے کی سکت نہیں رہی۔“ بھائی! قرآن پڑھا جائے تو آج

بھی اس کے اعجاز دکھائی دیتے ہیں :-

نیرا - تو ذکر سکھ جیل کا ہو رہا تھا۔ میری تو بھلی پوچھیے، میں تو سرد گرم  
چشیدہ تھا اور پوری زندگی جیل یا ریل کی نظر ہو گئی ہے۔ یہ بڑے میاں  
مولانا ابو الحسنات، بے چارے اس دادی پڑھا میں پہلی بار قدم رنجھ چکے تھے  
مجھ ان کا بڑا احساس رہا۔ لیکن ماشاء اللہ ان کو تو میں نے اپنے سب ساتھیوں  
سے صابر و شاکر پایا۔

مولانا مجاہد العینی کا کہنا ہے کہ شاہ جی کے ان ارشادات کے بعد میں نے استقماماً  
شاہ جی کی خدمت میں عرض کیا :- آپ حضرات کے ساتھ اس قسم کے افسوسناک سلوک کا محرک  
کس نسیب کبھل جیل خانہ جات (جو مرزائی تھا) کا انتقامی جذبہ تو نہیں ہے؟ اس پر  
شاہ جی نے ایک بار میری جانب دیکھا، اور پھر خاموش ہو گئے۔

اسیران مارشل لاء | تحریکِ نغم نبوت میں جن لوگوں کو مارشل لاء کے تحت سزائیں ہوئیں  
وہ سب کے سب لاہور سنٹرل جیل میں ہی میعادِ اسیری گزار رہے  
تھے۔ ان کی خواہش ہوئی کہ حضرت امیر شریعت سے ملاقات کریں۔ چنانچہ ایک دن صبح ہاتھ  
پر بیٹھے ہی تھے کہ دیوانی احاطہ کے انچارج نے امیر شریعت سے عرض کی کہ اسیران مارشل لاء  
شوق دید میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ امیر شریعت ننگے پاؤں اور ننگے سران لوگوں سے  
ملنے کے لیے بے محابہ دروازے پر پہنچ گئے۔ قیدیوں نے ہتھکڑیوں اور بٹریوں کی  
جھنکار سے امیر شریعت کا استقبال کیا۔

امیر شریعت نے اسیران کو گلے لگایا، اور ان کے آہنی زیورات کو بوسہ دیا اور پھر  
اشک بار آنکھوں اور غم ناک لہجے میں فرمایا:

”آپ لوگ میرا سرمایہ نجات ہیں، میں نے دنیا میں آپ کو روٹی اور پیٹ  
یا کسی مادی مفاد کے لیے نہیں پکارا، لوگ اس کے لیے بھی بڑی بڑی قربانیاں

کرتے ہیں، میں نے تو آپ کو اپنے نانا حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کی دعوت دی ہے۔ اور آپ لوگ صرف اور صرف اس مقدس مقصد کے لیے قید و بند اور طوق و سلاسل کی یہ صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔

آپ میں سے ایسا کوئی نہیں، جو سیاسی شہرت یا ذاتی وجاہت چاہتا ہو۔ آپ جیل میں بھی غیر محروم ہیں، اور جب اس دیوارِ زندان سے باہر ہوں گے، تو باہر آپ کا استقبال کرنے والا اور پھولوں کے بار ڈال کر نعرے لگانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔

نیت اور ارادے کے اعتبار سے جس کی آمد اس مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ یہی مقصد لے کر واپس چلا جائے گا۔ میرے لیے اس سے بڑا سرمایہ فخر کیا ہو سکتا ہے کسی ایک قیدی نے ایک دوسرے قیدی کا تعارف کراتے ہوئے کہا،  
 ”شاہ جی! تحریک میں اس کا مہائی گونی کا نشا تہ بن چکا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں“

امیر شریعت نے تحریک کے دوران حکومت کی طرف سے تشددانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

”مہائی! ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت یا حوام تشدد پر اتر آئیں، اور کوئی ناخوشگوار صورت نمودار ہو جائے۔ میں نے کراچی جیل میں جب لاہور اور دوسرے مقامات پر گولی چلنے کے واقعات سنے اور معلوم ہوا کہ کئی بوڑھے باپوں کی لامٹھیاں ٹوٹ گئی ہیں، ماؤں کے چرانغ گل ہو گئے ہیں اور کئی سہاگ اڑ گئے ہیں تو مجھے اس کا بڑا صدمہ پہنچا اور میں نے وہاں کہا تھا۔  
 ”کاش! کوئی مجھے باہر لے جائے، یا اباب اقتدار تک میری یہ آرزو

پہنچا دی جانے کہ تحفظ ناموس رسول کے سلسلہ میں اگر کسی کو گولی مارنا ضروری ہو تو وہ گولی میرے سینے میں مار کر ٹھنڈی کر لو۔ کیونکہ میں اس جرم کا سب سے بڑا مجرم ہوں۔ اور کاش! اس سلسلہ میں اب تک جتنی گولیاں چلائی گئی ہیں وہ مجھے مہلکی پر باندھ کر ماری جاتیں۔ مگر ع۔

ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں

جیل خانے کی محدود دنیا میں بھی حضرت امیر شریعت اپنی انجمن آپ **داستان پارینہ** تھے۔ عبادت الہی جیل خانے میں ان کا سب سے بڑا مشغلہ تھا چنانچہ

نماز فجر سے فارغ ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے یا دود و وظائف اور ذکر الہی میں منہمک رہتے۔ تہجد کے وقت جب کبھی آپ اللہ اللہ کا ذکر یا بجز کرتے یا دوسرے اوقات میں تلاوت قرآن مجید کرتے تو خود ہی وجد میں آجاتے اور اپنا روایتی لب و لہجہ اختیار کرتے تو سکوت زبداں میں ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا۔ ریاضت سے فراغت پاتے تو داستان پارینہ کے ورق اٹھنے لگتے۔ اسی طرح ایک دن جیل کے باورچی فتح دین کا ذکر آگیا۔ اس باورچی نے اگرچہ کھانا پکانے میں خاصی مہارت حاصل کر لی تھی، لیکن مولانا ابوالحسنات جنہیں امیر شریعت ہر فن مولانا کہا کرتے تھے باورچی کی ایک نہ چلنے دیتے اور ہر روز نئی ہدایت جاری فرمادیتے تھے۔ اس موقع پر امیر شریعت نے مختلف باورچیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ:

”میں نے ایک بار انگریزوں کے خلاف خانساناؤں کی تحریک عدم تعاون بھی چلائی تھی۔ مجھے جہاں کہیں سے اطلاع ملتی کہ اس انگریز افسر کے ہاں کوئی مسلمان ملازم خانسانا کی خدمات سرانجام دے رہا ہے تو میں اسے عدم تعاون پر آمادہ کرتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں امرتسر میں ایک خانسانا کا فرانس بھی منعقد کی جس کے اچھے اثرات ظاہر ہوئے۔“

”تحریک خلافت کے دنوں امرتسر میں میں نے زنان بازار میں ایک خانسانا



مہم چلائی تھی، جس کے نتیجے میں ”اس بازار کی“ اکثر عورتوں نے شادی کئی، اور کچھ نے گناہ کے کاروبار سے تائب ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سے کترہ رام باغ جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں، گندگی سے پاک ہو گیا۔  
دوسری ایک محفل میں فرمایا:

”ایک دفعہ کسی سفر کے لیے امرتسر ریوے اسٹیشن پر پہنچا تو کاٹنی ملیٹ فارم پر کھڑی تھی، اور ایک ڈبے کے سامنے حوام کی خاصی بھیڑ جمع تھی۔ دیکھا تو چار گورے (فرنگی) پورے ڈبے پر قابض ہیں۔ حالانکہ اس میں سچا سفر کی گنجائش تھی مگر وہ کسی ہندوستانی کو اس میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔

ان دنوں میرے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا تھا، اور اس نسبت سے لوگ مجھے بخاری ڈنڈے والا کہا کرتے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈنڈے کے زور سے ڈبے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر وہی ڈنڈا گورے سپاہیوں پر اس انداز سے لہرایا کہ وہ خوفزدہ ہو کر چاروں کے چاروں ایک کونے میں سم کر بیٹھ گئے اور پھر میں نے تمام مسافروں کو اس ڈبے میں بٹھا دیا اور خود برابر والے کمرے میں جا بیٹھا۔ غالباً مجھے انبار تک جانا تھا۔ اس دوران ہر اسٹیشن پر جہاں گاڑی رکتی میں نیچے اتر کر ایک نظر گوروں پر ڈالتا اور ساتھ ہی ڈنڈا ہوا میں لہراتا۔ مگر وہ اسی کونے میں دبکے پڑے رہے۔ میں انگریزی نہیں جانتا تھا، وہ پنجابی نہیں سمجھتے تھے، مگر ڈنڈے کے قربان جائیے کہ اس نے بگڑے ہوئے کام کو سنوار دیا۔

کبھی کبھی صحت اجازت دیتی اور موڈ میں ہوتے تو گراؤنڈ میں والی بال یا کوئی دوسری کھیلتے چلے جاتے۔ بہر طور موسم بد بہاری سے بے نیاز ہو کر خزاں کے یہ دن بھی بہاری طرح کھلتے رہے۔

سادن بھادوں کے بھیگے ہوئے دن اسپرین قفس کے لیے بھادوں کی ساری  
 یادیں تازہ کر دیتے ہیں۔ برستے ہوئے بادلوں سے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں۔  
 ایسے میں نکمت بادبھاری کی تمام آرزوئیں اونچی دیواروں سے سرکل کر رہ جاتی ہیں۔ ہمارے  
 لالہ دگل جب صحن چمن میں اٹھکیلیاں کرتی ہے تو نسیم سحرگاہی قفس کی ادٹ سے جھانکنے  
 والوں کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن اسے کیا خبر کہ یہ دیواریں گر بھی سکتی ہیں، یہ نیلیاں ٹوٹ  
 بھی سکتی ہیں۔ جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں ان کے مقام سوا ہوتے ہیں۔ وہ قفس کی تیلیاں  
 اور جیل خانے کی دیواروں کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھتے، اب ان زمانے کی آسائشیں  
 ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتے سورج کی طرح اپنا مقام ہلکتی رہتی ہیں مگر دام انہی  
 کو حاصل رہا، جن کے عزم کی دیواریں کوتاہ نہیں ہوئیں۔

ایسے ہی برسات کے موسم میں ایک دن کا ذکر ہے کہ امیر شریعت ایسا ایک کتاب  
 زندگی کے ورق پلٹنے لگے، خستہ یادوں کی مہولی بسری کہانیاں ایک ایک کر کے یاد آنے  
 لگیں تو امیر شریعت مسکرا دیے۔ بوڑھے جسم کی جوان آنکھوں میں روشنی کا سیلاب اُٹھ  
 آیا، اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگے، جیسے وہ کسی واقعہ کا گواہ تلاش کر رہے ہوں۔ پھر  
 آپ سے آپ گویا ہوئے:

۱۹۲۳ء میں میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نواب جان  
 کے بیٹے افضل کو میری گود میں ڈال دیا گیا۔ ناپاک دامن میں پرورش  
 پانے والا محصوم، گناہوں کی بستی سے نجات کر کے ایمان کی ادٹ میں  
 امان چاہتا تھا۔

نواب جان اس بازار کی جنس تھی جہاں عورت تاش کے پتوں کی طرح تقسیم  
 ہوتی ہے۔ جن اس کے چہرے پر ہی نہیں آواز میں بھی تھا۔ جب وہ لاہور ریڈیو سے  
 آواز کا پیرا پھیرتی تو جو انہیں جھولیاں بھر کر اسے کہانات میں پھیلاتیں اس جن بے پروگی

بلائیں لینے والوں میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں۔ افضل نواب جان کی تمناؤں کا انہی سہارا تھا۔ اگرچہ دور لگیاں بھی نواب جان کی وراثت میں شامل تھیں، لیکن تیرہ سالہ افضل اب ماں کے گندے اور ناپاک دامن پر پاؤں رکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ اسے خاندانی بغاوت کے جرم میں گھر سے نکال باہر کیا گیا، اوردہ امیر شریعت کی جھولی میں آگرا۔

انسان بھی کیا شے ہے؛ بڑائی کا رخ کرتا ہے تو راستے کی برشے معاونت کرتی ہے، اور جب نیکی کی طرف مڑتا ہے تو اپنے بھی پرانے ہو جاتے ہیں۔

امیر شریعت کا کہنا ہے کہ:

”جب میں اس سنڈاس کے قریب پہنچا تو گناہ آلود دامن میرے گرد وال بننے لگا، انتقامی نگاہیں میرے تعاقب میں رہنے لگیں۔ برائی اپنے تمام وسائل سمیٹ کر میری دشمنی پر آمادہ ہو گئی، لیکن افضل رلا کی طرح دل کے حرم میں مقیم رہا۔“

بیٹے کی ناراضگی نے ماں کی ماتھا کو بیدار کر دیا۔ لیکن افضل کا ماں سے مطالبہ تھا کہ وہ یہ دھندا ترک کر کے شرافت کی پناہ میں بیٹھ جائے، اور میری دونوں بہنوں کو بھی اردو باجی زندگی سے منسک کر دے۔

گناہوں سے تنہکی ہاری زندگی شاید نیکی کی آواز پر لبیک کہتی، مگر برسوں سے خاندانی پیشہ قدم پر کاوٹیں ڈال رہا تھا، جنہیں راستے سے ہٹانا عورت کے بس کا روگ نہیں تھا۔ ماں کی ماتھا اور خاندانی وقار! نواب جان اس دور رہے پر کھڑی تھی، کہ حالات بگڑتے چلے گئے۔

امیر شریعت فرماتے ہیں:

”ایک دن میں میلسی رضلع متان جہاں نواب جان کا گھر تھا، سے دس میل دور قصبہ فتح پور سے واپس آ رہا تھا، مجھے اطلاع ملی کہ میلسی کے پولیس تھانے

میں علاقے کے زمیندار، وکلاء اور نواب جان کے رشتے دار جمع ہیں کہ جیسے ہی میں میسٹی میں داخل ہوں، مجھے افضل کے انگوٹھے میں بوجھ گھر کے زیورات اور پاپا پتی پوری کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے۔

مولانا خدابخش نے جو شہر کی جامع مسجد کے امام تھے، مجھے یہ قصہ سنایا تو میں نے کوچوان سے کہا: "تا نگہ تھانے لے چلو" سب دوست حیران ہوئے، جیسے ہی تا نگہ تھانے کے قریب پہنچا۔ پنچارج تھانہ، وکلاء علاقے کے رؤسا میر سے یہی اور سیاسی حریف، جن میں ضلع کا مال افسر بشیر احمد تاڑ بھی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سب کے سب سلام کرنے تھانے سے باہر چلے آئے، میں نے کہا: "مجھے ننانوی قسم کا سلام قبول نہیں۔ میں آگیا ہوں، تم اپنی کارروائی جاری رکھو، یہ کہہ کر میں اپنے میزبان کے گھر جو نواب جان کے گھر کے برابر تھا، چلا گیا۔ افضل اس وقت بھی میرے ساتھ تھا۔"

جب واقعات اس موڑ تک آن پہنچے تو نواب جان نے اپنے عزیز واقارب سے کہا "میں شاہ صاحب کے خلاف تھانے میں کوئی رپورٹ درج کرانا نہیں چاہتی۔ وہ سید ہیں اور درویش بھی" یہ کہہ کر نواب جان نے امیر شریعت کے نام ایک دستی خط لکھا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا۔

پیر سائیں!

اسلام حلیم۔ میں اور میرا خاندان برسوں سے گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، افضل بھی میری اسی گناہ کی کمائی کا نتیجہ ہے۔

جس دامن پر گندگی کے پھینٹے پڑ چکے ہوں وہ دامن اس قابل ہے کہ آپ تک رسائی حاصل کر سکے۔

امیر شریعت نے اسی وقت جواب میں کہا،

”عجیب و ثواب انسانی زندگی کا خاصہ ہیں۔ موت و حیات کے درمیان کئی موڑ آتے ہیں، جہاں انسان پھسل کر سنبھلتا ہے اور سنبھل کر چھٹتا ہے۔ ثبات صرف اسی ایک ذاتِ باری کے لیے ہے۔“

میں تیرے حالات سے نا آشنا ہوں، متناہی جانتا ہوں، اور وہ بھی تیرے بیٹے کی زبانی سنا ہے کہ تو گناہ کی زندگی میں مبتلا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی خراب کر چکی ہے۔ حاشا و کلام مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ ندامت کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی چادر میں لپیٹ کر اگر تو میرے مولا کریم کے سامنے توبہ کی بھیک مانگے گی تو تیری جھولی خالی نہیں آئے گی۔ میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا۔“

اس خط کے جواب میں دوسرے دن نواب جان کا ایک اور دستِ خط آیا۔

پیر سائیں! السلام علیکم

اگر ندامت کے آنسوؤں سے گناہ کے داغ دھل سکتے ہیں تو میں ساری رات گھر والوں سے چوری ردتی رہی ہوں۔ میرے ایسے گناہ کی گٹھڑی کو کون اٹھائے گا۔ تاہم آپ حکم کریں تو میں کسی سے نکاح کروں، جبکہ میرے گور حوص ہوس کے انسانوں کی بے شمار دولت جمع ہے اور میرے خاندان کے لوگ اس دولت کے سچاری ہیں۔

پیر سائیں! مجھے ان کے چنگل سے نجات کے لیے وقت کی ضرورت ہے، میں کوشش کرتی ہوں، آپ دعا کریں۔ میرے انفضل سے کہنا وہ بھی ماں کے گناہ معاف کر دے۔ میری مجبور یوں سے وہ واقف ہے۔“

اس خط کا امیر شریعت نے مختصر جواب دیا:

”انسان کو نیکی کرنے کی توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اسلام کا ایک ادنیٰ مبلغ ہونے کی حیثیت سے میں تیرے لیے دعا گو ہوں۔ پروردگار تجھے نیکی کی راہ پر

چلنے کی توفیق دے۔ آمین)

تو سیس گنڈا لے، چنڈ بارتنگا لے

ارہی کیا کرے گی کھڑی دن کے دن

نوٹ (خطوط کے یہ مفہوم یادداشت پر مبنی ہیں، نہ تو ان کی نقل امیر شریعت کے پاس تھی اور نہ ہی کسی دوسری جگہ۔ لیکن گفتگو کا یہی انداز مقابلاً امیر شریعت نے بیان کیا، جن پر خطوط کی عبارت ترتیب دی گئی ہے۔)

نواب جان کی یہ کہانی دنوں اور مہینوں میں نہیں، سالوں میں جا کر ختم ہوئی۔ اور اس میں کئی موڑ آئے۔ آخر ہوا یہ کہ امیر شریعت کی دعا میں کام آئی، کہ ضلع ملتان کی اس مشہور طوائف لے بیٹھے کا کہانہ کر اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر کے تحصیل میلسی کے ایک زمیندار خدابخش مجھٹہ سے شادی کر لی، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ زمیندار ۱۹۶۰ء میں انتقال کر گیا۔ نواب جان نے اپنی دونوں لڑکیوں کے نکاح بھی شریعت کے مطابق کیے۔ افضل اپنی ماں کے پاس واپس چلا گیا اور آج کل دونوں ماں بیٹیا میلسی میں مقیم ہیں۔ افضل حکمہ نمر میں پٹواری ہے، اور اسی ضلع میں کہیں تعینات ہے۔

**آخری سازش** | ایام امیری پرانی یادوں کے انہی کھنڈرات پر سے گزر رہے تھے۔ ہر قیدی اپنے بیٹے دنوں کی کہانیاں سننے میں مصروف تھا کہ انہی دنوں حضرت مولانا داؤد غزنوی ایک تحریر ہی بیان لے کر لاہور سنٹرل جیل میں ان رہنماؤں سے لے اور کہتا کہ ”مجھے ذریعہ اعلیٰ صوبہ مغربی پاکستان ملک فیروز خاں نون نے بھیجا ہے، اگر آپ حضرات اس بیان پر دستخط کر دیں تو حکومت آپ کو رہا کرنے کو تیار ہے“

بیان کا متن:

”تحریر یک ختم نبوت کو چلانے کا ہمارا اس طرح کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی آئندہ ہم ایسی کسی تحریک کے چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی قریب میں جو کچھ ہوا اس میں عوام کو زیادہ دخل تھا۔“

ہم حکومت کو یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسی کوئی تحریک نہیں چلائیں گے جس سے ملک کا امن خطرے میں پڑ جائے۔“

مولانا داؤد غزنوی سے یہ تحریر لے لی گئی اور جواب کے لیے انہیں دوسرے روز آنے کو کہا گیا۔ مولانا ابوالحسنات اصحاب زادہ فیض الحسن اور تحریک کے دوسرے رہنما مولانا داؤد غزنوی کو اپنے انداز سے سوچتے اور پڑھتے رہے۔ لیکن امیر شریعت کا انداز الگ رہا۔ انہوں نے رات بھر امیرانِ قفس سے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ اس تحریر پر دستخط کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جیل کے غیر اخلاقی قیدیوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں۔ یہ تحریر ہماری سیاسی اور مذہبی موت کے مترادف ہے، چنانچہ دوسرے دن مولانا داؤد غزنوی تشریف لائے تو حضرت امیر شریعت نے ان سے کافی صلح کلامی کی۔

تحریک ختم نبوت کے خلاف اپنوں اور بیگانوں نے جو سازشیں کیں یہ سازش اس کی انتہی کر طی مٹی۔ دشمنوں کا یہ جال جو بدست کے ہاتھ سے پھیلا یا گیا تھا، اپنے ہی زور پر تارتا رہا۔ ہو کر گیا۔ اور ہر مخالفت جس نے تحریک ختم نبوت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، آپ سے آپ بندھنوں میں الجھتا چلا گیا۔

جماعت اسلامی کے رہنما جو اس تحریک کی نیواٹھانے میں برابر کے شریک تھے، جب کتابِ ملکیت نظر آیا تو عزیز مصر کی بیوی کی طرح سارا گناہ حضرت یوسف کی جھولی میں ڈال کر اپنی پاک دامنی کے گواہ تلاش کرنے لگے۔ مجلس اہرار کو اس تحریک کا مجرم ٹھہرا کر جماعت اسلامی کے بزدل رہنماؤں نے اپنی جرات کو اس بری طرح داغدار کیا کہ تحریک کے ساتھ اپنی عاقبت پر بھی پھینٹنے ڈال لیے۔

اس طرح تحریک ختم نبوت میں پنجاب کے ہر سیاستدان نے خواہ اس کا تعلق حکومت سے تھا یا دوسری سیاسی جماعتوں سے، عوام کے دباؤ کی وجہ سے اس تحریک میں ملوث ہونے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان دنوں سید حسین شہید سہروردی سابق وزیر اعظم پاکستان اپنی جماعت (دعوتِ اسلامی)

ہر کے عوام میں متعارف کرانا چاہتے تھے اور اس غرض سے انہوں نے اس تحریک کے رہنماؤں سے جیل میں رابطہ قائم کیا تاکہ تحقیقاتی عدالت میں اجراء کی قانونی امداد کر سکیں۔ لیکن ان کا اعتقاد اس قدر زیادہ تھا کہ مجلس اجراء اس کی متحمل نہیں تھی اور دوسری طرف مولانا مظہر علی انظر تھے جنہوں نے معمولی رقم پر سارا مقدمہ لڑا۔

یہ قصہ چل رہا تھا کہ میاں محمود علی قصودی بار ایٹ لاہور ہینا نیشنل عوامی پارٹی کو خیال آیا اور وہ بھی اس ٹوہ میں رہے کہ آیا حکومت نے تحریک ختم ہوتے کے نظر بندوں پر ان کی اتہائی میعاد نظر بندی (چھ ماہ) کے ختم ہونے پر دوسرے نوٹس کی تعمیل کرائی ہے؟ اور جیسے ہی انہیں حکومت کی اس آئینی کمزوری کا علم ہوا، اور ساتھ ہی پتہ چلا کہ کراچی میں گرفتار ہونے والوں سے بھی دوسرے نوٹس کی تعمیل نہیں کرائی گئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا سیاسی داؤ کھیلایا، مولانا ابوالحسنات اصحابزادہ فیض الحسن اور مسٹر تاج الدین کی طرف سے لاہور ہائیکورٹ میں ایک رٹ دائر کر دی، جس کی سماعت جسٹس رحمان نے کی اور نظر بندوں کو انتظار میر کی کمزوری کا فائدہ دیتے ہوئے ۸ فروری ۱۹۵۴ء کو رٹ دیا۔ اس ضابطے کے تحت ۱۸ فروری ۱۹۵۴ء کو حضرت امیر شریعت بمقام اپنے دوسرے رفقاء کے لاہور سنٹرل جیل سے رہا کر دیے گئے۔

نئے سفر کا آغاز | بلاشبہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کارگاہ عالم میں اپنے وجود تک کو اس راہ میں صرف کر دیا اور سنگ میل بن گئے رہوئے منزل کے لیے۔

امیر شریعت اب کے بار جیل خانے سے رہا ہوئے تو یقین تھا کہ عمر رواں کا ماندہ حصہ سکون قلب، تمنائی ادب و الہی میں گزار دیں گے، صحت تمام جسم سے تبادت کر چکی تھی خاص کر سکھر جیل کے چند دنوں کی "سی کلاس" خوراک نے رہا سما بھرم بھی گنوا دیا۔ انہی دنوں عزیز بیٹی نے بھی اکثر اصرار کیا کہ تبا! اب آپ آرام کریں تو بڑے جلال میں فرمایا:

"بیٹی! تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہارا باپ چار پائی پراٹھیاں رکھ رکھ کر مرے



یہ پسند نہیں کرتی کہ میں حضورؐ کی ختم نبوت کے لیے جان دے دوں۔“

نقاہت، بڑھاپا اور بیماری کے باعث کچھ دن گھر میں آرام کیا۔ لیکن شب و روز ملنے والوں کے هجوم میں آرام کہاں۔ دن بھر غمغلیں جمنیں، ادب پر بات چل نکلی تو گھنٹوں اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ سیاسیات کی بات آگئی تو بڑے بڑوں کے بخیے ادھیڑے جا رہے ہیں ان دنوں کراچی میں ملک غلام محمد گورنر جنرل، پاکستان ہسپتال پر اپنی ضروریات کے مہرے کھلا رہے تھے۔ لاہور و راکراچی میں اٹھاپٹخ کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری تھا۔ انہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی دوست نے سوال کیا ”شاہ جی! یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔“

بڑے اعتماد سے جواب دیا۔

”بھئیہ! کتے بھونک رہے ہیں، جن کو رات بمل گیا ہے، وہ کھا کر سو گئے

ہیں اور جن کو نہیں ملا وہ بھونک رہے ہیں۔“

اس پر تمام محفل کشت زعفران بن گئی۔

اسی طرح راقم ایک دن لائل پور سے ملتان حاضر ہوا، تو حسب معمول بڑے تپاک

سے ملے۔ اصلاً و سہلاً مر جا کے بعد فرمایا:

”جاننا بڑا ایک کیبنٹ پاکستان کی میں نے بھی بنائی ہے۔ اس میں ایک

آدمی کی کمی تھی۔ تمہارے آنے پر وہ نام یاد آگیا۔ دیکھو، اگر ان لوگوں پر شتمل

کیبنٹ بن جائے تو کتنے دن چلے۔“

۲۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

کیبنٹ ۱۔ مولانا ظفر علی خاں

۴۔ مولانا عبدالستار نیازی

۳۔ علامہ عنایت اللہ المشرقی

۶۔ غازی محمد نیر (داکا ٹرہ)

۵۔ قاسم رضوی (حیدرآباد دکن)

۷۔ حافظ سید عطاء المنعم شاہ بخاری۔

میرے آنے پر یہ نام یاد آیا ہے۔

مندرجہ بالا حضرات کی اکثریت اپنی انفرادی زندگی میں ایشیا و قربانی کا مجسمہ رہی ہے۔

ان کے خلوص پر بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ گذشتہ ربع صدی کی تاریخ ان کے سیاسی و مذہبی کردار کو فخر و مہابت کے دامن میں گروہ دیے ہوئے ہے۔ لیکن اجتماعی زندگی میں یہ لوگ اپنے چلن کے خلاف مظاہرہ کرتے رہے۔

مولانا ظفر علی خان نے اتحادِ ملت بنائی۔ علامہ عنایت اللہ المشرقی نے خاکسار تنظیم۔ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی ترتیب دی، اور خود ہی یہ لوگ ان جماعتوں کے صدر یا ڈکٹیٹر بنے رہے۔ درکنگ کمیٹی بھی اپنے ڈھب کی انتخاب کی، جیسے ہی جماعت کے اندر سے ان کے اس فعل پر کوئی معترض ہوا، تو پہلے بکڑ گئے، اس پر بھی بات نہ بنی تو جماعتی پالیسی سے انحراف کے جرم میں متعلقہ ممبر کو جماعت سے الگ کرنے کی کوشش کی، اس پر بھی اگر کچھ لوگوں نے متعلقہ ممبر کے موقف کو درست قرار دیا تو جماعت کو توڑنا پڑا کہ یہ گئے وہ گئے۔

ان دنوں پاکستان کی ہر حکومت کی عمر ڈوبتے سورج کی طرح ہر شام غروب ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں امیر شریعت نے مندرجہ بالا تین مزاج حضرات پر مثل پاکستان کی گھریلو کینڈٹ (کابینہ) ترتیب دے کر حکومت وقت پر ایک ایسا بھرپور طنز کیا کہ طنز و مزاح کی دنیا میں یہ نشتر ہمیشہ پیوست رہے گا۔

دھوپ کے سائے ڈھلتے ہی ان معظلوں کے رسیا اپنی اپنی راہ لیتے۔ امیر شریعت ہر شام کندھے پر چادر اور ہاتھ میں بید کا کھونٹا لیے سلیمی دعا خانے پر بیٹھتے، یہاں روح اور جسم دونوں کا علاج ہوتا تھا۔ بزم لطائف اور شعر و شاعری کا بازار نمازِ عشاء تک گرم رہتا۔

مجلس تحفظ ختم نبوت کی صدارت

اسی سال ۱۳۔ ستمبر، امیر شریعت کو اکثر اصحاب کے اصرار پر ملتان کے ایک خصوصی اجلاس میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا صدر منتخب کیا گیا، آپ نے صدر منتخب ہوتے ہی حسب ذیل بیان پڑیس کے نام جاری کیا۔

”مسئلہ ختم نبوت جانِ اسلام اور روحِ قرآن ہے۔ اگر مسلمان عقیدہ ختم نبوت

سے بال برابر ادھر ادھر ہو جائیں گے تو پھر نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن باقی رہتا ہے اور نہ ہی خدا تعالیٰ کا وہ تقدس اور توحید باقی رہتی ہے، جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور ختمی المرتبت تک تمام انبیاء علیہم السلام متفق ہیں۔

مرزائیت اس روح پر اس جان قرآن اور جان اسلام پر مردانہ ضرب ہے۔

میں اس کے استخصال کو ہر مسلمان کے لیے فرض جانتا ہوں اور اپنی زندگی کی آخری بازی۔ پاکستان کے جسم میں یہ سیاسی ناسور ہے۔ اگر حکومت نے اس کا پریشانی کیا تو یہ ناسور سارے جسم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔

**مبطلین کو وصیت** | تحفظ ختم نبوت کے تمام مبلغین کو امیر شریعت نے اپنے مکان کی بیٹھک میں بلا کر حسب ذیل وصیت فرمائی۔

”عزیزو! اسلام کی تبلیغ کا نٹوں کا تاج پہننے کے مترادف ہے مجھ سے منہ کرو گے مخالفت ہی مخالفت نظر آئیں گے، سستی کہ ایسے ایسے مقامات سے گزر ہو گا اور مخالفت ہوگی، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تم اس عزم پر پکے اور پختہ رہے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھتو اس کے لئے اور فرمایا، احوال بظاہر کسی تحریک میں کامیاب نہیں ہوتے لیکن جس عزم کو لے کر اٹھے اس پر ٹوٹے رہتے تو نتیجہ یہ ہے کہ آج برسرِ اقتدار آنے والا ہر گروہ احوال کے نام سے لڑتا ہے۔“

۲۔ وعظ کرنے کے لیے جانے سے پہلے داعی سے کرایہ کبھی وصول نہ کرنا۔ اگر اتنا بھی کرو گے تو منہ کھائے گا، آنکھ شرمائے گی، حق بیان نہ ہوگا۔ (فرمایا، آمدورفت کا کرایہ گھر سے لے کر چلنا۔ تقریر و بیان کے بعد اگر داعی کوچہ خدمت کرے تو اس کے سامنے شمار نہ کرنا۔ اور اگر کچھ بھی نہ دے تو اپنی زبان سے طلب بھی نہ کرنا، بلکہ چپکے سے ہنس مکھ واپس آجانا۔) (فرمایا، ساری زندگی میرا یہی عمل

رہا ہے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو میں تمہاری اماں سے پوچھا کرتا تھا کہ مجھے فلاں جگہ و عطا کرنے جانا ہے کرایہ ہے؟ اگر ہوتا تو آمد و رفت کا خرچ گھر سے لیکر چلتا۔

(فرمایا) کچھ بھی خدمت نہ کرنے والا، اگر پھر بھی بلا لے اور دعوت دے دے

تو جانے سے انکار نہ کرنا۔ (فرمایا) اب اگر کھلی اور پہلی مرتبہ بدیہ، حتیٰ الخدمت وغیرہ نہ مل سکنے کے سبب جانے سے رک جاؤ گے تو ولایت نہ ہوگی بلکہ نفسانیت

ہوگی اور داعی کے سامنے شمار کرنے سے روکنے میں یہ حکمت فرمائی۔ ہو سکتا ہے

داعی غریب اور مفلس ہونے کے سبب حتیٰ الخدمت یا کرایہ بھی پورا نہ دے سکے۔

اس سے خود کو بھی تردد ہوگا اور داعی کے دل میں بھی جھوک اُٹھے گی۔ ہائے!

میں غریب تھا نا، کہ کرایہ بھی نہ دے سکا اور اس سے اس غریب کے دل سے

ایک آہ نکلے گی۔ لہذا یہ نصیحت یاد رکھنا کہ غریب کی آہ اور دل دکھانے کے ہر

پہلو سے پرہیز کرنا۔ اگر ان باتوں پر عمل کرو گے تو انشاء اللہ کبھی بھوکے نہیں

رہو گے اور یہی باتیں دنیا و عقبہ کی فلاح و مہبود اور ترقی و سر بلندی کا موجب

ثابت ہوں گی۔

**ذیابیطس اور فالج** | انسان جب جوانی کے نشے میں ہوتا ہے تو اپنے جسم پر بھی رحم

نہیں کھاتا، اس درد کی غلطیاں اور جسم سے نا انصافیاں جب

بڑھاپے میں علم بغاوت بند کرتی ہیں تو انسان مختلف بیماریوں کا بہانہ کرتا ہے، محالاً کہ ان

بیماریوں کا موجب وہ خود ہوتا ہے۔ امیر شریعت فرماتے ہیں:

”انسان کے اندر ایک مستقل سلطنت آباد ہے، دل و دماغ اس کے

بادشاہ اور وزیر ہیں، جب یہ دونوں اپنی رعایا کو تنگ کرتے ہیں تو آخر کو بغاوت

کا احتمال تو ہوگا! یہی میں نے بھی کیا ہے، میں نے اپنے جسم پر کوئی رحم نہیں

کھایا، رات دن کا سفر، مسلسل دس دس بیس بیس گھنٹے تقریریں، بے وقت

کی خوراک، وہ بھی میزبان کی مرضی پر، یہاں سے فرصت ملی تو جیل خانہ، یہ کوئی سال  
دو سال کا عمل نہیں، بلکہ میری زندگی کے چالیس سال اس دشت کی سیاحتی میں  
گزرے ہیں، ان حالات میں اپنی صحت کا گلہ میں کس پر کروں؟

۱۶- نومبر ۱۹۵۲ء کو نماز عشا کے لیے گھر میں وضو کر رہے تھے کہ دائیں جانب فالج کا  
ہلکا سا حملہ ہوا، ذیابیطیس کی شکایت پیشتر سے چلی آرہی تھی۔ فالج کے اس حملے نے اس  
بیماری کو بھی توانائی دے دی۔ حضرت امیر شریعت کا اپنا بیان ہے کہ:

”جب مجھ پر فالج کا حملہ ہوا تو تمام جسم بیکار معلوم ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا  
جیسے اب موت کا وقت قریب آگیا ہے، چنانچہ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور  
چارپائی پر جا کر لیٹ گیا، لیکن مفروضی دیر بعد بیماری کا اثر زائل ہو گیا“

پھر بے اختیار آپ رونے لگ پڑے اور خوب رونے۔ اس دوران حضور خاتم الانبیا

کی یاد ذہن میں آئی اور یہ شعر بار بار پڑھنے رہے۔

اس وقت تیرا سستی سے کیا حال ہوا ہوگا

جب تو نے یہ نئے ساقی شیشے میں بھری ہوگی

**حج بیت اللہ کی دعوت** | غلام شخصیت کا ہو یا سلطنت کا اس کی راستے اور مذہب اپنے

آقا کے محکوم ہوتے ہیں۔ تقریباً ڈیڑھ سو سالہ برطانوی سامراج

کی غلامی نے برصغیر کے مذاہب کو اپنی سیاسی ضرورت کے تابع رکھا۔ اسلام جیسا عظیم فطرتی مذہب  
بھی ایک وقت آیا کہ انگریزی حکمرانوں کا پابند ہو گیا۔ مثلاً حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ہے۔  
ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ اگر ہمت دیتے ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جاسکے۔ لیکن انگریز  
بطور حاکم ملک اپنی سیاسی ضرورت کے تحت انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، جیسے کہ دوسری  
جنگ عظیم میں ہوا، اسلام فوٹو اتروانے کی مخالفت کرتا ہے، لیکن غیر ملکی قانون کتنا ہے کہ  
حج کی درخواست کے ساتھ فوٹو کا ہونا لازمی ہے۔

ایسی ہی کچھ پابندیاں تھیں کہ امیر شریعت نے ہمیشہ حج بیت اللہ جانے سے پہلوتھی کی حالانکہ بڑے بڑے رؤسا اور اُمراء نے دعوتیں دیں، لیکن طرح دیتے گئے، مگر اندر کی بات وہی تھی کہ جاؤں تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور اجازت مانگوں فرنگی سے، یہ نہ تو میرا ضمیر گوارا کرتا ہے اور نہ ایمان اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۵۴ء حاجی دین محمد دلاہور نے امیر شریعت کو حج بیت اللہ کے لیے دعوت دی۔ جواب میں فرمایا:

» حاجی صاحب! ارادہ تو ہے، مگر چاہتا ہوں کہ گھر کے تمام افراد ساتھ چلیں اور اس سفر میں کسی کی امدادی رقم شامل نہ ہو۔«

اس پر حاجی صاحب نے کہا: »آپ کا ارادہ ہے کہ آپ گھر بار سمیت وہاں چلے جائیں اور پھر واپس نہ آئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے اگر کوئی کام لینا ہوا تو۔؟«  
اس پر امیر شریعت مسکرا دیے۔

منزل سے پیشتر کاروان منزل، اسلار کارواں کو غبار کارواں میں لپٹا چھوڑ کر الگ راہ اختیار کر لے تو امیر کارواں پر کیا گذرتی ہے؟ اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے، جس کی کشتی طوفان میں ہو، اور پتواریوں کے پھیپھڑوں سے ٹوٹ جائے اور وہ بے دست و پا ہو کر رہ جائے۔

رہائی کے بعد راہنمایان احرار دسمبر ۱۹۵۴ء کے در سے ہفتہ ملتان امیر شریعت کے مکان پر جمع ہوئے، تاکہ آئندہ کے لیے راہیں سوچ سکیں۔ حسین شہید سہروردی تحریک ختم نبوت کے دنوں احرار بنماؤں کے قریب آچکے تھے۔ بناء بریں کچھ ممبران کی رائے تھی کہ احرار کو سہروردی سے تعاون کر لینا چاہیے، اس پر تین دن کی بحث کے بعد یہ فیصلہ مقرر ہوا کہ سہروردی پر اپنا مؤقف واضح کر دیا جائے، اگر وہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوانے کے مسئلے پر ہمارے فیصلے سے اتفاق کریں۔ تو جماعت ان سے تعاون کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ ورکنگ کمیٹی نے اس کام کے لیے شیخ حسام الدین اور مسٹر تاج الدین انصاری کو کراچی بھیجا

اجاب جواب کے منتظر تھے کہ ۲۱ دسمبر ۱۹۵۴ء کو اخبارات میں حسب ذیل خبر شائع ہوئی۔  
 مکرچی ۱۹۔ دسمبر مجلس احوار کے سابق رہنما شیخ حسام الدین اور مسٹر تاج الدین  
 الضاری نے آج اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جناح عوامی لیگ میں شامل  
 ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ مسٹر سہروردی  
 سے بات چیت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناح عوامی لیگ میں شامل ہو کر  
 جمہوریت کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ عوامی لیگ کے سیاسی نظریات سے  
 متفق ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ملک کو مسٹر سہروردی کی خدمات کی ضرورت  
 ہے، جو ایک تجربہ کار رہنما ہیں۔ جمہوریت کے قیام کے لیے انہوں نے بڑی  
 قربانیاں دی ہیں۔

شیخ حسام الدین اور مسٹر تاج الدین نے کہا ہے کہ ان کا یہ اقدام پارٹی کے  
 کسی فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے۔

مجلس احوار ۱۹۴۹ء میں سیاسیات سے علیحدہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے  
 اپنے دوستوں اور حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی لیگ میں شامل ہو کر  
 پاکستان اور جمہوریت کے لیے استحکام کے لیے کام کریں۔

(روزنامہ تعمیر - راولپنڈی - ۲۱ دسمبر ۱۹۵۴ء)

اسی اخبار میں یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ حسین شہید سہروردی کو پاکستان کی کامیابی میں شامل  
 کر لیا گیا ہے۔

اچانک ان رہنماؤں کے عوامی لیگ میں شامل ہونے کے اعلان نے احوار حلقوں  
 کو پریشان کر دیا۔ نیز امیر شریعت نے حسب یہ خبر پڑھی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ایک مرد آہ کے  
 ساتھ پنجابی زبان کے یہ دوہے بار بار دہراتے رہے۔

چھڑ کے مدان من گئے جہڑ سے گندے سی مڑاں گنڈال تیر

(جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم قمر سے ساتھ میں گئے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے)

یاری توڑ گئے بکریاں والے دو گھنٹہ دودھ بدلے

(بکریوں کا دودھ دوہنے والے فقط دو گھنٹہ دودھ کے لیے یا رات توڑ گئے)

رفیقوں کی اس جدائی سے امیر شریعت کو جو روحانی صدمہ ہوا اسے انہوں نے مدتوں محسوس کیا اس سلسلے میں جب کوئی سوال کرتا تو ہلکی سی آہ کے ساتھ زیر لب مسکراتے۔

گو یہ لوگ بعد میں عوامی لیگ سے مایوس ہو کر دوبارہ مجلس احرار میں شامل ہو گئے، لیکن امیر شریعت کے دل میں تا دمِ واپس یہ کسک باقی رہی۔

۱۹۵۵ء | یہ سال بھی پاکستانی سیاستدانوں کے لیے انقلابی سال تھا۔ صوبائی اور مرکزی حکومتیں صبح و شام تبدیل ہو رہی تھیں۔ مسٹر محمد علی بوگرہ جنہیں امریکہ سے ہوا کر

پاکستان کے راج منگھاسن پر بٹھا دیا گیا تھا، ملک غلام محمد گورنر جنرل پاکستان کے اشارہ آبرو پر رقص کنٹن تھے۔ اس سے پیشتر ۲۲ نومبر ۱۹۵۴ء کو ریڈیو پر اعلان کیا گیا کہ پورے

مغربی پاکستان کو ایک وحدت کی شکل دے دی جائے گی۔ اس خبر نے صوبائی سیاستدانوں میں کھلبلی مچادی اور سبھی کو اپنی لیڈری خطرے میں نظر آنے لگی، چنانچہ ایسی افراتفری

پیدا ہوئی کہ حکمران لوگ اپنی کرسیوں کی حفاظت میں حوام سے غافل ہو گئے۔ نتیجتاً ملک میں جرائم بڑھنے لگے۔ مجرم ضمیر لوگ محلے اور شہر کی عزت و آبرو کے ڈاکو بن گئے۔ یہی

دن تھے کہ گجرات شہر میں حسین بی بی نامی ایک عورت اپنی عزت کے ساتھ جان بھی گنوا بیٹھی۔ مظلوم اور معصوم عورت کے ساتھ رت کے اندھیرے میں کیا کچھ ہوا؟ پھر اس کا قتل

کیوں کر ہوا؟ ان سوالوں کے جواب میں قانون آج تک خاموش ہے۔

گجرات کا دل مٹی کے برتنوں کی طرح خوبصورت ہے، لیکن سوہنی کے گھڑے

کی طرح دریا کے حین درمیان فریب دے دیتا ہے۔

امیر شریعت کو جب اس واقعہ کی اطلاع اخبارات کے ذریعہ ملی تو کچھ دیر خاموش رہے



کہ فرمایا: "قانون اپنی ضرورت کے لیے چپ ہے، لیکن عصمت آب خاتون کا بیگناہ خون آج نہیں توکل ظالموں کی آپ نشاندہی کرے گا، اور وہ دامن جس پر حسین بی بی کا خون چسک رہا ہے، بگڑت کے کوچہ بازار میں رسوا ہوگا۔"

حکومت کی پھینپی پالیسی میں جب تضاد ہو، تو ملک کی دوسری جماعتیں اپنے لیے کیونکر راہ عمل متعین کر سکتی ہیں۔

پاکستان کے دانشوروں نے ۱۹۵۲ء کے بعد سے جو ڈرامہ شروع کر رکھا ہے، اس میں تماشاخی کے علاوہ کوئی کردار بہتر نہیں تھا۔ حضرت امیر شریعت تبلیغی اجتماعات کے علاوہ کسی دوسرے جلسے میں شمولیت سے اجتناب کرتے رہے، ویسے بھی ان کی صحت، بیماری جو بڑھاپے کے دوش پر آگے بڑھ رہی تھی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ انہی حالات میں ایک دوست نے سوال کیا: "شاہ جی! آپ کو یہ مرض (ذیابیطس) کب سے ہے؟" جواب میں کہا: "سکھر جیل سے اس مرض نے رفاقت شروع کی تھی، اور اب تک سنگت بھارا ہے۔ خیال ہے کہ کم بخت موت تک ساتھ دے گا؟"

ڈسٹرکٹ جج کیمبل پور | ۱۹۵۲ء کے بعد تحریک مزابیت کو ہر پاکستانی نے سمجھ لیا تھا، اور اس کے خود ساختہ فوائد و فوہرنگی سانچے میں ڈھل کر حقیقت اسلام کی بربادی کر رہے تھے افسانہ ہو کر علوم کے سامنے آگئے تھے۔

ایک (مزابی) عورت مسماں امترہ الکریم کا نکاح کیپٹن نذیر (مسلمان) سے ہوا اس انکشاف پر کہ عورت کا مذہب اسلام نہیں ہے کیپٹن نذیر احمد نے اسے طلاق دے دی، اس پر عدالت میں مقدمہ چلا اور ۲ جون ۱۹۵۵ء کو شیخ محمد اکبر ٹریڈنگ جج کیمبل پور نے میاں محمد سلیم سول جج راولپنڈی کے سابقہ فیصلے کی تصدیق کر دی، کہ قادیانی مسلمانوں کا فرقہ نہیں، اس لیے قادیانی عورت کا نکاح مسلمان مرد سے نہیں ہو سکتا۔

گو اس سے پیشتر سیشن جج مہاول پور اور سیشن جج گورداسپور کے فیصلے علوم میں آ

چکے تھے، لیکن تقسیم ملک کے بعد ڈسٹرکٹ جج کیمبل پور کے فیصلے نے ۱۹۵۳ء کے واقعات کی تائید کر دی۔

حضرت امیر شریعت کو جب اس فیصلے کی اطلاع ملی تو خوشی میں آنسو نکل آئے اور اسی وقت شکرانہ کے چار نفل ادا کیے اور ساتھ ہی کہا:

”سو سنار کی، ایک لوہار کی، میری گذشتہ محنت سے ممکن ہے مہزائیت پر اس قدر ضرب کاری نہ لگی ہو، جس قدر کیمبل پور کے ڈسٹرکٹ جج کے قلم نے مہزائیت کو فنا کر دیا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ حکومت کے اپنے آدمی نے راج الوقت قانون کے تحت دیا ہے۔ اب میرے کہنے کی بات نہیں، حکومت خود سوچے کہ کیشن جج کیمبل پور کے اس فیصلے کے بعد مہزائیت کے متعلق اس کی کیا پالیسی ہے“

رہائی کے بعد پہلی تقریر | مئی (۱۹۵۵ء) کے آخری پندرہواڑے میں سرفیوز خاں نون پنجاب کی وزارتِ عظمیٰ سے الگ کر دیے گئے تو حالات نے نئی کرٹلی، پیشتر اس کے کہ آنے والے کل کو حالات مزید بگڑ جائیں مرکز میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے ۱۲-۱۳ جون ۱۹۵۵ء تک اپنا مرکزی اجلاس لائپور میں بلانے کا فیصلہ کیا۔

تحریک ختم نبوت کے دنوں مولانا داؤد غزنوی کی زعمائے اجراء سے ملاقات، جماعت اسلامی کے لیڈر مولانا مودودی کا اس تحریک میں کردار، اہرار ہماؤں کی حوامی لیگ میں شمولیت سے حوام میں اکثر قلم نمیاں پھیل رہی تھیں، ان کی وضاحت کے لیے لائل پور کا اجلاس بڑی اہمیت کا حامل تھا۔

لائل پور میں ان دنوں دفتر ۴۲۲ کا نفاذ تھا، لہذا اجلاس میونسپل حدود سے باہر پیپلز کالونی میں رکھے گئے اور آخری دن امیر شریعت نے تقریر کی۔ تحریک ختم نبوت کے بعد امیر شریعت کی یہ پہلی تقریر تھی۔ حوام اور حکام دونوں کے کان اس تقریر کے منتظر تھے۔

ہر لینڈ کے مشہور محبت وطن مسٹر ڈمی ولیرہ کے متعلق یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے اور پولیس نے انہیں دورانِ تقریر گرفتار کر لیا۔ دو سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ رہائی کا دن آیا تو پارٹی کو اطلاع دی کہ میں رہا ہو کر سیدھا اسی جگہ پہنچوں گا، جہاں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ لہذا آپ جلسے کا انتظام وہیں کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ہجوم منظر تھا۔ مسٹر ڈمی ولیرا کار سے اترے اور جلسہ گاہ میں چلے گئے۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا: "تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گرفتاری کے وقت جہاں سے بات چھوڑی، دو سال کے تعطل سے بات میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔"

حضرت امیر شریعت کچھ دن گھر میں سستائے، تازہ دم ہو کر نئے سفر کے لیے پھر نکل کھڑے ہوئے، تو سب سے پہلے آپ نے ہل لائل پور کو خطاب کیا۔ خطبہ منورہ سے پہلے فرمایا: "اٹلی کے مشہور فلاسفر مسٹر گلیلیو نے پہلے پہل یہ دعویٰ کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں زمین متحرک ہے، اس پر اس وقت کے قانون دانوں نے اسے مجرم قرار دے کر گرفتار کر لیا اور عدالت کے سامنے پیش کیا؛

عدالت: کیا تم نے کہا ہے کہ زمین متحرک ہے؟

گلیلیو: ہاں! میں نے کہا ہے کہ زمین متحرک ہے۔

عدالت: تو پھر بطور سزا کے یہ زہر کا پیالہ پی لو!

گلیلیو نے زہر کا پیالہ اٹھایا اور منہ کے قریب لے جا کر پھر زمین پر رکھ کر عدالت سے

مخاطب ہوا۔

"اگر میں یہ کہہ دوں کہ زمین متحرک نہیں تو پھر؟"

عدالت: تو بھر جا سکتے ہو۔

گلیلیو اٹھا اور عدالت کے دروازے تک جا کر پھر پلٹ کر کہنے لگا: "مجھے تو اب بھی

زمین متحرک معلوم ہوتی ہے۔" یہ کہا اور زہر کا پیالہ پی لیا۔

امیر شریعت اس قصبے پر سکرائے اور فرمایا ارشاد خداوندی ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور حدیث رسول اللہ ان خاتم النبیین لانبی بعدی کے بعد میں کیسے کہہ دوں کہ کوئی دوسرا نبی آسکتا ہے۔ میری تو اب بھی میری رائے ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا میں اسے انسان بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، میں تختہ دار پر بھی میری کموں گا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، تمہارا قانون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اب رہ بھی کیا گیا ہے جو بگاڑ لوگے۔ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میاں کی عزت پر نثار ہو جائے تو جان چھوٹے؟

اس کے بعد آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور فرمایا:

”مجھے آپ سے تین باتیں کہنا ہیں۔ پہلی یہ کہ جس دھند سے کوہم لے کر بیٹھے ہیں، یہ کیا چیز ہے؛ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، کسی کے مکان کی چھت ٹپکنے لگے تو اس نے اپنے مکان کو کھلی طرف سے لپٹا شروع کیا۔ جب لپٹ کر فارغ ہوئے تو دیکھا یہ تو ہمسایوں کا ہی مکان لپٹا گیا ہے۔ یہ آج کی نئی بات نہیں، چھ سو برس سے امت اسی پر ڈٹی ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی میں مسلمان تقریباً پچھتر کروڑ ہیں۔ حضور کے عہد سے لے کر اس وقت تک کتنے پیوند خاک ہو گئے، ان میں کتنے صحابی، تابعی، اولیٰ، ثورث قطب، فقیہ، امام اور بزرگ گزرے۔ تمام امت کے اولیاء لاکھوں صحابہ سب اسی عقیدے پر ڈٹے رہے کہ حضور کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملی، کوئی ماں نہیں ہے جو نبی بنتی۔“

اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، آمنہ کا بیٹا، عبداللہ کے گھر کا چاند، عبدالمطلب کا پوتا،

صدیق اکبرؓ اور عمر ابن خطابؓ کا دادا دادا، عثمانؓ اور علیؓ کا خسر، حسینؓ کا نانا، فاطمہؓ کا آبا، جن کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، پھر کروڑ مسلمان اس وقت اس عقیدے پر کھڑے ہیں اور اربوں پیوند خاں ہو چکے ہیں۔ صاحب فکر و عمل، علم و ہمت، صاحب فہم و فراست پیدا ہونے لگے اور پیوند خاں ہو گئے اور سب اسی عقیدے پر قائم رہے۔

اللہ نے فرمایا، ہم نے آپؐ کو تمام آدمیوں کے لیے خوشخبری سنائے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور فرمایا کہ اسے نبی! اعلان کرو کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اور جس زمانے میں بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں زمین پر، چاند پر، مریخ پر، مشرق میں، مغرب میں، نیچے، اوپر، سخت السرٹی میں اعلان کر دیکھئے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم سب کی طرف پیغمبر بن کر آیا ہوں، اچھی چاہے مانو، اچھی چاہے نہ مانو، یہ ہے اصل عقیدہ۔

اب اگر قرآن میں خاتم النبیین کی آیات نہ بھی ہوں تو بھی یہ لفظ کافی تھا۔ عقیدہ عقد سے ہے اور عقد کہتے ہیں دل کی گرہ کو۔ قرآن سینہ بہ سینہ حضورؐ سے صحابہ تک پڑھتے پڑھاتے ہیں وراثت میں ملا ہے۔ عقیدے کے بغیر عمل بھی نہیں ہوتا، برا ہو یا بھلا، اور حشش کا نام ہی عقیدہ ہے۔ نماز کی فوقیت دل میں نہ ہو تو وضو کیوں کر سے، توحید بڑی چیز ہے، لیکن ختم نبوت اگر اس سے نکال دو تو یہ بھی کچھ نہیں رہتی، ماننے کو تو کتے کے لوگ بھی خدا کو مانتے تھے، چاہے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور یہودی غدیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، کعبے میں تین سو ساٹھ خدار کھتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کعبہ کرتے تھے۔

جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ کے گھر میں چاند نلا، کعبہ میں

جھاڑودی اللہ کا نام بلند کیا اور فرمایا کہ تم یوں بڑھ چڑھ کر ان کو خدا بنا تے ہو،  
یہ سب جھوٹے ہیں۔

نبوت کا مقام تو بہت ہی بڑا مقام ہے، ذرا کیر مکر تو دیکھو حیا کے بارے  
کبھی نگاہ نہیں اٹھی، یہ تو نبوت کی بات تھی، میرے مرشد حضرت مولانا رائے پوری  
دس سال کے بعد ضلع سرگودھا میں اپنے گھر آئے تو بڑی حقیقی ہمیشہ کو نہ پہچانا  
جب تک کہ انہوں نے بات نہ کی۔ حضرت فرماتے تھے کہ بچپن ہی سے میں نے  
انہیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ شرم و حیا کی بات ہے۔

ہم خدا کو جانتے ہی نہیں، محمد کو جانتے ہیں۔ ابو جہل صدیق اکبر کے پاس  
آیا اور کہا کبھی کوئی آسمان پر گیا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا "نہیں"۔  
ابو جہل نے کہا "تیرا یا رکتا ہے میں وہاں سے ہو آیا ہوں" صدیق اکبر نے  
فرمایا "تو وہ سچ کتا ہے۔ اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا"۔

تیسو سال کی بات ہے، ایک آدمی کی وساطت سے مرزائی عرب شریف  
چلا گیا تھا اور مدینہ میں جا کر مرزا کی نبوت کی تبلیغ کی۔ میں اس شخص کا نام نہیں  
لیتا جس کی وساطت سے مرزائی گیا۔ میں نے اس سے آج تک کلام نہیں کی  
اور ذکر دل گا۔ یہ مرزائیوں کا تبلیغی نظام ہے۔

میں اکتوبر ۱۹۲۳ء میں رہا ہو کر امرتسرا آیا تو معلوم ہوا مولوی نور احمد مدنی  
نے قادیان میں جلسہ کیا۔ بہت سے علماء کرام آئے اور وعظ کر کے چلے گئے تب  
ہم نے نکر کی کہ یہ انفرادی تبلیغ جماعتی تنظیم کے مقابلے میں کچھ نہیں، جماعت  
کا مقابلہ جماعت سے ہونا چاہیے۔

۱۹۳۱ء میں ہم نے سوچا، حضور علیہ السلام کی نبوت کو مٹانے کا نظام بن  
رہا ہے، تب سے جماعت بنی اور اس کا شعبہ تبلیغ مقرر ہوا، جس کا تعلق

ملک کے سیاسی معاملات سے نہیں تھا۔

اسلام کی بنیاد مسئلہ ختم نبوت پر ہے۔ جب حضور نے فرمایا لَا نَبِيَّ بَعْدِي لَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا أُمَّتَ بَعْدُ گواہ شروع سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر حشر کے گرم ہونے تک کوئی نہیں جو عقیدہ بدلے، ہم اس کو لے کر اٹھے ہیں، اس کا کسی ملکی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔

بعض لوگوں کو شک ہے کہ ہم اس تحریک میں حکومت کے سامنے ٹھک گئے ہیں، ارے تم سیشہ انگریزوں کے سامنے ٹھکتے رہے ہو، تو ہم اگر مسلمان حکومت کے سامنے ٹھک گئے تو کیا ہوا، ارے امیرے اپنے میز ساتھ چھوڑ گئے تو میں کسی کو کیا کہوں، آپ کسی پارٹی میں چاہیں جائیں، لیکن ادھر بھی توجہ رکھیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آتی تو سرفراز اللہ سے ہی سمجھ لو، وہ دلکرا کی ایگزیکٹو کونسل سے لے کر پاکستان کی وزارت خارجہ تک جہاں رہا، قادیان نہیں چھوڑا۔ آپ کو سرکار کا ملازم ہو کر تحفظ ختم نبوت سے شرم کیوں آتی ہے؟ سو دفعہ جاؤ غلامی لیگ میں یا مسلم لیگ میں، لیکن تمہاری جو اینیوں کا صدر، تحفظ ختم نبوت کی طرف بھی نگاہ گرم ڈالتے رہو۔

کفر کا پیر و گرام کوئی آج کا نہیں ہے، جب سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے، تب سے مسلمہ کذاب پیدا ہونے شروع ہوئے، حضرت ابو بکر نے سات ہزار حافظ قرآن صحابہ کو ختم نبوت کی خاطر شہید کروا دیا تھا۔ کہتے ہیں نتیجہ کچھ نہیں نکلا، ارے نتیجہ تو نکل آیا۔ راولپنڈی کے سیشن جج کا فیصلہ تمہارے سامنے ہے۔

تحریک ختم نبوت میں جو کچھ ہوا، اس کا میں اکیلا ذمہ دار ہوں، تمام ذمہ داری میرے سر پہ ہے، اور قیامت تک اس مسئلہ پر جس قدر لوگ مریں گے اس کی ذمہ داری

بھی میرے سر پہے گی۔ میں مودودی نہیں ہوں کہ بددیانت ہو جاؤں۔ مجلس عمل کے اجلاس کراچی میں مودودی صاحب میرے زانوں کے ساتھ زانوں لائے بیٹھے تھے۔ ریزولیشن میرے جانے سے پہلے پاس ہو چکا تھا، میں کیا کروں کسی کی کتابوں کو اور بڑھچو۔

میں اس سے پہلے اجلاس میں نہیں گیا تھا۔ دو سرے دن مولانا محمد علی میرے پاس آئے، اور کہا کہ آج تم چلو۔ میں نے کہا جو پاس کرنا ہے کرو میں عمل کروں گا۔ جب گیا تو داؤد غزنوی کے پاس جا بیٹھا، مودودی بھی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے اپنے دائیں طرف جگہ دی، محمد علی دجاندھری لوگوں سے دستخط کر رہے تھے اور میرا نام بھی لکھوایا، ان کا نام بھی لکھا۔ آج وہ مودودی کہتے ہیں میں تحریک میں شامل نہیں تھا۔ میں کتا ہوں شامل تھا۔ اگر مودودی شامل نہیں تھا تو میں ان سے حلفیہ بیان کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر اعلان کر دیں کہ میں شامل نہیں تھا اور نہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ذمہ دار ہوں، میں تحریک میں شامل تھا۔ ارے جو تحریک میں شامل تھا اس نے سال بھر جیل کاٹی اور جو نہیں شامل اس نے دو سال کاٹی۔ جب میں رہا ہونے لگا۔ تو ڈیوڑھی میں آکر مودودی نے کہا کہ جنہوں نے تقریریں کیں وہ رہا ہوئے اور جنہوں نے فقط سر ہلایا وہ پھنسے رہے، یہ ہے دیانت! ہزاروں شہید ہوئے، ماؤں کے سہاگ لٹے، کئی یتیم ہوئے، کئی اجڑ گئے۔“

آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے:

”اللہ! میں ذمہ دار ہوں، آج بھی ذمہ دار ہوں اور آنے والے کل کو بھی ذمہ دار ہوں گا۔ میں نے یہ سب کچھ تیرے نبی کے نام کی خاطر کیا تھا۔“



ہزاروں کو مروا کر کہہ دوں کہ میں شامل نہیں تھا، کیا یہی دین ہے؟ کیا  
 کروں علم کو اور ادب کو، میرا کلیجا پھٹتا ہے۔ میں بولنے پر آؤں، تو ادھار کیوں  
 رکھوں۔ ارے تم سے کافر گلیلیو ہی اچھا تھا جس نے زہر کا پیالہ پی لیا۔  
 جو ہوتا ہے ہولے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے غلط قدم نہ اٹھوائے۔ کیا جیل  
 میں میں نے وہ بیان نہیں دکھایا جس پر سلطان احمد کے دستخط موجود ہیں،  
 جب کہا تو کہنے لگا ایر اصلاح کے لیے کیا تھا۔

رہی مولانا داؤد غزنوی کی بات کہ وہ مجھ سے جیل میں ملے تو اتنی سی بات  
 کہہ کر ختم کرتا ہوں، اللعنة اللہ الا لکانزین، وہ نیک آدمی ہیں، خدا جائے کسی  
 سیاسی مصلحت کی وجہ سے دہلک صاحب فیروز خان نون وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان  
 نے ان سے یہ کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔

خدا میری بھی لاج رکھے جو کیا ہے اور جو کر رہا ہوں اسی پر قائم رکھے تا میں۔  
 جلسہ رات سوادو بجے ختم ہوا۔ حاضری ڈیڑھ لاکھ کے قریب تھی۔

اسی موضوع پر امیر شریعت نے سارے مغربی پاکستان میں تقریریں کیں، جس سے  
 غلط فہمیوں کے بہت سے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ اسی طرح کا اجتماع گوجرانوالہ میں بھی  
 ہوا۔ شیرانوالہ بانع عوام سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی امیر شریعت تقریر کے لیے کھڑے ہوئے  
 مغرب کی جانب سے کالی گھٹائیں اٹھیں۔ "یار بایں پر جو آیا تو قضا بھی آئی" عوام کا  
 اضطراب بڑھا۔ دو طوفان آنے سے سامنے کھڑے تھے۔ بادل اور بخاری دکھیں کس  
 کی جیت ہوتی ہے۔

امیر شریعت نے عوام سے سوال کیا۔

"کیوں بھئی کیا ارادے ہیں؟ اگر بارش سے ڈر کر بھاگ جانا ہوتا بھی

کہہ دو۔ ورنہ بخاری تو کھڑا ہے۔ حالانکہ میں اس وقت بخار سے ہوں"

اس پر حوام نے بیک زبان کہا: ”ہم بیٹھیں گے شاہ صاحب! بس پھر کیا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی اور امیر شریعت بھی برس رہے تھے۔ ایک رضا کار امیر شریعت پر چھاتہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے غصے میں کہا۔

”کتنے چھاتے لاؤ گے میاں! یہ جو سامنے انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے، ان میں جان نہیں؟ یا تو ان کے لیے بھی چھاتے لاؤ، ورنہ بیٹھ جاؤ۔“

آخر موسلا دھار بارش کا پانی حوام کی کمر تک آن پہنچا، مگر اس پر بھی لوگ اسی طرح جھے رہے، جیسے ان کے سروں پر پرندے بٹھا دیے گئے ہوں۔ جب حوام پانی میں تیرنے لگ پڑے تو امیر شریعت نے کہا:

”بس بھائی! اب میں آپ کا اور امتحان نہیں لیتا، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے گا میری زندگی کا۔“

انہی دنوں مرید کے مصلح شیخ پورہ میں دعوانہ تحریر کیا:

”اگر چہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر اپنے مقصد کے لیے اب بھی جوان ہوں۔“  
اسی سفر میں ایک فومدار پولیس افسر نے سوال کیا: ”شاہ جی! اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟“

”ہاں بیٹا! کیوں نہیں؟“

”دوسری جماعتوں کے سیاسی اور مذہبی رہنما آئے دن مختلف شہروں میں آتے رہتے ہیں، مگر حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی ہدایت نہیں ملتی کہ ہم ان کو دلچسپی کریں لیکن جیسے ہی آپ کسی شہر میں پہنچتے ہیں، ایک دم سے تاریخیں ہلنے لگتی ہیں۔ یہ کیوں؟ آپ نے برحسبہ کہا:

”بھائی! جب کوئی سیمڑا گھر میں آجائے تو کوئی عورت اس سے پردہ نہیں

کرتی، مگر جیسے ہی کوئی مرد آجائے، تو تمام گھر میں پردہ پردہ کا شور مچ جاتا ہے  
اس پر متعلقہ افسر اپنا سامنہ لے کر رہ گیا۔

**وصیت** | مولانا محمد علی جالندھری جو ان دنوں مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ تھے، اور  
شب دروز سفر پر رہتے تھے، جیسے کہ اب بھی ہیں، مولانا کی انتھاک  
مصروفیت دیکھ کر امیر شریعت نے انہیں وصیت کی ادنیٰ راض ہونے۔

”بھائی محمد علی تم میری ریس نہ کیا کرو، میرے پرالہ کی خاص رحمت ہے  
تم زیادہ سے زیادہ پانچ سال اس طرح چلو گے اور پھر ختم ہو جاؤ گے، یا کسی  
نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، جبکہ مجھے چالیس برس ہو چکے ہیں سفر کرنے  
اور میں نے اپنے جسم سے وفات نہیں کی، جس کی وجہ سے اب مر رہا ہوں۔“

**سیاسی انتقام** | مسلم لیگ کی اندرونی کشمکش پاکستان کے عالمی وقار پر بھی اثر انداز ہوئی۔  
یہ وقار برآں ہونے والے واقعات کے ساتھ اس قدر اپنا اعتماد کھو

بیٹھا کہ اپنی ساری سچائی کے باوجود غیر حاکم میں پاکستان کی تجارتی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔  
محمد علی بوگرہ کے بعد چودھری محمد علی وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ نئے وزیر اعظم مولانا ابوالاعلیٰ مودودی  
کی جماعت سے دلی لگاؤ رکھتے تھے، ان دنوں پاکستان کی خارجہ پالیسی امریکہ اور برطانیہ کے  
ہاتھوں میں تھی۔ غیر ملکی سامراج تمام امور اپنی مرضی سے حل کر رہا تھا۔ اس طرح جماعت اسلامی  
اور چودھری محمد علی کا گٹھ جوڑ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہا تھا۔

حضرت امیر شریعت نے اپنی حالیہ تقریروں میں جماعت اسلامی کے لیڈروں کو اس بُری  
طرح تہننا کر کے چودھری محمد علی نے ۱۰ اگست کو اقتدار پر آتے ہی اس کا انتقام لینا شروع کر دیا  
چنانچہ ۱۱ ستمبر ۱۹۵۵ء کو حضرت امیر شریعت سے ایک نوٹس کی تعمیل کرائی گئی کہ:

”۱۴ ستمبر کو آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ملتان کی عدالت میں حاضر ہوں۔“

مولانا محمد علی جالندھری سے بھی اسی طرح کے نوٹس کی تعمیل کرائی گئی۔

ان احکام کی تعمیل کے سلسلے میں امیر شریعتؒ جب عدالت میں گئے تو ڈسٹرکٹ جج صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ”آپ اپنی تقریروں کا لجزم رکھیں“ اور بس!

امیر شریعتؒ نے مسکراتے ہوئے یہ حکم سنا اور عدالت سے باہر چلے آئے۔ کاروان ترقی بدستور چلتا رہا۔ لیکن جولائی ۱۹۵۶ء میں امیر شریعتؒ کو قتل کی مبینہ سازش میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس طرح امیر شریعتؒ کی تمام مذہبی سرگرمیاں کچھ وقت کے لیے رک گئیں۔

یہ نظر بندی امیر شریعتؒ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی، کہ ان دنوں وہ اپنی بیماری کے علاج میں کیسوتی سے مصروف ہو گئے، لیکن دل بیقرار کو چین کہاں۔ دل بیماری میں اور دماغ حق کے راستے میں خائل دیواروں کو توڑنے کی فکر میں رہا۔

ان دنوں مرکزی اور صوبائی سیاست کے گھوڑے سرسپٹ دوڑ رہے تھے۔ لیکن ذرا گورنر جنرل بن چکے تھے اور ڈاکٹر خاں صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ۔ ان دنوں کے درمیان چودھری محمد علی کی وزارت دو خاوندوں کے درمیان بیوی کی طرح وقت گزار رہی تھی۔ اس کشمکش میں دم توڑتی ہوئی تحریک ختم نبوت کی صدائے بازگشت کبھی کبھار امیر شریعتؒ کی تقریروں سے سنائی دیتی رہی۔ اقتدار پسند سیاستدان بھی اس سے غافل نہیں تھے۔ چنانچہ ۱۲۔ اپریل ۱۹۵۶ء کو خانیوال (ضلع ملتان) کی ایک تقریر کی بنا پر امیر شریعتؒ کو سیٹھی ایکٹ کی دفعہ ۲۱ کے تحت گرفتار کر لیا گیا، اور اسی روز نوابزادہ عبدالرحیم ڈیوٹی جج صاحب ملتان نے تین ہزار روپے کی ضمانت پر آپ کو رہا کر دیا۔

یہ مقدمہ چودھری غلام مرتضیٰ کی عدالت میں ۲ جولائی کو شروع ہونا تھا، مگر ملتان میں نظر بندی کے باعث امیر شریعتؒ عدالت میں حاضر ہی سے قاصر رہے۔

یہ مقدمہ ہنوز شروع نہیں ہوا تھا کہ ۲۹۔ جون ۱۹۵۶ء کو سیٹھی ایکٹ کی دفعہ ۲۱ کے تحت دوسری گرفتاری کے وارنٹ بھی آن پہنچے۔ یہ گرفتاری جلال پور پیر والا (ضلع ملتان) میں ۹۔ اور ۱۰۔ مارچ ۱۹۵۶ء کی درمیانی رات کو ایک تقریر کی بنا پر عمل میں آئی۔ یہ مقدمہ

لاجہ محمد ایوب کی عدالت میں شروع ہوا۔ امیر شریعت اپنی پیرانہ سالی، بیماری اور بون کے تپتے ہوئے موسم میں مقررہ تاریخ پر احاطہ عدالت سے باہر جا بیٹھے اور مشتاقان دیدن بھران کے گرد جمع رہتے۔

امیر شریعت کی نظر بندی اور گرفتاریوں کے خلاف سارے پاکستان میں احتجاجی اجتماع ہوئے۔ اخبارات نے نوٹ لکھے۔ جلسوں میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے رہائی کا مطالبہ کیا۔

اس دور میں مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت نے امیر شریعت کی سرپرستی میں روزنامہ ”نوائے پاکستان“ کو از سر نو چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر امیر شریعت نے حسب ذیل الفاظ میں اس اخبار کا خیر مقدم کیا۔

”نوائے پاکستان“ جن عزائم و مقاصد کو لے کر اپنا دور جدید شروع کر رہا ہے میں ان عزائم و مقاصد کی کامیابی کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں۔

ہمیں ملک کے سیاسی بکھڑوں میں الجھنے اور پھنسنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پیش نظر صرف ایک ہی موقف ہونا چاہیے اور وہ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تحفظ۔ اس کے علاوہ جو باتیں ملحوظ رکھنی ضروری ہیں وہ پاکستان کی عمومی خدمت اور جمہور المسلمین کو ان گراہیوں سے نکالنا ہے جو ان کے عقائد و اعمال میں جڑ پکڑ چکی ہیں۔

ان الفاظ کے ساتھ میں ”نوائے پاکستان“ کی کامیابی کیلئے دعا گو ہوں۔“

یہ ۳۔ جولائی ۱۹۵۶ء کا واقعہ ہے۔

پابندی کے سرکاری احکام کو لاہور ہائی کورٹ میں اس موقف کے تحت  
رہائی چیلنج کیا گیا۔

اسلامی مملکت کے کسی باشندے کی نقل و حرکت پر پابندی حائد نہیں  
 کی جاسکتی اور نہ ہی اسے کسی خاص علاقہ میں پابند کیا جاسکتا ہے۔  
 لہذا عدالت عالیہ حکومت کے نام نوٹس جاری کر کے بر دور ہٹاؤں (مولانا  
 سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا محمد علی جالندھری) کی نقل و حرکت پر سے  
 پابندی اٹھانے کے احکام جاری کرے۔“

ہائی کورٹ میں اس مقدمے کی پیروی کے لیے میاں محمود علی قصوری ایڈووکیٹ کی  
 خدمات حاصل کی گئیں۔ مقدمہ بھی ابتدائی مراحل میں تھا کہ ۱۲ جولائی ۱۹۵۶ء کے اخبارات  
 میں حسب ذیل خبر شائع ہوئی۔

”ڈاکٹر خاں صاحب وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان نے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ  
 بخاری پر حائد کردہ تمام پابندیاں اٹھائیں۔ حکام نے یہ قدم حضرت امیر شریعت  
 کی خرابی صحت کی بنا پر اٹھایا ہے۔“  
 لیکن مقدمات بدستور قائم رہے۔

ان دنوں امیر شریعت کی صحت خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ رات کو اکثر بے خوابی رہتی۔  
 بھوک کی کمی، اختلاج قلب اور تھجیر کی بھی شکایت تھی۔ اس موقع پر اکثر اہباب صحت کے بارے  
 میں پوچھتے تو بڑی سادگی سے فرماتے:

”بھائی! اب طبیعت ہی نہیں ہے، حال کیا بتاؤں! کل جگر مراد آبادی  
 کی غزل ان کے بیاض میں پڑھی تو تین شعر یاد ہو گئے تھے۔۔۔“

وہ اٹھتا ہوا اک دھواں اول اول

وہ بھتی سی چنگاریاں آخر آخر

قیامت کا طوفان وہ صحرا میں اول

خباہر وہ کاندان آخر آخر

چمن میں عنادل کا مسجد اول  
گیاہ رہ گلی رخاں آخر آخر

امیر شریعت کی صحت مندرجہ بالا اشعار سے واضح ہے۔

امیر شریعت کا ان دنوں لاہور آنے کا ارادہ تھا تاکہ طبی مشورہ لیا جاسکے، لیکن نظر بدی کے علاوہ جلال پور پیر والا اور خانپور کے مقدمات راستہ روکے ہوئے تھے۔

سیاسیات میں جھوٹ بولنا، فریب دینا اور فریب کھانا، کسی قانون کی زد میں نہیں آتا۔ سیاستدانوں کی ساری زندگی انہی پگڈنڈیوں پر چلتی ہے۔

مخلوط انتخاب

گذر جاتی ہے اس راستے میں دادی خازر بھی ہے اور لالہ گل کی بزم آرائیاں بھی۔ سیاست میں ضرورت کے لیے حرام کو حلال قرار دے لینا بھی جرم نہیں۔ ۱۹۳۰ء سے پیشتر کے سیاسی موڑ پر نظر ڈالی جائے تو ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ اگر ملکی ضرورت کے باعث نیشنلسٹ مسلمانوں کے لیے درست تھا تو رحمت پسند اور ٹوڈی مسلمانوں کے لیے ستم قاتل۔ انگریز حکمران آخر الذکر طبقہ کا پشت پناہ تھا۔ مخلوط انتخاب کے ذریعے ہندو مسلمان اتحاد کی دیواریں کو استوار کرنا ان کے نزدیک مسور کے گوشت کو حلال قرار دینے کے مترادف تھا اور ایسا مسلمان مسلم لیگ کے نزدیک بھی گردن زنی تھا جس نے آزادی وطن کے لیے مخلوط طرز انتخاب کا سلوگن (SALOGAN) دیا۔ تقسیم ملک کے بعد مسٹر جین شہید سہروردی نے بطور وزیر اعظم پاکستان جب نیشنلسٹ مسلمانوں کے منہ کا جھوٹا نواہ خود کھانا چاہا اور پاکستان میں مخلوط انتخاب رائج کرنے میں اپنے کو حق بجانب قرار دیا تو وہ لوگ جن کے نزدیک گزرے ہوئے کل ایہ نعرہ جرم تھا آج وہی سہروردی کے بہنو اتھے، کیونکہ آج انہیں اس کی ضرورت تھی۔

شہید سہروردی نے یہ نعرہ مشرقی پاکستان کے غیر مسلموں کے دوٹ حاصل کرنے کے لیے لگایا تھا، لیکن مغربی پاکستان کی سیاست بالکل جدا تھی۔ ۱۹۵۳ء کے مرزائی اور مسلمان کشمکش نے حوام کے دلوں میں یہ شبہ ڈال دیا کہ ۱۹۵۰ء کے انتخاب میں چونکہ آٹھ مرزائی بری طرح ناکام

رہے تھے حالانکہ مسلم لیگ نے انہیں اپنا نمائندہ منتخب کیا تھا۔

اب مخلوط انتخاب کے ذریعے انہیں اسمبلی میں لانے کے لیے چور دروازہ کھولا گیا ہے، یہ بحث سارے ملک میں جاری تھی کہ الجزائر می رہنماؤں کا ایک وفد علامہ امیر الابرار سمی کی قیادت میں پاکستان کے دور سے پر آیا۔

مٹان کے محترم شہریوں کے علاوہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے بھی انہیں استقبال دیا، اس موقع پر حضرت امیر شریعت نے مترجم کے ذریعہ وفد کے لیڈر سے گفتگو کی اور الجزائر کی آزادی کے لیے رٹنے والے مجاہدین کو خراج تحسین پیش کیا، نیز الجزائر می رہنماؤں کی درائی عمر کے لیے دعا کی۔

متحدہ ہندوستان میں انگریزی دور اقتدار میں غلام ہندوستانیوں پر تشدد کا ذکر کرتے ہوئے اقوام یورپ کی مختلف سیاسی چالوں کا وضاحت سے ذکر کیا، اور قادیانیوں کی غیر ملکی سرگرمیوں سے بھی الجزائر می رہنماؤں کو خبردار کیا۔

حالات کی ناسازگاری، جہانی کمزوری اور داعی پریشانی کے باعث  
لاہور میں آمد امیر شریعت پران دنوں فلج کا ایک اور ہلکا سا حملہ ہوا جس کے اثرات

گو دیر پا نہیں تھے تاہم پریشان کن ضرورت تھی، اس کے نتیجے میں امیر شریعت نے لاہور آنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پابندیاں ختم ہوتے ہی اگست کے پہلے پندھواڑ سے میں بندیلہ کار بغرض علاج لاہور تشریف لے آئے اور بادامی باغ میں حاجی دین محمد کے ہاں ٹھہرے۔

گو بیماری کی وجہ سے بے حد کمزور تھے، مگر زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ملنے والوں کا استقبال خندہ پیشانی سے کرتے۔ اس دوران آپ نے دوستوں سے محنت بکھانداز میں کہا:

”بیماری کے متواتر حملوں اور نصحی کی وجہ سے اکثر احباب کے خطوط کا

جواب نہیں دے سکا، لہذا میں ان تمام احباب کا ممنون ہوں جو میری



بیمار پرسی کے لیے خطوط لکھتے رہے۔ ان تمام کو میری صحت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی مزید خدمت کے لیے تندرستی عنایت فرمائے۔“

متان کے حکیم عطاء اللہ مرلیض اور مرض دونوں سے آشنائی کے بعد علاج کے عادی ہیں۔ امیر شریعت سے انہیں دلی لگاؤ تھا۔ حکیم صاحب کی طبیعت کی پاکیزگی کی وجہ سے امیر شریعت بھی ان کے معترف تھے۔ لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی تو دوسٹوں کے اصرار پر لاہور آ گئے۔ یہاں سب سے پہلے شفاء الملک حکیم اجل خاں مرحوم کے پوتے حکیم نبی جمال سویدا کا علاج شروع کیا۔۔۔۔۔ ایک ہفتہ علاج سے جب .... افاقہ نہ ہوا تو ڈاکٹر کرنل محمد ضیاء اللہ کا علاج شروع کیا۔ ایک روز امیر شریعت نے ڈاکٹر سے سوال کیا؛ ”آپ کی تشخیص نے مرض سے متعلق کیا فتویٰ دیا ہے؟“

کرنل ضیاء اللہ نے یاس و ناامیدی کے لہجے میں کہا،  
 ”شاہ جی! اب آپ اپنا کوڑھ ختم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو سو سال زندگی عطا کی تھی، جسے آپ نے پچاس سالوں میں ختم کر لیا۔ اب تو کوشش ہی ہے۔“

مشاطہ فطرت نے حضرت امیر شریعت کو کچھ اس انداز سے منواریا تھا کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے، بہاریں ان کے قدم لیتیں، کئی انجنین ان کے اپنے وجود میں بھتیں۔ وہ مسکراتے تو آسمان سے بجلیاں کوندتیں، ان کی پیشانی پر بل آجاتا، تو سلطنتیں کانپ اٹھتیں۔ ستارے رات بھر تندیوں سے ان کی محفل میں بیٹھنا سعادت سمجھتے۔ ویرانوں میں اگر وہ شمع دل فروزاں کرتے، تو پروانے وہاں بھی آموچھ ہوتے۔

حسن بے پروا کو اپنی بے حجابی کیلئے  
 ہوں اگر شہروں سے بن پیار تو شہر چھو کہ بن

اہل لاہور کو جب اطلاع ہوئی کہ امیر شریعت بغرض علاج یہاں آئے ہوئے ہیں، تو دن بھر اجاب کی آمد رفت سے ایک میلہ لگا رہتا۔ گو مرض کے لیے یہ ہجوم مفید نہیں تھا، لیکن مریض محبت کے ہاتھوں مجبور تھا کہ دوست اور دشمن کا استقبال کرے۔ آخر ڈاکٹر کے مشورے پر عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ٹھہرایا گیا۔ جیسے جیسے مرض سنبھلا لیتی گئی، مریض آپ سے آپ سنبھلتا چلا گیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری روزانہ عصر کے بعد تشریف لاتے، اور امیر شریعت کے دل پر کافی دیر تک ہاتھ رکھ کر دم کرتے، اس دوران امیر شریعت کا گریبان کھلا رہتا۔

نماز عصر کے بعد جو محفل لگتی ان میں شیخ حسام الدین، امیر تاج الدین انصاری، مولانا ابوالحسنات منظر علی شمسی اور ان کے علاوہ شعراء کرام، ادیب، صحافی اور کاروباری حضرات کا ہجوم بھی رہتا۔ اسی طرح کی ایک مجلس میں مولانا ابوالحسنات نے سوال کیا:

”شاہ جی! آپ کو میٹھا پسند ہے یا نمک؟“

امیر شریعت: ”جو چیز میرے رب کو پسند ہو۔“

مولانا ابوالحسنات: ”رب کو تو پھر میٹھا زیادہ پسند ہے۔“

امیر شریعت: ”اگر میٹھا پسند ہوتا تو پہاڑ نمک کے نہ بنائے ہوتے۔“

اس پر تمام مجلس میں قہقہہ بلند ہوا۔ ایک دوسری مجلس میں سوال ہوا۔

”پروردہ اسلام میں کیوں رائج ہے۔“

امیر شریعت نے متھوڑی دیر چپ رہ کر فرمایا:

”میاں بیوی کے درمیان رغبت کو مزید بڑھانے کے لیے پروردہ رائج کیا گیا ہے۔“

اگر بے جہانی عام رواج پر مبنی تو میاں بیوی کے درمیان محبت کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا۔“

مخدوم محترم حضرت مولانا عبدالعقود رائے پونڈی دامیر شریعت کے مرشد اہل دینوں لاہور

ہی میں تشریف فرما تھے، انہیں جب اطلاع ہوئی تو ہنسنے کے لیے خود تشریف لائے۔ پیر اور

مرید کے مابین کافی دیر محفل رہی۔ حضرت لاہوری بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ امیر شریعت نے دونوں حضرات سے دعا کے لیے درخواست کی، تو حضرت رائے پوری نے فرمایا: آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے شاہ جی! تو اور کس کے لیے کریں گے؟ آپ تو ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہیں، یہ سن کر امیر شریعت زار و قطار رونے لگے، اور کافی دیر روتے رہے۔ اس دن کی یہ مجلس آنسوؤں کے طوفان میں بہ گئی۔

شہنشاہ کے کچھ دوست ملنے آئے تو ان سے گفتگو طویل ہو گئی۔ اس دوران حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ گیا، تو امیر شریعت نے وقت انگیر لے لیا اور کہا: «مولانا سید انور شاہ صاحب اپنے دور کے بہت بڑے محسن تھے اور ان کی زندگی اسلاف کی جتنی جاگتی تصویر تھی»

اس گفتگو کا رخ مگر حجب شیعہ دماغی مناقشات کی طرف آیا تو امیر شریعت نے ایک

آہ بھر کر کہا:

«قوم کن راستوں پر چل نکلی ہے، جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں، تو رات رات بھر سوچتا رہتا ہوں، کہ آخر کیا بنے گا؟ کیونکہ اس ملک کا اور خود مسلمانوں کا فائدہ ان کے باہمی اتحاد میں ہے، اور صحیح اسلامی نظریات بھی سمجھی ہمہ گیر ہو سکتے ہیں»

ایک دن مولانا ابوالحسنات نے تحریک ختم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

«شاہ جی! لوگ بھی عجیب ہیں! ایسی ایسی غزلیں کہتے ہیں کہ جی کا نہ مطلع درست ہے نہ مقطع۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، حضرت! یہ درست ہے کہ عطا اللہ شاہ نے حکومت سے روپیہ لے کر تحریک ختم نبوت کو ختم کیا ہے؟ تو میں نے غصے میں اس سے کہا: بیوقوف! تیرے جیسے لوگوں نے تو مجھے ان نیک لوگوں سے برگشتہ کیا ہوا تھا۔ جب میں ان کے نزدیک ہوا، تو انہیں

دین کی خدمت کرنے میں بہت مخلص پایا۔ باقی رہی تحریکِ نغمِ نبوتِ اتو و میری رہنمائی میں چل رہی تھی۔ اگر کوئی بات ہوتی تو میرے علم میں ہوتی۔ رہی روپیہ لینے کی بات تو مجھے یاد ہے ایک دفترِ سکھر جیل میں شاہ جی کا داماد سید وکیل احمد شاہ، میرے سامنے انہیں ملنے آیا، اور اس نے سکھر کی پریشان حالی کا ذکر کیا تو شاہ جی نے حاجی دین محمد صاحب کی طرف رقعہ لکھا اور رقعہ حامل بڑا کھو صد روپیہ قرض دے دیں۔ انشاء اللہ رہا ہو کر آپ کو ادا کر دوں گا۔ ان واقعات کی موجودگی میں میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں اس پر مترض بہت شرمسار ہوا۔

مولانا ابوالحسنات کی زبانی یہ سارا کچھ سن کر امیر شریعت نے ایک آہ بھری اور فرمایا۔

”زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا

اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں“

اس شعر پر مولانا ابوالحسنات نے مسکراتے ہوئے کہا:

”سبحان اللہ! کیا تعریف ہوئی ہے ہماری“

اس پر محفل کے تمام لوگ بے اختیار ہنس پڑے۔

انہی محفلوں میں ایک دن حفیظ جاندھری بھی شامل ہوئے اور  
**حفیظ جاندھری** دیر تک اپنے اشعار سے امیر شریعت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی  
 کوشش میں رہے، لیکن اس روز امیر شریعت کو جس قدر زہر ارادہ پریشان دیکھا اس سے  
 پیشتر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شکن آلود پیشانی پر غصے کے ہزاروں نقشے ابھر کر پھرے ہوئے  
 دریا میں موجوں کی طرح طوفان بپا کرنے لگے۔

اصول کے معاملے میں امیر شریعت جب بڑھتا ہے تو دوست کو بھی دشمن بنا لیتے لیکن  
 اخلاق کے بازار میں ان کے ہاں جو سودا تھا، اس کے لیے وہ دونوں میں امتیاز نہیں کرتے تھے۔  
 مگر حفیظ جاندھری سے اس روز کی بے اعتنائی ہیرت انگیز تھی۔ غصے میں کہا: ”حفیظ صاحب! آپ

اپنے اردوں میں نہ چلے کامیاب ہوئے ہیں، نہ آئندہ انشاء اللہ کامیاب ہوں گے۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے اپنی طرف متوجہ نہ کریں۔

امیر شریعت کے یہ مختصر جملے ساری محفل کا مزا کر کے رکھتے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوال دلوں سے نکل کر زبانوں پر آئے ہی والا تھا مگر حفیظ صاحب اٹھ کر چلے گئے۔

”شاہنامہ اسلام“ کی پہلی جلد طبع ہو کر جب بازار میں آئی، تو امیر شریعت ان دنوں تحریک شاتم رسول میں مصروف تھے۔ تاریخ اسلام کو پہلی بار منظوم کیا گیا تھا۔ اور انداز بھی خوب تھا، جسے مصنف کے ترجم نے مزید جلا دی تھی۔

امیر شریعت کو شاعر کا یہ طرز تکلم پسند آیا، اور وہ ”شاہنامہ اسلام“ کے مطالعہ کے لیے مسلم نوجوانوں کو دعوت دینے لگے۔ اس کے دورِ رد عمل ہونے، اول کتاب مذکور کا پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا اور مصنف کا نام پنجاب کی فضاؤں میں تیرنے لگا۔ دوسرا یہ کہ امیر شریعت اور حفیظ صاحب کے درمیان قرابت داری کو غنیمت جان کر فرنگی حکمرانوں کے ایجنٹوں نے امیر شریعت کو رام کرنے کے لیے مفید سمجھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کھلاڑی اپنی بازی میں مات کھا گیا لیکن کوشش تو دلِ ناتواں نے خوب کی۔

مذکورہ بالا واقعات کی ساری عمارت قیاس یا گمان پر نہیں، بلکہ امیر شریعت کے اپنے یقین پر استوار ہے، ورنہ محبت اور اصول کی دنیا میں پرورش پالنے والا انسان ریت کی دیوار پر اپنے دعویٰ کا اعلان نہیں کر سکتا۔

مولاانا حبیب الرحمن کا انتقال | احباب کی آمد و رفت کے باعث مجالس گرم تھیں حاجی دین محمد کا مکان ادیبوں، شاعروں، سیاسی رہنماؤں

اور مذہبی لوگوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ امیر شریعت بیماری سے نجات کے لیے دل بہلانے میں مصروف تھے ماس طرح سے مریض اپنے مرض سے آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہا تھا کہ ۲ ستمبر ۱۹۵۶ء کو بھارت ریڈیو پر مولاانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے انتقال کی خبر سنی۔ امیر شریعت

پریس فبر کا اس تیزی سے اثر ہوا جیسے پھول پر غیر موسم کا ہوتا ہے اور اس کی تمام پتیاں چھڑ کر گر جاتی ہیں۔

جماعتی زندگی کے علاوہ مولانا حبیب الرحمن کو امیر شریعت بھائی لکھا کرتے تھے، اور یہ رشتہ دونوں حضرات کے گھر دل تک جا پہنچا تھا۔

مولانا حبیب الرحمن کی موت ایک قافلہ سالار کی موت تھی۔ شیر پیشہ ہریت کا مدعا ان کی زندگی کی صدارت تھی جب میدان کارزار میں پہنچتا، تو برطانوی سامراج کا دل دہل جاتا۔ ان کی رہنمائی میں مجلس احرار نے کئی اہم فیصلے کیے جنہیں تاریخ کبھی نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ مولانا کی موت کی خبر سن کر امیر شریعت دن بھر خاموش رہے اور کبھی کبھار ایک آہ سرد کے ساتھ اپنی اس خاموشی کو توڑ کر فرماتے۔

”ایک اچھے رفیق، مونس و غم خوار اور سراپا ایشیا سمیٹی کی جدائی نے میرے سینے میں ایک اور زخم کا اضافہ کر دیا ہے۔“

**ایک فسطح خبر** | سیاسی راہنماؤں کو اخبارات میں اپنے نام شائع کرانے کی عام بیماری ہے۔ لیکن امیر شریعت اخبارات میں بیان دینے سے ہمیشہ اجتناب کرتے، اگر کہیں نام نگاروں کے زرخے میں آجاتے، تو انہیں بڑی حکمت عملی سے ٹال دیتے، حالانکہ بعض دفعہ ان کی ذات سے متعلق بہت سی فسطح خبریں شائع ہوتی رہیں، لیکن وہ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ مگر شیخ حسام الدین احمد نامہ سراج الدین کے عوامی لیگ میں چلے جانے پر بہت سی بے بنیاد خبریں تراشی جانے لگیں، اور ان دنوں عوامی لیگ پاکستان میں معنوط انتخاب کی حامی تھی، جس کے باعث تحریک ختم نبوت کو نقصان پہنچنے کا احتمال تھا چنانچہ جیسے ہی بے بنیاد خبر اخبارات میں شائع ہوئی کہ:

”امیر شریعت حضرت مولانا سید عطار اللہ صاحب بخاری کو وزیر اعظم پاکستان جناب حسین شہید سہروردی نے عوامی لیگ میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔“

اور راولپنڈی روانہ ہونے سے قبل وزیر اعظم نے حضرت شاہ صاحب کو گورنمنٹ ہاؤس میں ملاقات کے لیے بلایا ہے۔

حضرت امیر شریعت کو جب اس خبر کی طرف متوجہ کیا گیا تو فقط اس قدر فرمایا: ”نامعلوم اس اخبار نے میرے متعلق ایسی بے بنیاد خبر کیوں شائع کی، جبکہ میں مدت ہوئی ان سیاسی بکھڑوں سے الگ تھنک ہو چکا ہوں اور نہ ہی میں اپنی سچی محفلوں میں سیاسی گفتگو کو پسند کرتا ہوں۔ پھر عوامی لیگ! جو کہ مخلوط انتخاب کو پاکستان کی بقا کے لیے بہتر سمجھتی ہے اور میں اسے مسئلہ ختم نبوت کے لیے زیرِ قائل سمجھتا ہوں۔“

مولانا شبیب الرحمن کی موت کے صد سے نے امیر شریعت کی طبیعت پر خاص اثر کیا تھا، اس سے ذرا سنبھالا لیا تو قریباً تین ماہ لاپرواہی گزار کر اپنے معالج ڈاکٹر کرنل ضیاء اللہ کی اجازت سے ۱۳ نومبر ۱۹۵۶ء کو نمان واپس چلے گئے۔ ان دنوں بیماری میں قدم سے افاقہ تھا اور گھر سے نکل کر سلیبی دو خانہ پر آ بیٹھتے۔ اجاب بھی نہیں آجاتے۔ نماز مغرب تک محفل جمتی۔

۱۵- نومبر ۱۹۵۶ء کو اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ حکومت مغربی پاکستان نے حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری پر دائر کردہ تمام مقدمات واپس لے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسری پابندیاں بھی اٹھالی ہیں۔ اس خبر کو پڑھ کر امیر شریعت کو حکومت کے خلاف سخت غصہ آیا اور برہم ہو کر اخبارات کو حسب ذیل بیان دیا۔

”حکومت نے صرف میرے مقدمات اور میری پابندیاں اٹھا کر میری سخت توہین کی ہے۔ حکومت کے اس اقدام سے مجھے بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ میری پوری زندگی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ حکومت نے مجھے جیل بھیج

دیا ہوا اور میرے ساتھی جیل سے باہر رہیں یا میرے ساتھی تو جیل کی تنگ دُمارِ بیک کو ٹھٹھریوں میں مجوس جوں اور میں اکیلا جیل سے رہا ہر جاؤں یہ بات میری جماعت کی تاریخ اور روایات کے خلاف ہے کہ حکومت صرف میرے مقدمات واپس لے لے اور مجھ پر عائد کردہ پابندیاں اٹھائے لیکن میرے تمام ساتھی طرح طرح کے مقدمات میں جکڑے رہیں۔

یہ کیا مذاق ہے کہ جن تقاریر کی بنیاد پر ہم سب پر پابندیاں عائد کی گئیں اور مقدمات دائر کیے گئے، انہی تقاریر کی بنا پر جماعت کے رفقاء تو بدستور مستوب رہیں اور صرف مجھے آزاد کر دیا جائے، حکومت کے اس اقدام سے میری جس قدر بے عزتی ہوئی ہے اتنی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی۔ اس سے بڑھ کرستم ظریفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خانیوال کے مقدمے میں ہم سب ایک ہی جرم کی پاداش میں ماخوذ تھے۔ اس کا عنوان تھا "سرکار بنام سید عطاء اللہ شاہ بخاری دہلیہ"۔ لیکن اسوس کی بات یہ ہے کہ اس مقدمہ سے صرف مجھے خارج کر دیا گیا اور میرے باقی ساتھیوں کو جُدا جُدا کر کے ان کے خلاف مقدمات دائر کر دیے گئے ہیں۔

ایک مقدمہ کو مختلف مقدمات میں تبدیل کرنے میں اربابِ حکومت کی

نیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مولانا ظفر علی خان | ۲۷ نومبر ۱۹۵۶ء کی یہ خبر جب اخبارات میں آئی کہ مولانا ظفر علی خان وفات پا گئے ہیں تو امیر شریعت کے دل پر

ایک چوٹ اور پڑی، کچھ دیر خاموش رہ کر فرمایا:

"تاریخ ماضی کی ایک اور دیوار گر گئی"

خلافت تحریک کے دنوں میں امیر شریعت صرف "زمیندار" اخبار ہی پڑھا کرتے



تھے، اور اسی سے متاثر ہو کر وہ سیاسی میدان میں آئے۔ اس تعلق سے امیر شریعت کے دل میں مولانا ظفر علی خاں کے لیے بے پناہ احترام تھا، پھر دونوں ایک ہی ڈگر پر چلنے لگے۔ جیل خانوں کی اکثریتیں مشترک گزریں۔ اسی محبت اور تعلق کی بنا پر ۱۹۴۲ء کو جب قادیان میں احوار کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا، تو امیر شریعت نے اس کی صدارت کے لیے مولانا ظفر علی خاں کا نام پیش کیا۔ لیکن مولانا حبیب الرحمن کی رائے تھی کہ اس کی صدارت امیر شریعت کریں، اس پر خاصی تکرار رہی۔ آخر مولانا حبیب الرحمن نے لڑھکانے سے امیر شریعت کے نام پیغام بھیجا کہ:

”میرا حکم ہے کہ قادیان کانفرنس کی صدارت آپ کریں، بس!

اس حکم پر سہرہ تسلیم خم کر دیا گیا۔ تاریخ کا یہی وہ موڑ ہے، جہاں مولانا ظفر علی خاں مجلس احوار سے علیحدہ ہو گئے، آگے چل کر دونوں رہنما سربراہ ملتے تو رہے، لیکن یہ ملاقات صرف زبان اور نگاہوں کی ہوتی۔ دونوں کے دل رُوٹھے رہے۔ ۱۹۵۳ء میں جب امیر شریعت تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں کراچی جانے سے پیشتر لاہور میں آخری تقریر کرنے دہلی دروازے آئے، تو مولانا ظفر علی خاں کو بھی وہاں لایا گیا۔ ان دنوں مولانا ظفر علی خاں کی صحت جو اب دے چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں ریشہ طاری تھا۔ دونوں رہنما۔۔۔ آمنے سامنے آئے تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔

ایک ہی راستے کے دو مسافر ایک ہی منزل کے دورانی، جب انہیں واقعات نے ایک دوسرے سے بیگانہ کر دیا، تو دونوں اپنی اپنی تاریخ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ برس ہا برس کے بعد جب دونوں ایک دوسرے سے ملے تو تاریخ مکمل ہو چکی تھی یورپ نے دونوں کے آنسو تاریخ کے دامن میں گرہ دینے کے لیے محفوظ کر لیے۔

مولانا ظفر علی خاں کی موت کی خبر سن کر امیر شریعت نے دل برداشتہ ہو کر کہا:

”کچھ دوست زندگی میں ساتھ چھوڑ گئے اور کچھ کو موت چاٹ گئی۔ اب میں

تہوارہ گیا ہوں، دکھیں اب میری باری کب آتی ہے۔“

امیر شریعت نے یہ فقرے اس انداز سے کہے کہ احباب کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔

یہ سال بھی گزر گیا، اور اس کے واقعات بھی۔ امیر شریعت کی عمر اس سال کے اختتام تک پینسٹھ سال ہو چکی تھی۔ اس دوران کے واقعات تاریخ کی سلسلہ دار زنجیر بنتے جا رہے تھے اور اس زنجیر کی ایک ایک کڑھی دینا تدار مؤرخ کے مستقبل کا ایسا سرمایہ تھی، جس کے ضائع ہو جانے پر تاریخ کے دھورے رہ جانے کا ڈر ہے۔

حضرت لاہوری کا فتویٰ | مودودی جماعت کی اکثر تحریریں آئین اسلام سے انحراف کرتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک تحریر ”خطبات مودودی“ میں دسج

ہے، جس سے توہین کعبہ کا پہلو لگتا ہے۔ جب مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے اس تحریر کا محاسبہ کیا، تو اس جماعت کے کارکن بے قابو ہو کر جواب کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے انہی دنوں حضرت امیر شریعت کا اردو دارناری کلام کا مجموعہ ”سواطح الالہام“ شائع ہوا تھا۔ اس میں ایک شعر تھا۔ ۵

زکات کعبہ تا کاف اچھی

ملاس کفر و کفر دون کفر

اس شعر کی آمد کا پس منظر ۱۹۵۱ء کا وہ زمانہ ہے، جب پاکستان کی صوبائی اور مرکزی

حکومتوں کے درمیان کھینچا تانی اور چیلنجز کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت امیر شریعت نے

اس غیر آئینی ہاتھ پائی کا ذکر احباب کی محفل میں کرتے ہوئے کہا:

”تم ایک پاکستان کو روکتے ہو، باقی مسلمان ممالک کا کیا حال ہے اسب

کے سب ایک دوسرے سے بدتر ہیں۔ کون سی جگہ ہے جہاں ملعون انگریز

نے اپنا کام نہیں کیا۔ اس نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور آج تو

کلمہ میں بھی یا امریکہ ہے یا برطانیہ۔ بہر حال ملوکیت ہے، اسلام دہاں بھی نہیں

اد میں تو بلا خوف کتابوں کے کعبے سے کراچی تک ہر جگہ قانون کفر ہی مغلط ہے۔  
 کہلاتے تو سب مسلمان ہیں مگر کہیں انگریز کے ٹوڈی، اور کہیں نمک حرامان محمد  
 (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں کہ جس شخص انسانیت کی جوتیوں کے صدقے میں ان  
 حیاشوں کو حکومتیں ملیں، عین دقت پر اسی کو فراموش کر بیٹھے (اور پھر اپنے  
 مخصوص جلال آمیز انداز سے مندرجہ بالا شعر پڑھا)

اور اس شعر کو خانیوال کے ایک نوزائیدہ وکیل جن کا مودودی جماعت سے تعلق  
 تھا، اپنے لیڈر کی تحریر کے جواب میں لکھ کر مولانا احمد علی صاحب کی خدمت میں بھیج دیا کہ  
 مودودی پر تو آپ نے اعتراض کر دیا۔ مگر اس شعر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ خیانت  
 یہ کی کہ یہ نہیں بتایا کہ یہ شعر کس کا ہے۔

اس تحریر کے جواب میں حضرت لاہوری نے فرمایا کہ ”یہ بھی کوئی مودودی کا چھوٹا بھائی  
 ہے اور گمراہ ہے“ حضرت لاہوری کا یہ جواب اور اپنا سوال دونوں روزنامہ ”کوہستان“  
 لاہور میں شائع کر دیے۔

امیر شریعت نے جب یہ سارا کچھ پڑھا تو اسی وقت حضرت لاہوری کو حسب ذیل خط لکھا  
 ”مکرمی و محترمی حضرت مولانا احمد علی صاحب زید مجدد!  
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

روزنامہ ”کوہستان“ لاہور میں میں نے دو خط پڑھے ہیں۔ ایک میں میرے  
 کسی شعر پر اعتراض ہے اور دوسرے میں آپ کا فتویٰ میرے وہم میں  
 بھی ذمہ کا یہ بہنوئیں تھا۔ چونکہ آپ فرماتے ہیں کہ شعر سے ذمہ کا پہلو لگتا  
 ہے، آپ کے ارشاد کے بعد میں اس شعر کی کوئی تاویل کرنا نہیں چاہتا،  
 اور استغفر اللہ پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ  
 مجھے معاف کرے۔

ہاں! ایک عرض ہے کہ آپ نے اپنے خط میں مجھے مودودی کا چھوٹا  
 بھائی قرار دیا ہے۔ مولانا! آپ مجھے تقریباً تیس چالیس سال سے جانتے  
 ہیں۔ آپ نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے دیکھا یا شاید جہاں تک اپنے متعلق  
 مجھے خود یاد پڑتا ہے، جھوٹ بولنے کیلئے کسی کو کتنا مجھ سے کبھی نہیں ہوا آپ  
 نے مجھے مودودی صاحب کا چھوٹا بھائی کیسے کہہ دیا۔

چھوٹے بھائی کا لفظ آپ داپس لے لیجئے۔ شعر میں نے قلمزن کر دیا۔

محتاج دعا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری

مقتان - ۵۔ جمادی الثانی ۱۳۷۹ھ

اس کے جواب میں حضرت لاہوری نے امیر شریعت کو حسب ذیل خط لکھا۔

”مخدومی و کرمی!“

حامی حق و داعی باطل امام المجاہدین حضرت مولانا سید

عطاء اللہ شاہ صاحب زیدۃ برکاتہم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کئی دن سے والانامہ کے شرف سے مشرف  
 ہو چکا تھا۔ بے حد عدیم الغرضت ہونے کے باعث ایسا جواب میں  
 تاخیر ہوئی۔ آپ کی حق پرستی کی آپ کو مبارک باد دیتا ہوں، کہ آپ نے اس  
 شعر کو جو مفہوم توہین بیت الحرام ہو سکتا تھا، میری رُزب پیلے اپنے دیوان سے  
 قلمزن کر دیا ہے۔

آپ جیسی بلند پایہ، شہرہ آفاق اور قبول عوام و خواص شخصیت کا اپنے

ایک سوچوم شعر کو قلمزن کرنے سے اہل حق کے دلوں میں آپ کی عزت  
 نسبتاً زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ نے اپنے خط میں دوسری چیز پر تحریر فرمائی  
 ہے کہ میں نے آپ کو مودودی کا چھوٹا بھائی قرار دیا ہے۔ اس شعر سے

قطع نظر کر کے اصلیت یہ ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں جو جوتا ہے۔  
میرے دل میں اس کی اتنی عزت ہے کہ مودودی صاحب کے وجود کی بھی  
اتنی نہیں ہے، چونکہ مودودی صاحب نے ہمارے تمام اسلاف کی توہین کی  
ہے، جن میں معترضین، مجددین، صوفیائے کرام، صحابہ کرام حتیٰ کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے مجھے اس سے بے حد نفرت  
ہے۔ خدا سے اس گمراہی کے گڑھے سے نکالے۔

میں نے آپ کے متعلق جن عقیدت کا اظہار کیا ہے وہ حقیقت پر  
مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تادیر سلامت رکھے، اور بدستور سابق سختی و صداقت  
کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں رہے، اور آپ کی جماعت آپ کے جھنڈے کے  
سائے میں ہمیشہ کامیاب و بامرور رہے۔ آمین یا اللہ العالمین

احمد نیازی۔ امیر انجمن خدام الدین سلاہور

۱۹۔ جنوری ۱۹۵۷ء

پولیس کی نگرانی | بیماری کے باعث امیر شریعت اس قابل نہیں رہے تھے کہ میلے کی  
طرح سفر کرتے۔ نقابت نے ہر طرح کی سرگرمیوں سے معذور کر  
دیا تھا۔ البتہ وہ دوستوں کے اصرار پر کبھی کبھار مقامی جلسوں میں آ بیٹھتے تھے۔ چنانچہ اسی  
طرح کے ایک اجتماع میں جو تحفظ ختم نبوت کے تحت ہوا، تشریف لائے۔ پاؤں میں درد  
تھا۔ طویا کرنا جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ صدارت بھی کی، اور چند منٹ تقریر بھی، اس میں کہا:  
”عزیزو! اب میرے ہیں وہ جان نہیں رہی کہ تمہیں گھنٹوں بٹھانے رکھوں۔  
اب تو چراغ سحر ہوں، اس ٹٹانے ہوئے دیے کی توہین چنا گھڑیاں بیٹھ کر  
اگر تمہیں زندگی کا کوئی نشان مل سکتا ہے تو اسے تلاش کر لو۔“

اس حالت میں بھی پولیس میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ دن رات پورول کی طرح

میرسی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ مگر سی آئی، ڈی کاربوہ کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ حالانکہ وہاں سے یہ خبریں آرہی ہیں کہ مرزا محمود نے اپنا سربراہ ہندوستان منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مرزا محمود کی خواہش کے مطابق اسے ہندوستان ہی بھیج دیا جائے، تاکہ پاکستان کی سالمیت کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ جب یہودیوں کو جرمن سے نکالا گیا اور عربوں کو بے خانماں کر کے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا جانے لگا تو ہم دیوانوں کی جماعت نے اس وقت ہندوستان اور دیگر ممالک اسلامیہ کے مسلمانوں کو خبردار کیا تھا کہ انہیں وہاں آباد ہونے سے روکا جائے۔ ہماری یہ آواز ایک غلام ملک کی جماعت کی آواز تھی اور انگریزی مظالم کا تختہ مشق جماعت کی پکارتھی، جو نہ اس نے سنی اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمان نے، نتیجے میں اب وہاں اسرائیلی حکومت قائم ہے اور وہی یہودی مشرق وسطیٰ کے بے سرطان کا پھوڑا ثابت ہو رہے ہیں۔

اسی طرح آج پھر بڑا کتا سوں کہ ربوہ کی خبر لو۔ ربوہ کا وجود پاکستان میں اسرائیل سے زیادہ خطرناک ہے۔ تمہیں میرسی نگرانی تو کرنی آتی ہے، لیکن ربوہ میں مرزا محمود کی اپنی عدالتیں اور اپنا نظام حکومت ہے، یہ تمہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ میرا وجود جو صرف ٹہریوں کا ڈھا پنچرہ گیا ہے، یہ تمہاری نظر میں کھٹکتا ہے اور ربوہ جو پاکستان میں ایک ریاست کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے، تمہیں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ مملکت در مملکت کا وجود آخر کیوں برداشت کیا جا رہا ہے۔ تمہاری یہ خفلیت ایک دن بڑے نتائج پیدا کرے گی۔

صیح النسب | لاہور میں علاج سے یایوس ہو کر عثمان واپسی پر حکیم حنیف اللہ خلیف  
الرشید حکیم عطا اللہ خاں کے زیر علاج رہے۔ حکیم حنیف اللہ  
قرآن کریم اور دوسرے دینی علوم سے فادح ہیں گھر کے قریب ہونے کی وجہ سے

بھی ان سے قربت زیادہ رہی رشب و روز انہی کے ہاں بیٹھیک رہتی۔

حکیم حنیف: اللہ کا کنا ہے کہ شاہ جی کی بیماری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کے لیے قیمتی دواؤں کی ضرورت تھی، جس کا میں تمہل نہیں تھا۔ شاہ جی سے اس کے پیسے مانگتے ہوئے بھی عاجز رہتی تھی۔ اسی پریشانی میں تھا کہ ایک رات خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور کے ایک جانب شاہ جی ہیں اور دوسری طرف ایک برقع پوش عورت بیٹھی ہے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اس خواب کی تعبیر تلاش کرنے لگا۔ مجھے اس فن پر ملکہ ہے۔

پریشانی اس پر تھی کہ خاتم الانبیا کے دربار میں عورت کون ہو سکتی ہے؛ آخر تعبیر سے پتہ چلا کہ برقع پوش عورت شاہ جی کی بیوی تھی۔

اس پر میں نے اندازہ لگایا کہ ایک تو شاہ جی کا خاندان (میاں بیوی) عالی نسب سید ہیں۔ دوسرا یہ مجھے علاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے بعد میں نے بلا جھجک شاہ جی کا علاج کیا اور قیمتی سے قیمتی دوائیاں استعمال کرائیں۔

ہماروں میں رہ کر زندگی گزارنے والا انسان جب خزاں کے پیٹے میں آتا ہے، تو ہر موسم کا نشیب و فراز اس کے جسم کی حرارت کو اکساتا ہے، مگر ارد گرد کے کانٹے اس کی ساری شیخی کو کر کر کر دیتے ہیں۔

حضرت امیر شریعت اپنے پیچھے جن راہوں کو چھوڑ کر آئے تھے، ان کے ایک ایک موڑ پر آرزوؤں کے ہزاروں بیجوں ان کے ساتھ تھے، لیکن جس موڑ پر وہ آج کھڑے ہیں وہاں تینوں کے جنازے اٹھتے نظر آ رہے تھے۔ بیویوں اور نامرادیوں نے انہیں اس بازاری بیکار جنس بنا دیا تھا، جس کا اقرار وہ خود اپنے معالج کے سامنے کرتے ہیں۔

”حکیم صاحب! میں فالج اور ذیابیطس کا مریض نہیں ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میری محفلیں بڑھ گئی ہیں۔ دیکھئے شاید عظیم آبادی کیا کہ گئے ہیں۔“

کانٹوں میں گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے پھول  
پھر بھی کھلا ہی پڑتا ہے کیا خوش مزاج ہے!

مٹکی حالات، حکمران طبقہ سے ایسی، دوستوں کی بے وفائی، بیماری اور بڑھاپا، ان  
تمام کے پیش نظر امیر شریعت نے اپنی انجمن اپنے گھر سجالی تھی، اور حسب ذیل تحریریں اس  
محل میں، نایاں نظر آتی تھیں۔

۱، حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم  
اِذَا وَتِدَ الْاَهْلِ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ  
جب حکومت نا اہل لوگوں کے سپرد ہو تو، قیامت کا انتظار کر۔ (رواہ البخاری)

۲، بیروارث شاہ کے چند اشعار پنجابی،

۱۔ مکتھا کھنڈتے کھیر دا ہویا رکھا زندا گھلیا ساک کرا دے نوں

۲۔ ادنہاں زہر دے واسطے سدا نڈا سگولیا سی زہر و دھاوے نوں

۳۔ ہتھیں اپنی زہر سپر یونیں مچکھا چوڑ چپٹ کرا دے نوں

۴۔ سرہوں ڈھک مکوڑیاں کول کھی دانے لکڑیاں پاسکا دے نوں

۵۔ گدڑ کچریاں دا جھدار ہویا اٹھ چلیا باغ لگا دے نوں

۶۔ بیٹری کا فدی بانڈر ملتا بنیا انہاں گھلیا پورنگھا دے نوں

۷۔ راکھا مال دا دھاڑی رکھیو نے چور سڈیا کھوج لگا دے نوں

۸۔ راکھا جواں دے ڈھیر دا گدھا ہویا انہاں گھلیا سوٹ لکھا دے نوں

(ترجمہ) ۱۔ جھوٹے آدمی کو پتلی اور کھیر کی رکھوالی دے دی، اور جس کی اپنی بیوی  
فوت ہو چکی تھی اس کو رشتہ ناطہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔

۲۔ جسے زہر کے علاج کے لیے لائے تھے وہ خود زہر ثابت ہوا، گویا یہ کام انہوں  
نے اپنے ہاتھ سے کیا۔



۲- اپنے گھر کی بربادی کے لیے انتظام آپ کیا۔

۴- کیڑے موڑوں کے پاس سرسوں کا ڈھیر رکھ دیا اور مرغیوں کے سامنے دانے خشک کرنے کے لیے ڈال دیے۔

۵- گینڈ کو خر بوزوں پر نگہبان کر دیا اور اونٹ کو کہا کہ تو باغ لگانے جا۔

۶- کاغذ کی پٹری بنا کر بند کو ملاح بنا دیا اور اندھے سے کہا کہ تم جاؤ اسے کنارے

پر چھوٹاؤ۔

۷- خزانے کی نگہداری کے لیے چور کو مقرر کیا اور چور ہی سے کہا کہ تم چور کی تلاش کرو۔

۸- دھان کے ڈھیر پر گدھے کو رکھوا لاکر دیا اور نابینے کو خط لکھوانے بھیجا۔

دارت شاہ نے یہ بات خدا جانے اپنے دور کے حاکموں سے کہی ہو یا نہ، لیکن امیر شریعت نے دارت شاہ کے اشعار سے اپنے دور کے حاکموں پر ایسی پھبتی کہی کہ امیر شریعت کی زبان کی داد دیے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔ انہوں نے دارت شاہ کے اشعار کو کیسے وقت پر استعمال کیا، مگر پاکستان کے حکمران جو تئوں میں دال بانٹ رہے تھے، اور اپنے اقتدار کی کرسیوں کے لیے جن عزیز کو رسوا کر رہے تھے۔

جب کوئی دوست گھر آکر پاکستان کے موجودہ حالات پوچھتا تو امیر شریعت ان تحریروں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے۔ بھائی! یہ پڑھ لو۔۔۔ بس یہی کچھ ہو رہا ہے۔

شیعہ سنی فساد | یہ قید سے آزاد ہوتا ہے جب کوئی محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساتھی

۱۹۵۳ء کی تحریکِ نغمِ نبوت کے بعد برسرِ اقتدار لوگ اتحادِ بین المسلمین کو پریشان

کرنے کی تجویزیں کرنے لگے۔

شیعہ اہل سنت و الجماعت، اہل حدیث، بریلوی یا دیوبندی کا باہم مل بیٹھنا پاکستان

کی زندگی میں پہلا واقعہ ہے۔ ۱۹۵۳ء میں یہ تمام فرقے پیغمبرِ اسلام کی آبرو کے لیے سید

پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور یہ امیر شریعت کے خلوص کی زندہ مثال تھی کہ انہوں نے آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ لیکن حکومت کے اپنے مستقبل کے لیے یہ اتحاد سود مند نہیں تھا۔

چنانچہ اگست، ۱۹۵۶ء کو مغربی پاکستان کے اکثر شہروں میں شیعہ سنی فساد ہوئے۔ ان دنوں مرکزی حکومت پر جنرل سکندر مرزا جو عقیدہ شیعہ تھے، اور مغربی پاکستان میں ڈاکٹر خاں صاحب وزیر اعلیٰ تھے جو سکندر مرزا کے سیاسی مرید تھے، انہوں نے سکندر مرزا کی خوشنودی کے لیے مغربی پاکستان کے تمام ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت بھیجی کہ شیعہ فرقہ کو مذہبی آزادی ہے، وہ جہاں مناسب سمجھیں محرم کے لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حکمتا مے کا انکشاف لاہور کے شیعہ رہنما قیصر مصطفیٰ ایڈووکیٹ نے اپنے بیان میں کیا جو ۱۵ ستمبر، ۱۹۵۶ء کے اخبارات میں شائع ہوا۔

اس فساد سے امیر شریعت اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کا اندازہ حسب ذیل تفسیر سے ہوتا ہے جو انہوں نے ۲۴ اگست، ۱۹۵۶ء کو ملتان کے قریب ایک بستی (کنڈا لگانہ) میں کی۔

” ملک کے مختلف حصوں میں شیعہ سنی فساد کی اطلاع نے مجھے بے حد دکھ پہنچایا ہے۔ مسلمانوں نے معمولی باتوں پر اپنے بھائیوں کا خون بہلایا اور میری چالیس برس کی اتحاد و اتفاق کی کوششوں کو برباد کر دیا۔ شیعہ سنی تنازعات کی اصل جڑ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ کیوں ہوئے؟ پہلے خلیفہ کیوں نہ بنائے گئے۔ شیعہ سنی تنازعات، تعزیر وغیرہ کی رسوم ان کے آئمہ یا سلف کا عمل یا قول نہیں ہے۔ یہ ایک رسم ہے، جیسے کہ سنی مسلمانوں میں کئی ایک رسمیں رائج ہو چکی ہیں میں کس سے یہاں بیٹھا ہوں، لیکن آپ نے مجھے پہلے تقریر کا موقع

کیوں نہیں دیا کیبھی میری بے عزتی نہیں؛ مجھ سے پہلے مولانا عبدالستار نے تقریر کی، وہ انصاری ہیں۔ ہمارے ناظم اعلیٰ اراکین ہیں، اور میں اہل بیعت کافر ہوں، سید اور ہاشمی ہوں۔ مجھ سے قبل ان لوگوں کو وقت دیا گیا ہے جو ہندوؤں سے مسلمان بنے، کیا یہ آل رسول کی توہین نہیں؟ —

دبّیح پر اس وقت سکوت طاری تھا، آپ نے سامعین سے جواب طلب کیا۔ محج کے اس سکوت کو، اور اپنے سوالوں، کا خود ہی جواب دینے ہو گئے۔

آخر میں تقریر کرنا میری بے عزتی نہیں۔ مولانا عبدالستار تقریر کر رہے تھے۔ میں نے کہا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں تقریر شروع کروں، تو مولانا عبدالستار نے کہا۔ اگر آپ پہلے تقریر کر دیں گے تو آپ کے بعد ہمیں کون پوچھے گا۔ (امیر شریعت نے محج سے سوال کیا، کیا یہ عزت ہے یا بے عزتی؟ بعد میں آنا بے عزتی کی دلیل نہیں۔)

مہراج کی رات تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نماز ادا کرنا بھی میرے دعوے کی دلیل ہے ان انبیاء کرام میں سے حضرت رسول کریم کی عزت ہے (سدا اللہ) یا آپ کی بے عزتی۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نسبت سے چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح نبوت کا خاتمہ خاندان ہاشم پر ہوا، خلافت کا خاتمہ بھی ہاشمی خاندان پر ہو۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سید الانبیاء پر نبوت ختم ہوئی اور حضرت علیؑ پر خلافت۔ حضرت رسول کریم نبوت کے خاتم ہوئے اور حضرت علیؑ خلافت کے خاتم۔ اس کے بعد سلطنت اور بادشاہت شروع

ہوگئی۔ بادشاہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔

یہ اور بات ہے، میں چونکہ اولادِ علی ہوں، اس لیے خواہش کروں گا کہ میرے ابا کو پہلی خلافت ملتی یا اُس وقت میں ہوتا تو خود اپنے لیے خلافت کی خواہش کرتا، جیسے مر سید سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو مر سید نے جواب دیا کہ میں خود خلافت حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خاتمِ خلافت کا اعزاز حضرت علیؑ کو ملنا تھا۔

اگر سب مسلمان اس عقیدے پر متفق ہو جائیں تو اختلاف کیا رہ جاتا ہے۔ یہ آخریہ اور جلوس تو معمولی باتیں ہیں، یہ کوئی دین نہیں، مسلمانوں کو معمولی باتوں پر توجہ نہ دینی چاہیے لیکن افسوس کہ یہی معمولی باتیں اب خوفناک صورت اختیار کر رہی ہیں اور اب نوبت خون خرابیے تک پہنچ گئی ہے آخر میں آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں۔ حضرت علیؑ کے بعد کوئی خلافت نہیں اور اس جلسے میں میری تقریر کے بعد کوئی تقریر نہیں۔<sup>۹</sup>

۲۷۔ جون ۱۹۵۷ء کو صوبائی گورنر نے کراچی میں لاء اینڈ مینجمنٹ ایکٹ

(CRIMINAL LAW AND MANAGEMENT ACT) مجریہ

۱۹۰۸ء کی دفعہ ۱۶ کے تحت مجلس احرار کو خلافِ قانون قرار دے دیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد حکومت مغربی پاکستان نے حضرت امیر شریعت کی ذاتی ڈاک پر سنسر بٹھا دیا۔ نیران کے ٹیلیفون بھی سنبھالنے لگے۔ حکومت کی اس حرکت پر مغربی پاکستان اسمبلی کے بجٹ سیشن میں ۲۴۔ ستمبر ۱۹۵۶ء کو مسلم لیگ پارٹی کے قائد سردار بہاؤ خاں نے نکتہ استحقاق

ڈاک پر سنسر

پیش کرتے ہوئے حکومت سے سوال کیا، جس کے جواب میں وزیر اعلیٰ سردار عبدالرشید نے قائد حزب اختلاف کو یقین دلایا کہ حکومت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسرے سیاسی کارکنوں پر سے اس قسم کی پابندیاں جلد دور کر دے گی۔

بیماری کے باوجود کبھی کبھار حلقہ احباب کے اصرار پر ضلع ملتان کے تبلیغی اجتماعات میں شرکت کرتے، لیکن معالج کے اصرار پر یہ سلسلہ بھی منقطع کر دیا گیا۔ جسم ناتواں ہو چکا تھا۔ سفر کرتے بھی تو بادلِ نخواستہ۔ مگر ۱۹۵۸ء کے شروع میں مکمل اجتناب کیا۔ اسے صوبے کے حکیم حنیف اللہ کا مطب تھا یا گھر کی پیار دیواری۔ نظر کی کمزوری اور جسم کی نقابست کے باعث راستے میں کئی سہارے لینے پڑتے۔

مجلس احرار کا اجیار | ۱۹۶۹ء میں سیاسیات سے لاطعتی کے بعد امیر شریعت نے اپنے کارکنوں سے کہہ دیا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی ملکی معاملات میں

دلچسپی لینا چاہے تو مسلم لیگ میں شامل ہو جائے۔ اس اعلان کے بعد اجوار کارکنوں نے مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ لیکن لیگی رہنماؤں نے اپنے غیر مخلص ارادوں کے پیش نظر اجوار کے خلوص کو شبہ نظر سے دیکھا اور ان کے لیے اپنے تمام دروازے بند کر دیے۔ اس عدم تعاون کا نتیجہ یہ ہوا کہ اجوار رہنما اپنے فیصلے پر اصرار فرموا کر نے پر مجبور ہوئے۔ انہی دنوں شیخ حمام الدین اور ماسٹر تاج الدین عامی لیگ سے الگ ہو کر اپنے پلانے گھر میں واپسی کے لیے سوچ رہے تھے کہ ۱۸ اگست ۱۹۵۸ء کو صوبائی وزیر علی نواب مظفر علی قزلباش نے مجلس احرار سے تمام پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔

صدر سکندر مرزا کی خواہش | اس سے پیشتر ۹ مئی ۱۹۵۸ء کو صدر پاکستان میجر جنرل سکندر مرزا ملتان آئے تو انہوں نے حضرت امیر شریعت سے ملاقات

کی خواہش کی۔ اس ملاقات کے نتیجہ میں شہید رہنما مظفر علی شمس تھے۔ جب امیر شریعت کو اس کی اطلاع ہوئی کہ گیلانیوں کی دعوت کے موقع پر صدر مملکت مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور

اس کے لیے شمسی صاحب امیر شریعت کو لینے آئے تو امیر شریعت نے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا۔

”شمسی! تم میرے عزیز ہو، میں تمہارا حکم نہیں ٹال سکتا، لیکن یہ سوچ لو کہ تم دونوں کی پوزیشن کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔“

سکندر مرزا ملک کے صدر ہیں۔ اگر وہ فقیر کے جھوٹے میں آئیں تو بیان کی حیثیت کے خلاف ہے، اور اگر میں انہیں طے جاؤں تو اپنی عمر بھر کی کمائی برباد کر بیٹھوں گا۔ لہذا یہی بہتر ہے کہ میری طرف سے معذرت کر دو۔

ابھی اس پر بحث ہو رہی تھی کہ لاہور میں ڈاکٹر خاں صاحب پر قاتلانہ حملہ کی اطلاع پہنچ گئی اور اس طرح سے یہ کمائی ادھوری رہ گئی۔

مجلس احرار پر سے پابندیاں ختم ہوتے ہی ۲۵ ستمبر ۱۹۵۸ء کو مجلس احرار کا اجلاس امیر شریعت کے دولت کدو پر احرار درکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، تاکہ جاہت پھر سے سیاسیات میں دخل انداز نہ ہو سکے۔ اس موقع پر امیر شریعت نے احرار رہنماؤں سے فرمایا۔

”دوستو! آپ سب کو یہ حق ہے کہ جس طرح چاہیں اپنے لیے فیصلہ

کر لیں۔ لیکن اپنی بیماری اور ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر میں نے ۱۹۴۷ء میں جو فیصلہ کیا تھا، اب بھی میں اسی پر قائم ہوں۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ پھر سے ان بکھیڑوں میں الجھوں۔ لیکن میں آپ حضرات کو نہیں روکتا۔ میری دعائیں بہر حال آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر میری ایک ہی خواہش ہے کہ حضور کی نبوت پر اس دقت جو ڈاکٹر پر رہا ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ بس امیر ہی آرزو ہے۔ باقی آپ اپنے معاملات

میں آزاد ہیں“

سیاسی جماعت ہو یا مذہبی، اگر اس کے کارکنوں میں خلوص اور نیت اور محنت کا جذبہ نہیں۔ تو وہ جماعت نہیں ایک بھیڑ ہے۔

۱۹۶۷ء میں جو لوگ مسلم لیگ پر قابض ہوئے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن کے ہاں خلوص اور دیانت کا فقدان تھا، ورنہ مسلم لیگ بلا شرکت غیرے پاکستان پر پچاس سال تک حکمران رہ سکتی تھی۔

ٹوٹ مارا چھینا جھپٹی اور حکومت میں محکموں کی بندر بانٹ نے اس جماعت کے کارکنوں کو اس بری طرح اُلجھایا کہ نوزائیدہ مملکت کا سانس اکھڑنے لگا۔ مغربی پاکستان میں نواب افتخار حسین آف ممدوٹ اور میاں ممتاز دوٹا نے کی جنگ اقتدار سے بڑھ کر مشرقی پاکستان کے مولوی فضل الحق اور حسین شہید سہروردی کی کشمکش نے پاکستان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا کہ ملک کی خارجہ پالیسی بھی باز سچا اطفال بن کر رہ گئی۔ حکومت کے اندر ونداء کی اپنی کرسیوں کی حفاظت میں جماعتی دفا داریاں روز بروز مشکوک دکھائی دینے لگیں۔ اندریں حالات قریب تھا کہ پاکستان اپنے ایک مسلمان ہمسایہ ملک کی مذہبی کالونی بن جانا کہ ۲۷ اور ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ء کی درمیانی رات کو میجر جنرل سکندر مرزا کو حکومت سے الگ کر دیا گیا اور ان کی جگہ ملک کے تمام اختیارات جنرل محمد ایوب خاں نے سنبھال لیے۔ اس فوجی انقلاب سے متعلق حضرت امیر شریعت سے جب ان کے اجاب نے سوال کیا تو یہ جنتہ فرمایا۔

”بئبل نے آشیانہ جن سے اٹھایا

اپنی بلا سے جو رہے یا ہما بستے“

باقی۔ گیارہ سال پیشتر سے جس طرح جوتیوں میں وال بٹ رہی تھی اس کا

نتیجہ یہی ہونا تھا۔

دعا کر دیہ نوجی انقلاب پاکستان کے لیے بہتر ہو۔“

**اجاب کی محفلیں** | انسان بھی ایک کھلونا ہے، جب تک اس پر رنگ و روغن کی جلوہ آرائیاں رہتی ہیں، ہر ہاتھ اس کی خریداری کے لیے بڑھتا اور ہر آنکھ اس پر اٹھتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کا ملمع اترتا ہے، پھر نہ کوئی آنکھ اٹھتی ہے اور نہ کوئی خریدار آتا ہے۔

امیر شریعت جب تو اناتھے، ا زمانے کی ہوا میں ان سے اٹھکیاں کرتیں، بہاریں ان کے قدم بیٹیں۔ ان کی آواز کے زیر و بم سے حکومتوں کے عروج و زوال وابستہ رہے، لیکن جب بڑھا پلے نے آیا، تو پھر گلی کے موڑ بھی سہارا دیتے تھے۔ اپنے تیمارداری کو آتے مگر رسماً۔ آہ! زمانہ کس قدر بے وفا ہے، ان دنوں صرف گھر میں محفلیں جمتیں یا شام کے وقت حکیم صاحب کے ہاں۔ اسی طرح کی ایک محفل میں فرمایا۔

”میری دوستی اور دشمنی صرف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اس پر ایک شعر پڑھا،

دل نیست کیوتر کہ پرو باز نیشند  
از گوشہ بانے کہ پریدیم پریدیم

ما بخیر شما بہ سلامت!

میں اسے کنارہ کشی سمجھیے یا دشمنی۔ میری طرف سے صرف اتنا ہوتا ہے۔ الحمد للہ کہ میں نے آج تک نہ کسی سے متعلق برا سوچا ہے اور نہ ہی جبراً کیا ہے۔ ہاں انگریز اور مرزائی کے متعلق جہاں تک بس چلا جبراً سوچا اور کیا بھی۔“

اس پر مولانا یحییٰ نے کہا۔ ”یہ تو پھر ضد ہے۔“

امیر شریعت نے فرمایا،

”جاہل باضد نہیں یہ ایمان ہے۔ حدیث میں کیا پڑھا ہے، کہ مومن



ایک سوراخ سے دو دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا۔“

انہی دنوں روزنامہ ”امروزہ (ملتان) کے نامہ نگار نے امیر شریعت سے ملاقات کی اس نے اپنے تاثرات یوں بیان کیے۔

”ڈیڑھ برس پہلے کی بات ہے، مجھ سے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری پر ایک مصوٰفہ نچر تیار کرنے کو کہا گیا۔ میں نوٹو گرافر کو لے کر محلہ ٹٹی شیرخاں پہنچا۔ شاہ جی کا پتہ معلوم کیا۔ مسجد کے عقب میں ایک کچا سامکان جس کے باہر بیٹر بکس لگا ہوا تھا۔ گلی کی طرف کھلنے والے کمرہ میں شاہ جی موجود تھے، وہ ان دنوں بیمار تھے۔ خیر و عافیت پوچھ چکا، تو اپنا مدعا بیان کیا شاہ جی ٹال گئے، کہا کہ ”اب زندگی کے آخری سانس گن رہا ہوں، اب تو آرام کرنے دو۔ اخبار کے کالم بھرنے کے لیے میرے اضنی کے بچنے ادھیڑتے ہو۔“ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، ”ایک بات پوچھوں؟“ میں نے کہا، ”ضرور ارشاد فرمائیے“ کتنے لگے ”یہ جو چلی ہے اس کا بادشاہ شیخ چلی ہوگا۔ دان دنوں چلی کی تباہی کے متعلق اخبارات میں خبریں آرہی ہیں، مجھے نہیں نے محسوس کیا کہ شاہ جی مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال رہے ہیں۔ اس پر میں نے انہیں پھر اپنے ڈھب کی بات کہہ دی، شاہ جی! آپ کب سے اس کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔“ فرمانے لگے ”۱۹۴۸ء میں یہاں آ گیا تھا، اب تک یہیں پڑا ہوں۔“ آپ نے کوئی مکان آلات نہیں کرایا؟ آپ کا کلیم (claim) تو ہے۔“ جواب میں فرمایا۔ ”آپ مکان کی الامنٹ کی بات کرتے ہیں، بجانے قبر کے لیے چند گز زمین ملے گی یا نہیں؟ ایک دفعہ ایک مرکزی وزیر صاحب مجھ سے ملنے ملتان تشریف لائے، انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر میں انہیں کہوں تو وہ مجھے مکان

الاط کرادیں گے اور ساتھ ہی یہ ارشاد بھی فرما گئے کہ فلاں تاریخ کو فلاں صاحب متان سے گزر رہے ہیں ان سے مل لینا میں نے پوچھا پھر شاہ جی! آپ نے ان سے ملاقات کی؟ کہا ”نہیں بابو میرے پاس کالی اچکن اور قرقلی ٹوپی نہیں تھی“

”شاہ جی! آپ کو ذیابیطس کی شکایت کب سے ہے؟“ جواب دیا ”یہ مرض سکھر جیل میں میرے ساتھ آگیا تھا۔ ابھی تک سنگت نبھا رہا ہے“

”ان دنوں جب کہ آپ اس قدر بیمار ہیں اور سیدک لائف سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں ابھی دیرینہ رفقار سے کوئی ملنے آیا؟“ جواب میں مسکرائے اور کہا ”بیٹا! جب تک یہ کتیا (زبان) بھونکتی تھی، سارا برصغیر منہ دپاک ارادت مند تھا۔ اس نے بھونکنا چھوڑ دیا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔ ہاں دیرینہ میں سے ایک آدھ کو چھوڑ باقی میرے ہاں آہی جاتے

ہیں“ پچھلے دنوں ایٹ آباد سے ایک دوست ملنے آئے۔ انہوں نے ایٹ آباد جانے پر اصرار کیا، میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا ”شاہ جی! آپ ان کے ہاں چلے جاتے ایٹ آباد صحت افزا مقام ہے۔ متان کی گرمی میں آپ کیوں تڑپ رہے ہیں؟“ جواب دیا ”بیٹا! اب عمر کی اس سطح پر آ گیا ہوں کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ میرے ہاں آتے ہیں، ساری عمر لوگوں کی تمنا میں گذاری، اب مینزیاں بن کر بھی دیکھنا چاہتا ہوں“۔

میں نے دیکھا کہ شاہ جی اب کھلنے لگے ہیں۔ پینا پنچر کاغذ پنسل سنبھال لی تاکہ یادداشت کے لیے کچھ لکھ لوں۔ شاہ جی نے میری تیاری دیکھی تو انہوں نے بات روک لی۔ میں نے ایک اور سوال کر دیا۔ جواب میں کہا ”اخبار والوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ لوگ اکثر واقعات مسخ کر دیتے ہیں۔“

پھر غلط بیان دوسرے سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں مولانا عبدالمجید سالکت مرحوم کا ایک واقعہ بھی سنایا۔ یعنی ایک دفعہ سالکت مرحوم نے یو۔ پی کے ایک جلسے کی تقریر میرے نام سے منسوب کر کے اپنے اخبار ”انقلاب“ میں چھاپ دی۔ حالانکہ میں نے یو۔ پی میں کوئی ایسی تقریر نہیں کی تھی۔ جب ان سے اس غلط تقریر کی شکایت کی تو انہوں نے خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ اس پر میں نے ۲۵ سال تک سالکت صاحب سے بات نہیں کی۔

ایک دن صوفی تبسم مجھے پطرس بخاری کے ہاں دعوت پر لے گئے۔ پطرس نے مجھے مدعو کیا تھا۔ اس دعوت میں سالکت بھی شریک تھے وہاں ہم دونوں کی صلح کرائی گئی۔ سالکت نے میری پیٹھ پر ہاتھ مار کر کہا۔ آپ تم میرے بچپس برس تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔“

یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے شاہ جی کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں مہل گئیں۔ ایک لمبی سانس لی پھر کہا۔ ”سب یا رکھنے بچھڑتے جاتے ہیں ایک دن میں بھی ان میں جا ملوں گا۔“

پطرس بخاری کے مکان پر ہم چاروں ساتھی ماضی کے فسافے و ہرا رہے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے پطرس سے کہا۔ آپ سید ہیں۔ قرآن پاک آپ کے گھر میں اترا، آپ بھی نماز پڑھیں تو کتنی بری بات ہے۔“ پطرس نے سن کر سالکت مرحوم کو آواز دی۔ ”سالکت! اٹھو، شاہ جی ہمیں زبردستی جنت میں لے جائیں گے۔“

شاہ جی نے سالکت مرحوم کا ایک اور واقعہ سنایا۔ فرماتے لگے ”میں حاجی مولانا بخش سمرود کے مکان پر تھا نماز مغرب کے بعد درود میں

مصرف تھا کہ ساکت اور مجید لاہوری وہاں پہنچ گئے۔ ساکت نے مجھے  
وظیفہ پڑھتے دیکھ کر یہ شعر پڑھا۔

بر زبان تسبیح در دل گاؤں

اس چہن تسبیح کہ دارد اثر

جب درود سے فارغ ہوا تو کما تہ میں یقیناً تم دونوں کے خیال میں نہیں تھا۔  
شاہ جی بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ یوں بھی دن کے گیارہ بج چکے  
تھے، اٹھے اور یہ شعر پڑھا

پُرانی صحبتیں یاد آرہی ہیں

چراغوں کا دھواں دیکھنا نہ جائے

اور پھر اندر چلے گئے۔ اس ملاقات کے بعد مجھے شاہ جی سے باتیں کرنے  
کا چسکا پڑ گیا۔ اب میں تقریباً ہفتہ میں ایک آدھ بار ضرور شاہ جی سے ملنے  
ان کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ہر ملاقات میں شاہ جی سے میں نے اخبار  
کے رپورٹرز کی حیثیت سے سوال پوچھے۔ دو چار ملاقاتوں کے بعد میں نے  
ایک مختصر فیچر لکھ مارا۔ جب وہ شائع ہوا، تو کچھ مخالفوں نے اسے مسخ  
کر کے اپنے اخبار میں نقل کیا۔ اس فیچر میں راقم نے اپنے ان جذبات کا  
اظہار کیا تھا۔

جس مجاہد اور خطیب اعظم نے ملک کی آزادی کے لیے اتنی لمبی  
عمر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اور ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کی  
وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ حکومت اور سوسائٹی نے ان کی  
خدمات کی قدر نہیں کی۔ شاہ جی ناراض ہو گئے۔ بہر کیف ان کی ناراضگی عارضی  
تھی۔ ایک دن فرمانے لگے ”بیٹا! میں اپنوں سے ناراض ہوتا ہوں،

تمہاری نیت پر شک نہیں کرتا، تم نے تو میرے حق میں اچھا نہیں کیا۔ میں نے دیکھا کہ شاہ جی نے مجھے محاف کر دیا تو ملاقاتوں کا سلسلہ پھر شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک دن خود ہی فرمانے لگے۔

”ایک دفعہ دہلی جیل میں مولانا ابوالکلام آزاد ڈاکٹر آصف علی ڈاکٹر انصاری اور میں کٹھے ہو گئے۔ مولانا آزاد چائے کے بڑے رسیا تھے۔ ایک صبح بڑے اہتمام سے چائے تیار کر کے مجھے پلائی۔ میں چائے پی چکا، تو مولانا نے داد طلب نظروں سے پوچھا۔ شاہ جی چائے کیسے بنی؟ میں نے کہا ”حضرت ایک کمی رہ گئی۔“ مولانا ایسے بھنائے جیسے دماغ پر بجلی گری ہو۔ پوچھا ”دہ کیا میرے بھائی؟ میں نے کہا۔“ اس میں دوپتی زعفران کی بھی ہونی چاہیے تھی۔“ ہاں میرے بھائی! آپ تو اضافے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا میرے بھائی! کل آپ کو زعفران پلاؤں گا۔“ چنانچہ دوسرے روز مولانا نے جیل کے ایک ملازم کو پانچ روپے دے کر زعفران منگوا دیا اور مجھے زعفران پلائی۔

ایک دفعہ مولانا حبیب الرحمن کے ہمراہ مولانا آزاد سے ملنے گیا۔ استفادہ کے لیے چند آیات تفسیر کے لیے پیش کیں۔ مولانا نے اپنے انداز میں ان کی تفسیر بیان کی۔ ہم بہت متاثر ہوئے، تو میں نے کہا ”مولانا! خدا آپ کو بہت عمر نصیب کرے۔“ مولانا نے کہا ”نہیں میرے بھائی! تھوڑی ہو مگر قرینے کی ہو۔“

ایک دفعہ میں میرٹھ کے جلسے میں تقریر کر رہا تھا۔ پر شوتم داس ٹنڈن صدر کانگریس بھی جلسے میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا ”شاہ جی! تلامذت قرآن پاک کریں تاکہ آتما کو سکون ہو۔“ پھر میں نے اس جلسے میں ساڑھے آٹھ گھنٹے تقریر

کی صبح قریب آگئی تو یہ شعر پڑھ کر شہج سے اتر آیا۔  
 شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو  
 کہ جوڑ دے کوئی ہلکا شبِ جدائی کا

ایک دفعہ میں نے لاہور موچی دروازہ کے باہر تقریر کرتے ہوئے کہا  
 "میں حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ مفلسی اور بیکاری کے مسئلے کو حل کرے  
 جو حکومتیں اس مسئلہ کو حل نہیں کرتیں، یہ مسئلہ ان حکومتوں کو حل کر دیا کرتا  
 ہے۔" اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ "استبداد کی چکی کا دستہ گورے کے ہاتھ میں ہو  
 یا کالے کے ہاتھ میں، چکی وہی رہتی ہے، اور میں اس چکی کو توڑ دینا  
 چاہتا ہوں۔"

۱۹۳۱ء میں میں نے مسند میراث پر ملک بھر میں تقریریں کیں، جن کا  
 رد عمل یہ ہوا کہ آریہ سماج و چھو والی شاہ عالم لاہور میں ہندوؤں کے ایک  
 اجتماع میں کمار دیوتی نے کھڑے ہو کر وراثت کا مطالبہ کر دیا۔ ڈی۔ پی۔  
 دی کالج کے پرنسپل چھیل داس جلسے کے صدر تھے، کمار دیوتی نے کہا  
 "اگر آپ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے تو ہم  
 مسلمان ہو جائیں گی۔"

اس پر صدر جلسہ نے کہا: ہمارے لیے یہ مشکل ہے کیونکہ ہم دودھ جا کر  
 شادیاں کرتے ہیں۔ لہذا جائیداد منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس پر کمار دیوتی نے  
 کہا: آپ جگر گوشہ کو بیاہ کر دودھ بھیج دیتے ہیں، لیکن زمین کے ٹکڑے نہیں  
 منتقل کر سکتے۔"

میری ان تقریروں سے ہندوؤں میں کافی ویر کھلی رہی۔ ۳۲-۱۹۳۱ء  
 میں تحریک کشمیر کے دنوں میں میں نے جس موثر انداز میں ریاستی عوام کے

یہ کام کیا، اس سے متاثر ہو کر گول میز کانفرنس لندن میں وزیر ہند نے کہا تھا کہ ہندوستان میں ایک ایسی سحر بیان شخصیت موجود ہے جو بیک وقت دو حکومتوں کے نظام کو محفل کر کے رکھ دیتی ہے۔“

”یٹیا! زندگی کے کتنے واقعات ہیں جو تمہیں سناؤں۔ تم جب آجاتے ہو کتاب زندگی کا ایک ایک ورق سامنے آجاتا ہے۔ اب اتنی ہیئت بھی نہیں کہ ان اوراق کو اٹھوں۔“

لندن آنے کی دعوت | ضابطہ حیات کی طرح اصول آدمی بھی ایک آئین ہے۔ جسے انسان احساس کے سانچے میں ڈھالتا ہے، اگر یہ سانچہ ٹوٹ جاتے تو آدمیت خارج دار ہو جاتی ہے۔

۱۹۵۸ء کے آخر میں انٹرنیشنل تبلیغی مشن لندن کے سیکرٹری راول شہر علی نے حضرت امیر شریعت اور حضرت مولانا لاہوری کو لندن آنے کی دعوت دی، اور اس کے لیے تمام امکانی سہولتیں ہم پہنچانے کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ خود انجن کے انزاد بھی لندن سے دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن حضرت امیر شریعت نے ان حضرات کی درخواست کے جواب میں فرمایا:

”بھائی! اول تو میں اپنی صحت کے پیش نظر اس سفر کے قابل نہیں ہوں۔ اگر ہوتا بھی تو جس دانگریز نے ڈیڑھ سو برس میرے ملک کو غلام رکھا، اس کا خون چوسا، اور جاتی دفعہ فتنہ و فساد کا ایسا سخم چھوڑ گیا کہ برصغیر پاک و ہند کے انسانوں کے ماہن کبھی اس قائم ہو ہی نہیں سکتا۔“

دوسرا میں نے اپنی زندگی کے قریباً چالیس برس ان کی مخالفت کی ہے۔

اس بنا پر میرا ضمیر اس ملک میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔

اس پر ان لوگوں نے جب مزید اصرار کیا، تو فرمایا:

”بھائی! میں اصول کا آدمی ہوں، اور اسی اصول پر زندگی کے

چالیس برس گزارے ہیں۔“

حضرت لاہوری کو جب امیر شریعت کی اس رائے اور فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے

بھی اسی قسم کا جواب دیا۔

ارضی کی پیشکش | ملتان کے ڈپٹی کمشنر مسٹر مختار مسعود نے اپنے ایک قریبی دوست  
کی وساطت سے امیر شریعت سے ملنے کی خواہش کی۔ اس کے

امیر شریعت سے بھی گھر سے مراسم تھے۔ اس بھروسے پر متعلقہ شخص نے ڈپٹی کمشنر سے وعدہ  
کر لیا کہ وہ امیر شریعت کو کسی دن ان کے پاس لے آئے گا۔ چنانچہ اس نے امیر شریعت سے  
ڈپٹی کمشنر کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ کسی دن چلیں گے۔ آخر اتوار کا دن مقرر ہوا۔ امیر شریعت  
حسب وعدہ ڈپٹی کمشنر کی کوٹھی پہنچے۔ مسٹر مختار مسعود بڑے خوش ہوئے اور امیر شریعت کی  
آمد پر اپنے کمرے کو خاص انداز سے آراستہ کیا۔ امیر شریعت جیسے ہی کار سے اترے ڈپٹی کمشنر  
پذیرائی کے لیے آگے بڑھے۔ کمرے میں بیٹھتے ہی ہمہ اقسام کے مشروبات سامنے لائے  
گئے، لیکن امیر شریعت نے فرمایا:

”بھائی! میرے لیے تو ساوہ اور ٹھنڈا پانی منگلو اور بٹری مہربانی ہوگی۔“

ڈپٹی کمشنر نے باہر ارکھا۔ یہ سارا کچھ بھی تو ساوہ ہے۔ اس پر امیر شریعت نے کہا:

”اس سادگی پر مجھے غالب کا یہ شعر یاد آ گیا ہے

اس سادگی پر کون نہ مرجائے اسے خدا!

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

میز مشروبات سے سجا رکھی ہے، ساغر و مینا کا سماں بانڈھ کیا ہے اور

ابھی یہ سارا کچھ سادہ ہے، سبحان اللہ۔“

کچھ دیر ادھر ادھر تہن کرنے کے بعد فرمایا:



”آپ کا حکم نامہ ملا تو سوچا، چلو اسی بہانے اپنا ایک کام ہی کرتا آؤں“  
اس فقرے سے ڈپٹی کمشنر کو گمان ہوا کہ شاہ جی کوئی ذاتی بات کہنے لگے ہیں چنانچہ  
بڑی بے تابی سے ڈپٹی کمشنر نے کہا، ”فرمائیے“

امیر شریعت نے چند کاغذات نکال کر ان کے سامنے رکھے اور کہا،  
”سارے مغربی پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کے دفاتر حکومت نے  
داگزار کر دیے ہیں، لیکن بلتان کا دفتر ہنوز سر مبر ہے، اگر آپ یہ دفتر کھولنے  
کی اجازت دے دیں تو میں ممنون ہوں گا“

اس کے جواب میں ڈپٹی اسی نے کہا، ”شاہ جی! یہ کام تو صوبائی حکومت کی پالیسی  
سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ میرے بس میں تو یہ ہے کہ میں آپ کو چھ سات مربعے ارضی  
دے سکتا ہوں، اور اس میں ٹیوب دیل کا انتظام بھی کرا سکتا ہوں“  
اس پر امیر شریعت مسکرائے، اور فرمایا،

”فختار صاحب! میں اپنی ذات کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ باقی رہے  
آپ کے مربعے اور اس کی پیش کش تو اس کے لیے شکر ہے!“

یہ کہا اور وہاں سے چلے آئے۔ یہ اگست ۱۹۵۹ء کی بات ہے۔

دعاے صحت کے لیے | ۱۹۶۰ء میں امیر شریعت کے معالج حکیم حنیف اللہ نے  
حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے درخواست

دی۔ امیر شریعت کو جب اس کا علم ہوا تو حکیم صاحب سے کہا،

”جب آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر  
حاضر ہوں تو میرا سلام عرض کریں اور میری صحت کے لیے دعا کی درخواست

کریں“

حکیم حنیف اللہ اس پر خاموش رہے، لیکن امیر شریعت نے انہی دنوں ان کے

والد حکیم عطار اللہ خاں سے اس بات کا ذکر کیا، تو بڑے حکیم صاحب نے کہا:  
 ”شاہ جی! گذشتہ دنوں میں نے آپ کی یہ درخواست خاتم الانبیاء کی خدمت  
 میں پیش کر دی ہے۔“

امیر شریعت: (تجرب سے) ”وہ کیسے۔“

حکیم صاحب: ”مجھے پچھلے دنوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب  
 ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ سردار کائنات کے گرد ایک حلقہ بیٹھا ہے  
 میں بھی اس میں شامل ہوں۔ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔  
 ”سید عطار اللہ شاہ بخاری کی صحت کے لیے دعا فرمائیں“ مگر حضور نے  
 دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ ایک کاغذ کی طرف اشارہ کیا،  
 جس پر لفظ ”صحت“ لکھا تھا۔“

امیر شریعت یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حکیم حنیف اللہ سے آکر کہا۔  
 ”آپ نے تو میری درخواست حضور کی خدمت میں لے جانے کی  
 حامی نہیں بھری تھی، مگر بڑے حکیم صاحب نے یہ کام کر بھی دیا۔“  
 یہ کہہ کر تمام واقعہ بیان کر دیا۔

والد صاحب کا خواب سن کر حکیم حنیف اللہ نے اس کا ذکر اپنے استاد حضرت  
 مولانا عبدالرؤف سے کیا، جس سے انہوں نے حدیث اور فقہ پڑھی تھی۔ انہوں نے فرمایا۔  
 ”اس خواب کی یہ تعبیر نہیں جو شاہ جی سمجھے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ شاہ جی کو روحانی صحت ہوگی یعنی  
 ان کے دماغ کا وقت قریب آگیا ہے۔ لیکن مصلحتاً امیر شریعت کو یہ تعبیر نہیں بتانی گئی تھی۔“

شعر و شاعری | ۱۹۱۳ء سے ۱۹۱۹ء تک امیر شریعت امرتسر میں زیر تعلیم رہے، انہی  
 دنوں طلبیت میں شعر و شاعری کا ذوق بھی ابھرا، اور اس کے لیے مولوی  
 محمد دین جن کا تخلص غریب تھا، کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ذوق کی تکمیل کرتے رہے۔

اور اپنا تخلص ”ندیم“ تجویز کیا۔ کبھی کبھار مولوی محمد دین غریب انہیں کوئی مصرعہ دے دیتے کہ اس پر گرہ لگاؤ، چنانچہ ایک دفعہ مصرعہ طرح دیا کہ: ع۔

وہ آنکھوں میں موجود اور چشم جیسا  
اس پر امیر شریعت نے یوں گرہ لگائی ہے

وہ آنکھوں میں موجود اور چشم جیسا  
ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے۔“

اس گرہ پر مولوی محمد دین غریب بہت خوش ہوئے۔

عمر رواں کے ساتھ ساتھ جب کبھی طبیعت موزوں پاتے، فارسی اور اردو میں شعر کہتے۔ چنانچہ ان کے اردو اور فارسی کلام کا مجموعہ ۱۹۵۵ء میں ”سواطح الامام“ کے نام سے شائع ہوا۔

گرتی ہوئی دیوار کی طرح امیر شریعت کی صحت کو بڑے سہارے دیئے جاتے رہے، لیکن پھول اپنی بہاریں شائع کر چکا تھا۔ اب گھر میں مھلیں قائم ہوئیں، اجاب صبح و شام جمع رہتے، اور شاہری کا دربار لگتا۔ سان مھلوں میں جو لوگ شریک ہوئے ان میں بیض احمد بیض، صوفی تبسم، علامہ بطیقت انور گوروا سپوری، مولانا عبدالرشید نسیم (جو اخبارات میں علامہ طاہرات کے نام سے معروف تھے) عبدالحمید عدم اور سائر صدیقی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اس دوران حکیم صاحب نے ایک دن سوال کیا۔ شاہ جی! ایسا لگتا ہے جیسے آپ قوم سے یلوس ہو چکے ہیں۔“ جواب میں ایک سرد آہ کے ساتھ فرمایا:

”آپ طبیب ہو کر ایسا سوال کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں  
سکرات کا عالم طاری ہو جائے، تو آپ مریض کی زندگی سے یلوس نہیں  
ہو جائیں گے؟ بس ایسی حال قوم کا ہے، اس سے یلوس نہ ہو جائے

تو اور کیا؟

اگر کوئی ان دنوں گھر آکر پوچھتا: شاہ جی! کیسی طبیعت ہے؟ تو جواب میں اکثر یہ  
دو شعر پڑھتے سے

نہ جانے لوگ کیوں سنتے ہیں میرے چاک ڈالنا پر  
جنوں میں جیسا ہونا چاہیے ویسا گریباں ہے

یا

بے دلی ہائے تمنا، کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق  
بے کسی ہائے تمنا، کہ نہ دنیا ہے نہ دیں!

ایک نام نہ نگار سے! روزنامہ ”کومستان“ (دلتان) کا نامہ نگار انہی حالات میں  
ملقات کے لیے حاضر ہوا، اور اس نے واپسی پر حسبِ ذیل

تاثرات ۸ ستمبر ۱۹۶۰ء کے ”کومستان“ میں اس طرح بیان کیے:

”میں شاہ جی کو ملنے ان کے مکان پر پہنچا، تو وہ کسی کام سے باہر  
گلی میں کھڑے تھے۔ جلیک سلیک ہوئی اور ہم ہلچک میں جا بیٹھے  
انہوں نے چارپائی کا سہارا لے کر زمین پر دھرتا مار لیا اور میں بھی ان  
کی تقلید میں اسی طرح بیٹھ گیا۔ ہلچک میں ایک چارپائی، ایک الماری  
اور چند کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ میں نے شاہ جی سے ان کی صحت  
کے بارے میں پوچھا، تو کہتے لگے کہ ذیابیطس کے ساتھ فالج کی شکایت

زور پکڑ رہی ہے۔ ذیابیطس کی شکایت پہلے بھی تھی، لیکن ۱۹۵۳ء  
میں جیل گیا تو بیماری زور پکڑ گئی۔ ۱۹۵۶ء سے آج تک اس چارپائی  
پر بٹھا ہوا ہوں۔ پھر کہنے لگے، آج آپ کا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ایک خبر تھی  
”اگر روس نے امریکہ کے کسی حلیف ملک پر راکٹ بھینکا تو روس پر

راکٹوں کی بارش کر دی جائے گی۔ ارے ان کم نجتوں سے کوئی پوچھے کہ تم موت کا علاج کر رہے ہو یا زندگی کا علاج کر دو غالب شاہ جی کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کا یہ شعر پڑھا۔

ہاں کھاتی موت فریب ہستی

ہر چند کہیں ہے کہ نہیں ہے

اس کے بعد سر پکڑ کر بیٹھے رہے۔ میں نے بات کرنا چاہی، تو کہنے لگے، دعا کرو قبر کے لیے زمین نصیب ہو جائے، بارہنے کے لیے گھر تو نہیں ملا۔ متعدد بار قرعہ اندازی میں حصہ لیا لیکن قرعہ نہیں نکلا۔ ۱۹۴۸ء سے اسی کرایے کے مکان میں رہ رہا ہوں۔ ہندوستان میں دو مکان چھوڑے تھے۔ یہاں آکر کچھ بھی نہیں ملا اور نہ ہی میں نے کو شخص کی ہے۔ کلیم منظور ہو گیا ہے۔ قرعہ اندازی میں کچھ ملا نہیں۔ اب نقد معاوضے کی آس لگائے بیٹھا ہوں شاید مل جائے۔

ایک زمانہ تھا کہ شاہ صاحب کے گرد ہر وقت عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا تھا، اب مذکورہ بیان ختم ہو گیا تو سب احباب دور ہو گئے ہیں۔ اب صرف وہ دیہاتی بننے آتے ہیں جو ان کے مرید ہیں اور ان سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ کچھ احباب سادوں کے بادلوں کی طرح چھٹ گئے اور کچھ اللہ کو پیار سے ہو گئے جو باقی رہ گئے وہ زلزلے کے تقاضوں کے ساتھ ہو لیے۔ اب شاہ جی اور بڑے ہاپے کا بار نہ رہ گیا وہ بھی نہ جانے کب ٹوٹ جائے گا۔

۲۔ جنوری ۱۹۶۱ء کو فالج کا دوسرا بڑا حملہ ہوا تو اس سے رہی  
**فالج کا دوسرا بڑا حملہ**  
 سہی صحت بھی برباد ہو گئی۔ پیشتر کبھی کبھار اگر معالج کے مطب  
 تک چلے بھی جاتے تھے، تو اس حملے نے وہ ہمت بھی چھین لی۔ اب تو گھر کی چار دیواری

کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، معالج خود مریض کے ہاں آتے۔ ان دنوں میر شریعت نے حکیم عطار اللہ خاں سے کہا:

”آپ کے زیر علاج اس لیے نہیں ہوں کہ آپ بڑے قابل حکیم ہیں، بلکہ اس لیے ہوں کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں۔ شاید آپ کی نیکی کی وجہ سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔“

ایسا لگتا ہے کہ میر شریعت اس حملے کے بعد اپنی روحانیت سے محسوس کر چکے تھے کہ آخری وقت آن پہنچا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے ہر تیمار دار سے کچھ عجیب سی گفتگو کرتے۔ مولانا سلین نے ایک دفعہ کہا ”شاہ جی کی بیماری کے دنوں میں بھی چہرے کی سرخی نہیں گئی، بلکی سی مسکراہٹ سے فرمایا:

”یہ سرخی تو میرے مرنے کے بعد بھی رہے گی۔ یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ مرنے کے بعد بھی عارض کی سرخی نہیں جاتی۔“

قالج کا آخری جملہ

۱۶ مارچ ۱۹۶۱ء کو قالج کا تیسرا شدید حملہ ہوا، جس کا اثر زبان اور گلے پر پڑا۔ اس حملے نے تمام اجاب کو پریشان کر دیا۔ اکثر شہروں میں تو امیر شریعت کی موت کی خبر بھی مشہور ہو گئی۔ اخبارات کے دفاتر سے ٹیلیفون اور برقی پیغامات کے ذریعے اس خبر کی تحقیق اور دریافت ہونے لگی۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد طبیعت نے فوراً سنبھال لیا تو اجاب کو خیریت کی اطلاع دی گئی۔ لیکن اس حملے سے امیر شریعت کی زبان گتھگو سے عاری ہو گئی، گلابند ہو چکا تھا، بڑی مشکل سے آواز سمجھ میں آتی تھی، وہ بھی کان منہ سے لگانے پر۔ انہی دنوں لاہور سے دوسرے اجاب کے علاوہ شیخ حسام الدین بیمار پرسی کے لیے تھان آئے تو امیر شریعت نے شیخ صاحب کے کان میں کہا:

”میری زندگی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عطار اللہ زبانی بھی تیری

نہیں میری ہے، میں جب چاہوں، اسے چھین بھی سکتا ہوں۔“

ماہنامہ ”قبصرہ“ کا بخاری نمبر | امیر شریعت کے اس شدید حملے کے باعث جہاں ان سے سیاسی اور مذہبی اختلاف رکھنے والوں

کو پریشانی ہوئی وہاں ملک کے اخبارات نے بھی نوٹ لکھے اور امیر شریعت کی قومی اور ملی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان کو ان کی تیمارداری کی طرف متوجہ کیا۔ اس ضمن میں جون ۱۹۶۱ء کو ماہنامہ ”قبصرہ“ لاہور نے اپنا بخاری نمبر نکالا، جس میں برصغیر کے تمام اہل قلم نے امیر شریعت کو نظم و نثر کے ذریعے تراجیحیں ادا کیا، جن میں مولانا غلام رسول ترمذی، دیوان گلشن مفتون، مولانا نصر اللہ خاں عزیز، احسان دانش، علامہ لطیف انور، احمد ندیم قاسمی، نقاری محمد طیب، منتظم دارالعلوم دیوبند، حافظ علی بہادر (بہمنی) ان کے علاوہ اس عظیم نمبر کے لیے آندھرا پردیش (بھارت) کے گورنر لالہ بھیم سین سچر کا خط بھی قابلِ مطالعہ ہے: راج بھون، جید آباد، ۹۔ اپریل ۱۹۶۱ء

پیارے شری غلام نبی صاحب جاننا زرجی آداب عرض،

آپ کا گرامی نامر ملا، یاد آوری کا شکریہ!

آپ نے شکوہ کیا ہے کہ میں نے آپ کے خط کا جواب نہیں دیا لیکن مجھے تو آپ کا اور کوئی خط ملا ہی نہیں۔ صرف زیر جواب خط ہی مجھے تک پہنچا ہے اور اب شاید آپ کے خاص نمبر کے لیے میرا پیغام بعد از وقت ہوگا۔

جہاں تک سید عطا اللہ شاہ بخاری کا تعلق ہے وہ ان چند بے خوف شخصیتوں میں سے ہیں جن کے لیے میزائل بے پناہ احترام کے جذبات سے متور رہا ہے۔

میں جب ان سے پہلی بار متعارف ہوا تھا تو میرا تاثر یہی تھا کہ شاہ جی شمع سحریت کے سرفروش پر دانے اور جلد آزاد کی کے جاننا ز سپاہی ہیں جو ات

ذہانت اور تجربہ علمی کے ساتھ ساتھ خدائے انہیں فصاحت و بلاغت کے  
نایاب جوہر سے بھی نوازا ہے۔

جب ہم ان کی تقاریر سنارکتے تھے تو ہماری دلی آرزو ہوتی کہ شاہ صاحب  
موتی پکیر رہے ہیں اور ہم قلب و نظر کو ان سے منور کرتے رہیں۔ وہ سامعین  
کو مسحور کرنا جانتے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کی تقریر کب ختم ہو۔  
کیونکہ نہ تو شاہ صاحب کے ہاں متنوع مضامین کی کمی ہوتی اور نہ ان  
کی جہانی تحکاک و ہی سلسلہ تقریریں حائل ہوتی۔ شاہ جی جیسے بہادر انسان  
جو انسانیت کی اعلیٰ اقدار کے حامل ہیں، ہمارے سخی احترام کے مستحق ہیں۔  
میں صدق دل سے دعا گو ہوں کہ خدا شاہ جی کو جو یقیناً ایک ناقابل  
تسخیر شخصیت کے مالک ہیں، صحت کاملہ عطا فرمائے، اور تادیب سلامت  
رکھے کہ ایسے مادر روزگار لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے۔

آپ کا مخلص : مجیم سین پتھر

دستِ فطرت انسان کو جب عقل کامل سے نوازا کہ کارگاہِ عالم میں  
چھوڑتا ہے تو آسمان سے زمین تک کی ہر شے اس کے قدموں  
میں ہوتی ہے، پھر کبھی تو انا ہو کر انسان ناتوانوں کی بے بسی کا تماشا کرتا ہے اور کبھی خود  
اپنے زوال کی کہانی ٹکیوں کے موڑوں پر بیان کرتا پھر تا ہے۔ یہی قانونِ فطرت  
ہے۔ عروج و زوال کی اس داستان کا مصنف انسان خود ہی ہے۔

حضرت امیر شریعت تو انا تھے، جوانی اور صحت ان کی بلائیں لیتی گئے کی حلاوت  
زبان کا طرزِ تکلم ہمیشہ ان کے غلام رہے۔ جب وہ غیر ملکی سلطنت کے ظلم و جور کی دھیماں  
بکھیرتے اور بغاوت کا علم لے کر پہاڑوں کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دیتے، تو وہ پانی  
پانی ہو کر ان کے ساتھ بہہ نکلتے۔ سمندروں کو آواز دیتے تو ان کی گہرائیاں ابھر کر سامنے



آج تیں رات کی سیاہی اور دن کے اجالے انہیں اپنے جلو میں لے کر چلتے، جس کی ہدایت سے ایوانِ برطانیہ لڑ جایا کرتے تھے، جب اس کا کام ختم ہو گیا اور اس کے عروج کی پرچھائیاں ڈھلنے لگیں تو فضائیں گنگنائیں،

ڈوبتے سورج کو وقتِ شام دیکھ

حسنِ دالے حسن کا انجام دیکھ

نالچ کے اس حملے نے ملک بھر میں تشویش پیدا کر دی اور احباب نے فیصلہ کیا کہ امیر شریعت کو نیشنل ہسپتال میں داخل کر دیا جائے، لیکن امیر شریعت کو جب اس فیصلہ کا پتہ چلا تو فرمایا۔

”آپ لوگ مجھے ناسق اور فاجروں کے ہاتھوں میں سوئپ رہے ہیں“

وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اس کے باوجود مارچ کے آخری دنوں انہیں نیشنل ہسپتال (دہلی) میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھایا۔ انہی دنوں صدرِ مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں نے ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر عالمگیر کو ہدایت بھیجی کہ

”حضرت شاہ صاحب کی صحت کا خیال کریں اور ان کے علاج پر

پوری ذمہ داری سے توجہ دیں۔ اگر پاکستان کے باہر سے بھی کسی معالج کی

یاد دہی ضرورت محسوس ہو تو فوراً درآمد کریں۔ نیز اس کا بل میرے نام

کو رمنٹ ہاؤس بھیج دیں۔“

امیر شریعت کے دوسرے بڑے ارط کے سید عطار الحسن کے علاوہ مولانا زین احمد خاں دیر مولانا گل شیر کے قریبی عزیز ہیں، اور ایک رضا کار غلام محمد دیکھ بھال کے لیے ان دنوں ہسپتال میں رہے، یہاں ہر روز مغربی پاکستان سے آنے والے تیمار داروں کا ہجوم رہتا۔

بیماری کے دنوں امیر شریعت اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی ہمیشہ کھڑی رکھتے۔

بعض دوستوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

”میں نے تمام عمر توحید پر وعظ کیا ہے، اور عمر کے آخری حصے میں بھی

اس تصور کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔“

ہسپتال میں امیر شریعت کی دیکھ بھال کے انچارج ڈاکٹر بشیر احمد نے ایک دن ایسا ٹیکہ لگا دیا جس کے باعث نبضیں ڈوبنے لگیں، دل بیٹھنے لگا۔ بڑھتے بڑھتے یہ تکلیف اس حد تک بڑھی کہ امیر شریعت کو اپنی موت کا گمان ہونے لگا، اور انہوں نے اپنے خادم مولانا زین احمد خاں سے فرمایا:

”اس ٹیکے سے میرا کام ہو چکا ہے، لہذا آپ گواہ رہیں۔“ دیکھ کر آپ

نے تین دفعہ کلمہ شہادت، تین دفعہ ”لا الہ الا اللہ“ کی حدیث پڑھی، اور اس

کا ترجمہ کیا، نیز فرمایا تمام دوستوں سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دین کا کام بہر حال کرتے رہیں۔“

یہ تکلیف نماز عصر سے شروع ہو کر ساری رات رہی، لیکن ہسپتال کے انچارج کو اس واقعہ کی اطلاع رات ایک بجے دی گئی، جیسے ہی انہوں نے آکر امیر شریعت کی حالت دیکھی کہ چہرے کی رنگت سیاہ پڑ چکی ہے اور پاؤں پر دم آ گیا ہے تو انہوں نے زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور غصے میں کہا جب یہ حالت تھی تو مجھے کیوں اطلاع نہ دی اس پر دونوں ڈاکٹروں کے درمیان انگریزی میں کافی دیر تلخ کلامی رہی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ امیر شریعت کو یہ سیکہ کیوں لگا گیا؟ آخری رات آٹھ بجے دوسرا ٹیکہ لگایا تو صبح ہونے تک طبیعت سنبھل۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ شاہجی تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے سے باہر تفریح کیا کریں، اس ہدایت پر بڑھی مشکل سے آمادہ ہوئے حالانکہ چل نہیں سکتے تھے، لیکن جیسے ہی صحن میں ٹہلنے لگے۔ گردن اونچی کر لی اور چھاتی تان کر فرمایا۔

”عمر بھر دشمنوں کے سامنے سر اودھا کر کے چلتا رہا ہوں لیکن آج اگر

دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ میں بیماری کے باعث کمزور ہو گیا ہوں، تو وہ خوش ہوں گے، اس لیے نقارہت کے باوجود میں چھاتی تان کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ دشمن سمجھے کہ بخاری ابھی زندہ ہے۔

ہسپتال میں بعض اوقات کافی دیر تک بیہوشی رہتی، لیکن تیمارداروں اور خادموں کو تاکید تھی، کہ مجھے نماز کا وقت اور رخ بتا دیا کریں۔

زیابطیس کی وجہ سے کثرت بول کا عارضہ تھا، مگر اس کے باوجود وضو کر کے نماز پڑھتے رہے یا پھر کبھی کبھار تیمم کر لیتے، مگر نماز نہیں چھوڑی۔ البتہ خادموں کو کھتیں بتانی پڑتی تھیں۔

ہسپتال میں مولانا لالین نے سوال کیا: شاہ جی! حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی عمر اس وقت امتی نوے سال کے قریب ہے اور حضرت لاہوری کی عمر بھی آپ سے زیادہ ہے، لیکن آپ بہت جلد کمزور ہو گئے ہیں۔ جواب میں فرمایا:

”بھائی! ان لوگوں کے گھر آباد ہیں اور میں اپنا گھر اجڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہو صدمہ مجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔“

اپریل کے آخری دن تھے کہ سید سبط حسن دسابق ایڈیٹر ہفت روزہ لیل و نهار لاہور، مجھ چند احباب کے عیادت کے لیے ہسپتال آئے۔ تعارف کے بعد ایک نوجوان نے کہا: شاہ جی! میرا نام ذوالفقار علی ہے اور میں لپٹرس بخاری کا بھائی ہوں۔ امیر شریعت ینام سنتے ہی بے اختیار رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ تمام محفل ان کے ساتھ روئے لگ پڑی۔ سید سبط حسن کی بیوی نے اپنا تعارف کرایا تو وہ بھی امیر شریعت کے کسی دوست کی لڑکی نکلی۔ اس پر وہ بچی بے اختیار امیر شریعت سے لپٹ گئی۔ آخر یہ محفل شعر و شاعری میں منتقل ہو گئی۔

مارچ کے کچھ دن سے ممی کا ابتدائی حصہ گزار کر امیر شریعت نشتر ہسپتال سے

واپس گھرا گئے، لیکن بیماری سے کوئی افاق نہ ہوا۔

دعاے صحت | فشر ہسپتال سے واپسی کے بعد ملک بھر میں مایوسی پھیل گئی۔ دلوں میں کئی قسم کے دسو سے بھرے۔ برصغیر کا عظیم خطیب کوڑوں انسانوں کے دلوں کا حکمران زندگی کے اس موڑ پر آن پہنچا، جہاں زندگی مستعار ملتی ہے، لیکن موت سے کوئی سودا نہیں کیا جاسکتا۔ اس مقام پر پاکستان کے اخبارات نے امیر شریعت کی صحت پر عوام اور حکومت دونوں کو متوجہ کیا۔ مساجد میں دعائیں مانگی گئیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے بھی امیر شریعت کی صحت کے لیے دعائیں مانگیں۔ ان دنوں کے اخبارات کے اقتباس حسب ذیل ہیں۔

”بہر نوا استخلاص دطن کے عظیم کارنامے کی انجام دہی سے عمدہ برآ ہونے والوں میں مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری ایک ممتاز مقام کے حامل خطیب ہیں۔ ان کی سیاست اور ان کے کام میں غلطیوں کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ اور پھر انبیاء کے سوا کون ہے جو غلطیوں سے بہتر ہو، لیکن شاہ جی کی جرأت، قربانی، ایثار اور اسلام دوستی سے انکار ممکن نہیں اور ان کی سحرانہ خطابت نے باطل کے خلاف رٹنے کا جو دلور ملت اسلامیہ میں پیدا کیا، اس کی قدر افزائی بشرط نجات کے مترادف ہے۔“

برصغیر کے یہ خطیب ایک عرصے سے علیل ہیں۔ مرض بھی ایسا ہے جو اعضاء ہی کو شل نہیں کرتا، اعصاب، ذہن اور دل کو بھی ماؤف کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں سے مرض میں شدید اضافہ ہوا ہے، ہم سب کو اپنے خالق حقیقی سے اس عظیم انسان کی زندگی کی بھیک مانگنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ انہیں عمر خفصہ عطا فرمائے !

”یہ خبر کئی ماہ سے عوامی حلقوں کی پریشانی کا موجب بنی ہوئی ہے کہ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطار اللہ شاہ صاحب بخاری سخت بیمار ہیں ان کی زبان میں جس کی سحر طرازی کی کبھی۔ زمانے میں دھوم مچی، لکننت پیدا ہو چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے خلافتِ نخواستہ یہ چراغِ آخر شب میں چند لمحوں کا مہمان ہو۔“

حضرت شاہ صاحب کے سیاسی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی بات تو ان کے دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کی ذات جدوجہد آزادی کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، انہوں نے اپنے طرز فکر کے مطابق ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک عمر قید و بند میں بسر کی اور اس راستے میں ہر مصیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا تا وہ یانیت کے خلا ان کا جہاد باللسان تو بالخصوص اُمت پر ایک عظیم احسان ہے! ایسے لوگ روزِ روز پیدا نہیں ہوتے۔ پاکستانی قوم کا فرض ہے کہ وہ بیماری کے زمانے میں اس بطلِ جلیل کے علاجِ معالجے کے لیے ہر طرح کے ذرائع و وسائل فراہم کرے البتہ میں کفِ افسوس مننے سے کیا فائدہ؟ اب وقت ہے کہ حکومت اور شاہ جی کے متحدرین اور ملک کے عوامی حلقے اپنا فرض ادا کریں۔

ہمارے بعد اندھیلا رہے گا محفل میں  
بہت چراغِ جلاؤ گے روشنی کے لیے“

مفتی نامہ ”امروزہ“ لاہور

”امیر شریعت سید عطار اللہ شاہ بخاری کی حلاوت کے تازہ حالات نے جذبات کی دنیا میں ایک طلاطم پیدا کر دیا ہے، ان پر فالج کا ایسا حملہ ہوا

کران کی قوت گویائی متاثر ہو چکی ہے۔ معایہ خیال ہوتا ہے کہ اس بلبل ہزار داستان کی یہ قوت تو سیاسی کشمکش نے پہلے ہی پھین لی تھی، یاد دوسرے الفاظ میں مفلوج کر دی تھی۔

انڈیا پاکستان کے وہ بہترین خطیب ہیں۔ کاش زندگی میں پھران کی تقریر ہو اور اس میں کبھی زاوہ قطار روئیں اور کبھی بے اختیار بنیں۔  
قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اے اللہ! میری زبان کھول دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔

معلوم نہیں حضرت شاہ صاحب نے کبھی یہ دعا مانگی تھی یا نہیں۔ مگر اللہ نے ان کی زبان میں یہ طاقت ضرور عطا فرمائی تھی کہ دشمنوں کا مجمع بھی تقریریں کر رام ہو جاتا تھا۔ پاک دہندگی آزادی کے لیے ان کے طغفانی دورے اور ان کی خطیبا نہ فتوحات تاریخ کے صفحات میں زریں حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔

کلام میں عجیب سحر تھا۔ جہاں چاہتے رُلا دیتے، جہاں چاہتے ہنسا دیتے، بسا اوقات ان کی تقریر کا سلسلہ مؤذن کے نعرہ تکبیر پر ہی ختم ہوتا تھا۔ لیکن مجال ہے کہ ہزار ہا حاضرین میں سے کوئی اٹھ جائے یا اڑکھ جائے۔

ایسا عدیم المثال خطیب پاکستان میں خاموش زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے ہم جیسے عقیدہ مند دل اور رفیقوں کے لیے یہی حقیقت کافی دردناک ہے کہ ان کے مرض میں کوئی آفاقہ نہیں ہوا، اور وہ ہسپتال سے باہر واپس آئے ہیں۔

اؤ! ہم دل کی گرائیوں سے دعا مانگیں کہ اسے پروردگار! اپنے

حبیب کے مدد سے میں حضرت شاہ صاحب کو صحت عطا فرما، اور باری  
یہ حسرت پوری کر دے کہ ایک بار پھیران کی خطابت سے ملت میں نئی  
زندگی آئے۔

روزنامہ انجام کراچی

پھیر لاہور میں | حالات سے پریشان ہو کر جون کے ابتدائی بیعت میں امیر شریعت کو پھیر لاہور

میں لایا گیا۔ اب کے وہ مالکن سلطان فونڈری کے ہاں ماڈل ٹاؤن  
بلاک بی۔ کوٹھی نمبر ۶۶ میں ٹھہرنے گئے۔ لاہور میں ان کے علاج کے لیے دو الگ الگ  
بورڈ تجویز ہوئے۔ میڈیکل بورڈ ڈاکٹر کرنل ضیاء اللہ اور ڈاکٹر محمد یوسف پر مشتمل تھا، جبکہ اطما  
کے بورڈ میں حسب ذیل لوگ شامل تھے، حکیم محمد حسن قرشی، حکیم نیر واسطی، حکیم نبی احمد سوہلا  
پلوٹا حکیم اجمل خاں، حکیم شیدا نی اور حکیم محمد اسماعیل جگر لاناں والے۔

یہ سب معالج مشورے سے علاج کرتے رہے، ان دنوں امیر شریعت کی  
تیمارداری کے لیے ان کا لاکا سید عطاء الحسن پاس رہا، کبھی کبھار امیر شریعت کے حرم محترم  
اور دوسرے بچے بھی آتے رہے۔

امیر شریعت ۱۹۲۱ء میں پہلی دفعہ لاہور انجانے عالم دین کی حیثیت سے آئے  
تھے اور ۱۹۶۱ء میں جب آخری بار لاہور لائے گئے تو سارا لاہور ان کو دیکھنے اُٹا آیا، اور  
کیوں نہ آتا جبکہ امیر شریعت نے لاہور کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ جوانی کی بہاروں  
سے موت کی پرچھائیں تک وہ انہی کے لیے سارا کچھ کہتے سنتے رہے۔ اہل لاہور نے بھی  
امیر شریعت سے محبت، رفاقت اور عداوت کرنے میں کوئی کسر اٹھانیں رکھی تھی۔ بنا بریں  
امیر شریعت اہل لاہور کو کو ذمہ کما کرتے تھے۔

ان دنوں ماڈل ٹاؤن کی اس کوٹھی میں عوام کے علاوہ سیاسی رہنماؤں صحافیوں  
ادیبوں، شاعروں اور کاروباری لوگوں کی آمد آمد سے شب و روز ایک بھیڑ مگی رہتی امیر شریعت  
سب کو پہچانتے تھے، لیکن بات نہیں کر سکتے تھے، لوگ آتے، اوڈنٹ چارپائی کے

نزدیک کھڑے ہو کر زیارت کرتے اور چلے جاتے۔ فارسی کے مشہور شاعر علامہ  
محمد حسین عرشی امرتسری بھی انہی دنوں امیر شریعت کو ملنے آئے مگر حالات کو دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھے

سہ برق در عہدِ آسودہ بستر شدہ

شعلہٴ جہاں خاکستر شدہ

نماز | ان حالات میں بھی نماز سے غافل نہ رہتے۔ یہ ذاتِ باری تعالیٰ کی ان پرخاص  
نوازش تھی۔ حالانکہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن عین نماز کے وقت اگر کوئی اس

پاس نہ بھی ہوتا تو کسی چیز سے زمین پر کھڑکا کر دیتے تھے۔ اس آواز سے اہل خانہ فوراً حاضر  
ہوتے تو امیر شریعت ہاتھ کے اشارے سے نہیں نماز کے لیے کہتے، اور نماز باجماعت  
ہوتی۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ نماز کے دوران ان پر بیہوشی طاری ہو جاتی اور ان کے صاحبزادے  
عطا الحسن انہیں دوبارہ نماز لوٹانے کو کہتے۔

انہی دنوں کا ذکر ہے کہ سرگودھا کے مفتی محمد شفیع امیر شریعت سے ملنے آئے، تو کوٹھی  
کے ایک مولانا محمد اکرم دہانک سلطان ڈنڈری نے مفتی صاحب سے گزارش کی:  
”حضرت! یہ فرمائیے کہ شاہ جی اس حالت میں نماز پڑھتے ہیں، اور اکثر  
دیکھا گیا ہے کہ یہ نماز میں بے ہوش ہو جاتے ہیں معزز م عطا الحسن شاہ جی  
پر مذور دیتے ہیں کہ دلچسپی نماز لوٹائیں!“  
اس پر مفتی صاحب نے فرمایا:

”زمیر سے عزیز! شاہ جی کی بے ہوشی کی نمازیں ہماری ہوشمندی کی

نمازوں سے ہزار درجہ بہتر ہیں!“

اس کے بعد پھر کبھی انہیں نماز لوٹانے کو نہیں کہا گیا۔

مولانا شیخ محمد جالندھری ملنے آئے تو دورانِ گفتگو ان کے منہ سے مولانا مفتی محمد حسن  
کی موت کی خبر نکل گئی، اور یہ بات امیر شریعت نے بھی سن لی، حالانکہ وہ کافی فاصلے پر بیٹھے



باتیں کر رہے تھے، ان کو اشارے سے بلایا، اور کاغذ پینسل مانگی، اس پر لکھا یہ میرے استاد تھے، اور پھر بے اختیار رونے لگ پڑے اور کافی دیر روتے رہے۔

اس طرح کے میل و نہار میں قریباً ڈیڑھ ماہ لاہور میں گزار کر امیر شریعت کے حرم محترم کے ارشاد پر امیر شریعت کو جولائی کے آخری دنوں میں واپس متان لایا گیا اور ڈاکٹر کرنل ضیاء اللہ کی تجویز کردہ ادویات کا استعمال ہوتا رہا، لیکن مرض مریض پر اس قدر غالب آپہنکا تھا کہ ڈاکٹروں اور حکما کے تمام نسخے بیکار ہو گئے، اس طرح سے عقل انسانی جب اپنی رائے پر مات کھا چکی تو قدرت کے فیصلے کا انتظار ہونے لگا۔

ماضی کی پچاس سالہ تاریخ کا شمار، افواج آزادی وطن کا سیرالاراجس کی گھن گرج میں شیروں کا سا وقار، گفتار میں بجلی کا سا کردار، ارادوں میں پہاڑوں کی سی پختگی، مقدّروں میں سیاروں کا جلو اور جذبات میں سمندوں کے طوفان نے کہ سلطنتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جانے والا آج چارپائی پر بے حس و حرکت پڑا اپنے خالق کے فیصلے کا منتظر ہے۔

## انتقال

لاہور سے متان پہنچنے کے پچیس روز بعد رات اڑھائی بجے اچانک طبیعت تڑاب ہو گئی اور سانس اکھڑنے لگی، چمکی شروع ہو گئی، گھر میں پریشانی بڑھی اور موت کے سائے ناچنے لگے۔ یہی منحوس نبر صبح کا ہی متان بھر میں لے آئی کہ امیر شریعت انتقال کر گئے۔ تمام شہر آخری دیدار کو ان کے گھر آن پہنچا، لیکن ہنوز گل و بیل کا رشتہ قائم تھا، اور امیر شریعت آخری سانس گن رہے تھے۔ حکیم عطاء اللہ خاں اودان کے بیٹے بھی اپنی آخری پونجی آزمانے کو آئے، موجود ہوئے، لیکن وہ بھی اپنے آنسوؤں میں الجھ کر رہ گئے۔ امیر شریعت اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھے اور سانس رُک رُک کر آرہی تھی، سورج غم آلود چہرے سے تمام دن اس باتم میں شریک رہا، وہ اپنے ڈھلتے سائے کو گل کے اتم میں شرکت کے لیے چھوڑ کر مغرب کی چادر میں جا چھپا۔ شفق نے لارو گل کا سلباس مہن لیا، یوں مغرب کی افان کیلئے اٹھا ہی تھا کہ چھ بچ کر چمن منٹ پر برصغیر کا عظیم

خلیب زندگی کے قریباً مبتدئہ پس گزارا کہ اس جہانِ فانی سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

”ادا کر کے قرض اپنی خدمات کا سحر دم وہ جاگا ہوا رات کا ابد کے نگر کو روانہ ہوا مکمل سفر کا فسانہ ہوا“ (صدم)

موت کی خبر | ریڈیو پاکستان نے یہ خبر رات پونے آٹھ بجے نشر کی۔ لیکن جہاں دل کی تاریں پیوست تھیں، وہاں صبح سے اضطراب تھا، اسکی کی تصدیق نے دل کی دھڑکنوں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ عشاق، ہجوم در ہجوم محبوب کے آخری دیدار کو آنسوؤں کا نذرانہ لے کر گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ کراچی سے پشاور تک کے لوگ، قصبات سے دیہات تک کے عوام جنازے میں شرکت کے لیے آن پہنچے۔

جنازہ | ۲۲ اگست نماز ظہر کے بعد میرٹھ شریعت کا جنازہ اٹھانے کا اعلان تھا۔ اس دن کا آفتاب اپنے ساتھ تاریخ کا ایسا المیہ لے کر طلوع ہوا کہ نہ صرف سلطنتِ ہند اس کے غم میں ڈوب گئیں، بلکہ جراتِ انسانی اور قوتِ ایمانی کا چراغ بھی جہنم کے لیے گل ہو گیا۔ اقلیمِ خطابت کا فرمانروا اپنی تمام رعنائیاں سمیٹ کر جہانِ بے مرزت سے رُخ موڑ چکا تھا۔ وقت کے نشیب و فراز جس کے قدیموں کی چاپ کے منتظر رہتے، آج اس کی روح قریب کھڑی اپنے مہمانوں کی منتظر تھی۔ دھوپ کے سائے مکانوں کی دیداروں سے اتر کر گلی اور بازاروں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے۔

کراچی سے پشاور تک کے لوگ ریل گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے جنازے میں شرکت کے لیے تیز رفتار می سے ملتان پہنچ رہے تھے۔ دیہاتیوں کی ٹولیاں اپنے مرشد کے جنازے کے لیے پہنچ رہی تھیں۔ تانگے، لاریاں، اسائیکل بھی مصروف تھے، کہ ان پر انسانوں کا گلہ نرہ جائے کہ وہ وقت کے عظیم انسان کی آخری رسم میں شامل ہو سکے۔

نماز نظر کے بعد جب اس مرد درویش کا جنازہ محلہ طیبی شیرخاں سے اٹھایا گیا۔ تو دو لاکھ انسانوں کا سمندر اس کے گرد بٹھا تھا، ہار رہا تھا۔ جنازے کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے، تاکہ کوئی ہاتھ اس سعادت سے محروم نہ رہ جائے، تاہم ہزاروں سوگواروں کو یہ شکایت رہی۔

جنازہ جیسے جیسے اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا، ہجوم درہجوم لوگ اس میں شامل ہوتے گئے۔ پچھری بوڈ سے گزرتا ہوا یہ ماتمی جلوس چار بجے کے قریب ایمرن کالج کی گراؤنڈ میں پہنچا اور جنازہ کی صفیں درست ہونے لگیں۔ تاریخ ماضی اپنی شہادت لے کر آن پہنچی۔

حضرت امام ابو حنیفہ کی نماز جنازہ کے بعد اس کے دامن میں امیر شریعت (رحمۃ اللہ علیہ) کی نماز جنازہ کا دوسرا واقعہ تھا۔ ورنہ اس سے پیشتر اس قدر ہجوم کسی درویش کے جنازہ میں نہیں دیکھا گیا۔

نماز عصر سے ذرا پہلے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ان کے فرزند اکبر سید عطار المنعم شاہ بخاری نے پڑھائی۔

آخری آرام گاہ

متان کو اس کے بڑے بڑے نئے نئے اپنی تاریخ کی یادداشتوں سے بھی محروم کر دیا ہے، ہاں اس قدر یاد پڑتا ہے کہ اس شہر کا تاریخی قلعہ جسے آج قائم بانغ کا نام دیا جا رہا ہے، صدیوں پیشتر راجدہاہرنے تعمیر کیا تھا، اور آج یہ قلعہ اہل متان کی عظیم تفریح گاہ ہے۔ دن کے اجالے اور رات کے انارہیرے ہی جانتے ہیں کہ تاریخ کے اس بوسیدہ دامن پر کیا گزری اور کیا بتی۔ کاش اگر ترقی ہوئی دیواروں کے منہ میں زبان ہوتی اور وہ چیخ چیخ کر اپنی بے بسی کا ماتم کرتیں، لیکن بے سرا اور لاوارث عمارت اپنی غیرت اپنے سماروں کے ساتھ ہی رخصت کر چکی ہیں، گو اس کے سینے پر حضرت پیر مہاول سخی اور حضرت شاہ رکن عالم (رحمۃ اللہ علیہ) کے مزارات مرتجح خلائق ہیں،

گلاس اندھیرنگری میں نیکی اپنا منہ چھپائے ایک طرف بیٹھ گئی تاکہ غارت گری کے اسباب  
مبیا کرنے میں زمانہ حجاب محسوس نہ کرے۔

حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ کا سوال جب اجاب کے سامنے  
آیا تو کمشنر ملتان بی۔ اے۔ قریشی نے اطلاع دی کہ رات گورنر مغربی پاکستان نواب امیر محمد  
خاں نے مجھے ہدایت کی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی تدفین کے لیے جو جگہ طلب کی  
جائے، اس سے انکار نہ کریں، اس پر اجاب کی رائے ٹھہری کہ حضرت امیر شریعت کی  
آخری آرام گاہ کے لیے قلعہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں اور اپنے اس فیصلے سے کمشنر ملتان کو  
آگاہ کر دیا، اور انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر متعلقہ کاغذات مکمل کر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ  
کے ہاتھ پہنچ دیے۔ البتہ ایک شرط عائد کر دی کہ حضرت شاہ صاحب کے علاوہ دوسری کوئی  
قبر وہاں نہیں بنے گی۔ مگر جیسے ہی حضرت امیر شریعت کے حرم محترم کو اس کی اطلاع ہوئی  
انہوں نے اس شرط کے علاوہ بھی امیر شریعت کو قلعہ میں دفن کرنے کی مخالفت کی نیز فرمایا:

”جو شخص عمر بھر حکومت کے کسی اعزاز کا احسان مند نہیں ہوا، اسے  
حکومت کی اجازت سے حاصل کردہ جگہ پر دفن کر کے اس کی روح کو

صدمہ پہنچانا بہتر نہیں“

اس بنا پر نماز جنازہ سے فراغت کے بعد حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا  
جسدِ خاکی دو لاکھ سے زائد انسانوں کے کندھوں پر اپنی آخری آرام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔  
چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے بھاکری قبرستان کے ابتدائی کونے پر دیوہ پل کمیٹی  
کے ویلے ہونے وسیع خطہ ارضی کو امیر شریعت کا خاندانی قبرستان قرار دے کر،  
سورج کی آخری کرنوں کو دیکھتے دیکھتے لاکھوں انسانوں کے آنسوؤں سے بھگی ہوئی  
سینکڑوں من مٹی تلے لحد میں اتار دیا گیا۔

محمدؐ کی سیرت کا پینا مبر  
 خدا کے سدیے سبنا تا ہوا  
 بڑی منزلیں کر گئے طے علم کی  
 بڑی دیر چلتا چلاتا ہوا  
 نہایت اہم سوچ میں کھو گیا  
 گھڑی دو گھڑی کے بیسے سو گیا  
 (عدم)

مغل فرمانرواؤں کے زوال کے ساتھ ۱۶۰۸ء کو جب ہندوستان کے تخت پر فرنگی  
 عروج انگڑائیاں لینے لگا، اور آہستہ آہستہ یہ سورج وقت کے تمام ستاروں کو مات دے  
 کر اپنی چمک کے سنگھاسن پر بیٹھا تو شیخ و برہمن کی تسبیح کے تمام دانے ٹوٹ کر اس کے  
 قدموں میں آن گئے۔ ہندوستان کا تخت طاؤس اور کوہِ نذر میرے کی چمک دونوں غلامی  
 کی زنجیر میں جکڑے گئے۔ یونین جیک کی اڑانیں لال قلعے کی چھت پر پڑھ کر گنگا و جہنا کے  
 پوتے پانیوں میں زہر کھولنے لگیں، مسجد کی اذانیں کھیسوں کی آوازیں دب کر رہ گئیں۔  
 ایوانِ فرنگی کا ایک ایک قانونِ جہازمی قافلے کے نقشِ پا پر اپنی نئی عمارت استوار کرنے  
 لگا تو ایمان کی ایک نگاہ مٹھی، جس نے خونِ جگر کی آمیزش سے اس قدر آنسو بہائے  
 کہ سارا ہندوستان رو پڑا، اور یہ آنسو حضرت شاہ ولی اللہ کے آنسو تھے۔ انہی آنسوؤں سے  
 پھر، ۱۸۵ء کے بعد کبھی محمود الحسن نے جنم لیا، اور کبھی قاسم خان قوی کی پیدائش ہوئی۔ عبید اللہ  
 سندھی اور حسین احمد مدنی بھی اسی کوکھ کے لعل تھے۔ محمد علی جوہر، ابوالکلام آزاد، ظفر علی خاں،  
 مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید بھی اس قافلے میں شامل ہوتے گئے، تا انکلاس زنجیر کی آخری  
 کڑھی حضرت امیر شریعتؒ دستید عطا اللہ شاہ بخاری، رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ زنجیر ایک ایک  
 کڑھی سمیت ۲۱ اگست ۱۹۶۱ء شام چھ بج کر پچھن منٹ کو اپنی تاریخ مکمل کر گئی۔

خدا رحمت کنہدایں عاشقانِ پاکِ طینت را

## اخبارات

۲۲۔ اگست صبح کے اخبارات جب پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں پہنچے تو ان کے صفحوں پر سیاہ جاشیے تھیں۔ ملکی صحافت نے قافلہ ہائے حریت کے بہادر سپوت کو آخری خراج عقیدت پیش کیا اور ملک کے قلم کاروں نے امیر شریعت کی موت کو ملکی اور ملی نقصان قرار دے کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔

### روزنامہ "جنگ" کراچی

”حق یہ ہے کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری پاک و ہند کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ قوم ایک مخلص رہنما سے محروم ہو گئی، لیکن ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ انہوں نے قوم کو آزاد کرانے اور ملک کو ترقی کے منازل تک پہنچانے کے لیے جو کام کیا ہے وہ دوسروں کے لیے شعل ہدایت کا کام دے گا“

### روزنامہ "انروز" لاہور

”وہ شعلہ نوا خطیب اٹھ گیا جس نے ربح صدی تک سپاہ آزادی کا دل گرائے اور حوصلہ بڑھائے رکھا۔ دنیائے خطابت کو اس پر ناز تھا اور اس کی یہ صلاحیت ملک و ملت کی خدمت کے لیے وقف رہی، لیکن وہ صرف خطیب ہی نہیں تھا، عمل کا دھنی بھی تھا“

### روزنامہ "کوہستان" لاہور

”سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے فرنگی استبداد کے خلاف اس وقت علم بغاوت بلند

کیا تھا جب سلطنتِ برطانیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور آزادی کی خواہش ایک دیوانے کا خواب سمجھی جاتی تھی۔

بہن شاہ صاحب کے طریق کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ان کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا۔ آنے والی نسلیں جب برصغیر پاک و ہند کی آزادی کے بکھرے ہوئے اوراق اکٹھا کریں گی تو اس وقت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو فراموش نہیں کر سکیں گی۔

### روزنامہ "وقاق" لاہور

سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی وفات ایک روایات کے انجام کا اعلان ہے۔ وہ روایات کی پیداوار تھے، جس میں گرمی آواز کے ساتھ آدمی اور آدمی کے درمیان رشتہ گردانا جاتا تھا انسانی رشتے کے اس تصور نے خطابت کو جنم دیا، جسے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری ہندی مسلمانوں کے ایک بھرپور دور میں پیدا ہوئے تھے، اس دور میں قداور رہنماؤں کے ہونے ہوتے انہوں نے اس طرح ایک منفرد مقام پیدا کیا کہ مسلمانوں کی مذہبی زندگی کو سیاسی زندگی سے مربوط کرنے کی کوشش کی اور خطابت کو طریق اظہار کے طور پر اپنایا، جو مسلمانوں کی مذہبی زندگی اور سیاسی زندگی دونوں میں ایک مقبول اور موثر طریق اظہار کا مرتبہ رکھتی تھی۔

### روزنامہ "عوام" لاہور

سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی وفات ایک بڑا ہی صدمہ ہے، آج ہر پاکستانی کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاہ جی کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے، وہ کبھی پُر نہیں ہو سکے گا۔  
 وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے  
 ڈھونڈنا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر

## ہفت روزہ "لیل و نہار" لاہور

”مروم جب یہ کہتے کہ میری تین پوتھائی زندگی ریل میں اور ایک پوتھائی جیل میں گزری تو حقیقت بھی یہی ہوتی تھی، وہ محض ایک سیاسی رہنما نہ تھے، ایک مکمل شخصیت تھے۔ مجاہد بھی اور مذہبی۔ جس طرح لاکھوں کے مجمع میں گرجتے، اسی طرح اجاب کی غفلت میں چمکتے۔ بلکہ سخی اور خوش گفتاری سے ہر ایک کا دل مٹھی میں رکھتے۔ شعر و ادب کا مذاق نہایت پاکیزہ رکھتے تھے۔ محبت و مروت، اخلاص، ایتھار اور داداری اور دوست داری کا پیکر تھے اور یہ صفات اب نایاب سم ہوتی جا رہی ہیں۔“

## ہفت روزہ "اقدام" لاہور

”سید عطار اللہ شاہ بخاری اردو اور پنجابی کے بے مثل خطیب تھے، انہوں نے اپنی فصاحت اور بلاغت، خطابت اور علم کلام کی توپوں کے دہانے انگریز شاہی تلخے پر رگوز کیے تھے انہیں اختلاف عقیدہ کے علاوہ احمدیوں (مزرائیوں) سے غیر فانی کد کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بانی سلسلہ نے انگریزی سلطنت کو ابر رحمت قرار دے رکھا تھا۔ اس وجہ سے انگریزی استعمار اور احمدیت (مزرائیت) دو ایسے نشانے تھے جن پر شاہ صاحب نے ہمیشہ گولہ باری جاری رکھی اور دونوں کو خاصہ نقصان پہنچایا۔“

## ہفت روزہ "ایشیا" لاہور

”قیام پاکستان کے بعد شاہ صاحب عملاً سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے، لیکن تحریک ختم نبوت کے دوران وہ پھر اسلام کی ابر و بچانے کے لیے میدان میں اتر آئے شاہ صاحب ایسی جامع کمال شخصیتیں روز بروز پیدا نہیں ہوتیں، افسوس ہے کہ پرانے بادہ کش ایک



کر کے اس مغل ہستی سے اٹھتے جاتے ہیں، اور کوئی ان کی جگہ پر کرنے والا نظر نہیں آتا۔

## ہفت روزہ "خدا م الدین" لاہور

۲۱- اگست ۱۹۶۱ء کو یہ جگہ خراش خبر سارے ملک نے انتہائی رنج و قلق سے سنی کہ ملک کے ایڈیٹر ناز فرزند بطل جلیل، مجاہد اعظم، جنگ آزادی کے شیر دل رہنما، محبوب و محبوب اولیاء اللہ، شیخ مہتمم نبوت کا پروانہ، امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون

## ہفت روزہ "الاعتصام" لاہور

» شاہ صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک ادارہ تھے۔ ان کی موت تمنا ایک شخص کی موت نہیں، ایک عہد، ایک دور اور ایک جماعت کی موت ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کی ہر صیبت کے وقت مضطرب دل لے کر آئے تھے، اور یہ آواز برصغیر پاک و ہند اور عالم اسلام کے ہر سانچہ میں بے اختیار بلند ہوتی تھی۔

## پنجاب یونیورسٹی کا اردو مجلہ "محور" ستمبر ۱۹۶۱ء

اک دیا اور بچھا.....

سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی وفات اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ المیہ اس لیے کہ نئی نسل یہ تو جانتی ہے کہ برکت نے برطانوی پارلیمنٹ میں کیا کچھ کہا، انہیں یہ تو معلوم ہے کہ روم میں انھوں نے کس طرح اپنی خطابت سے بروٹس کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ شاہ صاحب ناز عشا کے بعد تقریر شروع کرنے تھے اور ہزاروں سامعین رات بھر بیٹھنے کے بعد فجر کی نماز ان کی امامت میں پڑھا کرتے تھے، ان کی خطابت کا سحر راہ چلتے لوگوں کو کھینچ

کر جلسہ گاہ میں لے آیا کرتا تھا۔ یہ آواز کا جادو اس لیے تاریخی حیثیت اختیار نہ کر سکا کہ لفظوں کی طرح انہیں کوئی شکسپیر نہ ملا، اور پھر اس لیے بھی کہ بعد میں ان کا سیاسی مسلک انہیں مسلم لیگ سے دور لے گیا، اور وہ تحریکِ حصولِ پاکستان سے کٹ گئے۔ وہ غلط راستے پر تھے یا نہیں، مگر اس اختلاف کے باوجود ان کی دیانت، خلوص اور بے غرضی شہرہ سے بالاتر تھی۔

ان کی درویشی اہل بصیرت کے لیے آج بھی چراغِ راہ ہے۔

ہفت روزہ "لاہور"۔ لاہور (مرزا نیت کا ترجمان)

”سید عطار اللہ شاہ بخاری کی وفات دراصل سابق علاقہ پنجاب کے دعوایِ نفسیات کے باہر ایک ایسے شعلہ بیان مقرر کی وفات ہے، جس کا بل شاید ہی پیدا ہو سکے“

ماہنامہ "تبصرہ" لاہور۔

۲۱ اگست کی شام تاریخِ عالم کا ایک مستقل عنوان بن گئی، جب حضرت امیر شریعت (رحمۃ اللہ علیہ) نے اس جہانِ فانی کی بے اعتنائیوں سے اکتا کر عالمِ جاودانی کی راہ لی، اور اپنے گریبان کی پریشانیوں اور دھجیاں لیے اس سفر پر چل دیے جہاں نہ کوئی موڑ آتا ہے اور نہ ہی کوئی منزل کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس راہ کی ہر نئی آن کے لیے اجنبی ہوگی۔ لیکن شاہِ جی کسی کے لیے غیر نہیں ہوں گے، وہ اس جہان کی بھی ہر مخلوق کے لیے جانے پہچانے پروردگارِ عالم کے حضورِ حاضری سے پیشتر یقیناً وہ سب کا سلام لیں گے اور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام شاہِ جی کی روحِ پاک کو فرشتوں کے دوش پر حوضِ کوثر پر بلائیں گے، تاکہ زندگی کے طویل سفر کی تھکان سے دل کو تسکین ہو سکے۔ ایسے لوگوں سے ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ **وَالْجَنِّ يَتَخَمُّ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (ہم ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے)

# تحریریت

## صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں

سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی وفات حریت آیات پر مجھے بے حد صدمہ ہوا ہے شاہ صاحبؒ  
جنگ آزادی کے زبردست مجاہد تھے۔ قدرت نے آپ کو علم و فصاحت کی نعمتیں ودیعت  
کی تھیں۔ موت نے ہم سے ایک عظیم شخصیت چھین لی ہے۔“

### مولانا سید ابو علی موڈودی

”یہ بڑی غمناک خبر ہے۔ آج مسلمان ایک بہت بڑی شخصیت سے محروم ہو گئے  
ہیں۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب تھے، بلکہ یہ کہنا بالکل  
درست ہو گا کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے خطیب تھے، ان کی وفات نے ایک  
بہت بڑی جگہ خالی کر دی ہے۔“

### شیخ حسام الدین

امیر شریعت کی خطابت نے چالیس برس تک نیم براعظم کے علوم کو بالعموم اور مسلمانوں  
کو بالخصوص متحرک کیا۔ ان کے اندر بڑے اور ملک کو آزاد کرنے کا جذبہ پیدا کرنے میں وہ اپنی مثال  
آپ تھے۔ آج ان کی موت سے جو جگہ خالی ہوئی ہے وہ صدیوں پر نہیں ہو سکے گی۔

### مولانا غلام رسول مہر

سید عطاء اللہ شاہ بخاری اسلام اور آزادی کے عظیم مجاہد تھے۔ ان کی پوری زندگی پر مخلص

قریبانیوں کا ایک مرتع ہے کہ خود ان کے ہنر و تہمت رفیقوں میں ان کی مثال شاید ہی ملے۔

## احمد ندیم قاسمی

سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے انتقال کے ساتھ برصغیر پاک و ہند کی تحریک آزادی کا وہ زندگی افزا ورد لائوینز باب ختم ہو گیا، جس میں آزادی کی خاطر جسمانی اور روحانی صعوبتیں سہنا عبادت کا درجہ اختیار کر گیا تھا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا وجود گرائی اس مقدس جلد و جہد کا مجسم نشان تھا۔

## مولانا داؤد غزنوی

شاہ صاحب بہادر سپاہی، مخلص دوست اور انتہک ور کر تھے۔ ان کی موت سے جو غم پیدا ہو گیا ہے، اس کے پرہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

## مولانا مظہر علی اظہر

امیر شریعت نے اپنی زندگی میں ہی اس قاہر و جابر استعمار کا خاتمہ پاک و ہند کی سرزمین میں دیکھ لیا، جو اس کی جنگ آزادی کا مطمح نظر تھا، وہ جس عزم کو لے کر ۱۹۱۹ء میں میدان عمل میں آیا تھا، اس نے ۱۹۴۷ء میں حکم الہی اسے کامیاب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس بطل حریت کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔

## مولانا احتشام الحق

”مجھے شاہ صاحب کی وفات سے بے حد رنج ہوا ہے۔ ان کی موت برصغیر پاک و ہند بلکہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے نقصان عظیم ہے۔“

## مولانا مفتی محمد شفیع (کراچی)

مولانا کی وفات سے علماء کی صف میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ عرصہ تک پُر نہ ہو سکے گا۔ ہم آپ کے غم میں پورے طور پر شریک ہیں۔“

## ساج الدین انصاری

”چالیس برس تک جس کی شعلہ نوائیوں نے مسلمانوں کو گرمایا، وہ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ بصرہ، ایک خطیب، ایک عالم، ایک دوست اور ایک بزرگ کی موت ہی نہیں، بلکہ ایک دور، ایک تاریخ کی موت ہے۔“

## سید مظفر علی قاسمی

مسلمانوں کے ہر مکتب خیال کو حضرت شاہ صاحب کی موت نے رنج پہنچایا ہے، اور اس عظیم شخصیت کے اٹھ جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، وہ صدیوں تک پُر نہ ہو سکے گا۔“

## مولانا کوثر نیازی

سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے سیاسی نظریات سے اختلاف ممکن ہے، لیکن اس بات سے کوئی شدید سے شدید مخالفت بھی انکار نہیں کر سکتا کہ برصغیر پاک و ہند کی جدوجہد آزادی کی تاریخ میں ان کی زندگی ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے جانے سے خطابت، سیاست اور مذہب کی دنیا میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے، جسے قحط الرجال کے اس دور میں پُر کرنا ناممکن ہے۔

## لباس، خوراک اور عادات

انسان انسان سے راہِ حیات پر سفر کے دوران راستے میں ہی اختلاف نہیں کرتا بلکہ اس کی ہر ادا اور پسند جدا گانہ ہے۔ اس چوراہے پر انسان اپنے ذوق کا تنہا مالک ہے۔ اسی طرح حضرت امیر شریعت (رحمۃ اللہ علیہ) نے بحیثیت انسان اپنی انفرادیت کو قائم رکھا۔

اول جہان میں جب آپ بہار سے پنجاب آئے تو تنگ موڑی کی بہاری پاؤں میں سرخ بہاری قسم کی جوتی پہن رکھی تھی، پھر جیسے جیسے پنجابی طرز تمدن قبول کرتے گئے لباس میں تبدیلی آتی گئی، اسی طرح کبھی تہبند اور کبھی کھدر کی شنوار پہنتے۔ طالب علمی کے زمانے میں سر پرنگی اور کھدر کا نیلے رنگ کا تہبند عام استعمال کرتے تھے۔ آگے چل کر کھلی آستین کا کھدر کا لمبا کرتہ عموماً شہری رنگ کا پہنتے تھے۔ اس نسبت سے اس زمانے کا کھدر اس قدر مقبول ہوا کہ بخاری کھدر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ موسم سرما میں کھدر کا لمبا شیروانی نما کوٹھڑا اس پر کبھی کبھار کالی گرم عبا پہنتے، سر پر اتنا ترک طرز کی ٹوپی پہنتے۔

احرار کا نفرنسوں میں شمولیت کے وقت سیاہی مائل سرخ رنگ کا کرتہ پہنتے جو ازار رضا کا دل کا امتیازی نشان تھا۔

ابتداء (۱۹۶۱ء) میں ہاتھ میں موٹا ڈنڈا رکھتے تھے، اس نسبت سے ایک عرصے تک عوام میں ”بخاری ڈنڈے والا“ مشہور رہے، لیکن جب چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب اسمبلی سے مسلمانوں کے لیے تلوار رکھنے کا عام قانون منظور کرایا تو امیر شریعت نے ڈنڈے کی بجائے تلوار پکڑ لی۔ ۱۹۳۶ء میں جب مجلس احوار نے اپنے رضا کاروں کے لیے کھٹڑی کو اپنا جماعتی نشان قرار دیا تو دم واپس سے کچھ عرصہ پیشتر تک ہاتھ میں کھٹڑی

رکھتے رہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں بید کا کھونٹا بطور سہارا رکھے رہے۔

**خوراک** گھر ہوتے تو عموماً چھنے کی دال کو دوسرے کھانوں پر ترجیح دیتے سفر کے دوران خوراک میزبان کی مرضی پر چھوڑ دیتے، سفارش پر کبھی کھانا نہیں پکویا۔ سارے چاول زیادہ مرغوب تھے، لیکن دردِ گردہ کے باعث بہت کم استعمال کرتے تھے، بعض وہانوں میں پیاز اور باسی روٹی ٹیکسٹ کی کے ساتھ بھی پسند کرتے، لیکن جسم ملغبی ہونے کے باعث لسی ان کے لیے نقصان دہ تھی اسی لیے گائے کے گوشت سے ہمیشہ اجتناب رہا۔ مرضِ غذاؤں سے نفرت نہیں تھی لیکن پسند نہیں کرتے تھے، میزبان کو اکثر اس پر ڈانٹ دیا کرتے تھے۔

جلسوں یا کانفرنسوں کے موقع پر صرف ایک کھانا پکانے کی تاکید کرتے۔  
بزیوں میں شحم، مرسوں کا ساگ اور گھیا شوق سے کھاتے۔ میٹھی اشیاء ناہ کر  
حلوہ مرغوب نہیں تھا، فرمایا کرتے، یہ مولویوں کے منہ پر سیمٹ کا کام دیتا ہے۔ یعنی  
حلوہ خور مولویوں کے منہ سے حق بات نہیں نکل سکتی۔

پھلوں میں آم سے زیادہ محبت تھی اور خربوزہ بہت کم کھاتے تھے۔ امیر شریعت  
کی رائے میں خربوزہ کے بکثرت استعمال سے گلے پر برا اثر پڑتا ہے، جب کبھی آواز بپ  
جاتی تو کچا امرود یا امرود کے پتے اُبال کر ان کا پانی استعمال کرتے۔

**عادات** انسانی عادات بترک پچھا نہیں چھوڑیں۔ لیکن حضرت امیر شریعت کو اپنی  
قوت ارادی (WILL POWER) کی وجہ سے اپنی عادات پر خاصاً قابو تھا لیکن  
عام عادات جو ان کی جزو زندگی بن چکی تھیں، ان کے ہاتھوں مجبور تھے۔ مثلاً جیل میں ہوں  
یا ریل میں، نماز صبح سے پیشتر چائے بغیر دودھ کے ضرور پیتے۔ چنانچہ چائے کا سامان  
(سٹو و امٹی کاتیل، بہترین چائے کی پتی، چینی، نمک، انجان اور ایک چھوٹا چمچ) سفری  
بکس میں ہمیشہ ساتھ رہتا۔ کبھی کبھار شرود میں اگر اچھی چائے نایاب ہو جاتی تو وہاں  
کے سفر میں اس کی تلاش کرتے جو اکثر مل جاتی۔

یوں تو ہر نماز کے بعد وظیفہ کرتے، لیکن نماز فجر کے بعد قریباً ایک گھنٹہ اس کے لیے الگ بیٹھتے۔ پان کھانے کی سخت عادت ہو گئی تھی، لیکن بغیر تباکو کے کھاتے، بازار میں چلتے پھرتے نہیں۔ گھر میں یا تقریر سے پیشتر اس کا سامان بھی چانے کی طرح کبھی الگ نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلو کرتے اور نماز عصر تک سوتے۔

تقریر کی رات کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ نماز عصر کے بعد چانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو اس کے ساتھ، مک پارے یا کوئی دوسری میٹین شے استعمال کرتے، اگر تقریر کا ارادہ نہ ہو تو ہر شام کھانا کھا کر سو جاتے۔ پھر لاکھ کوشش کروا تقریر پر ارادہ نہیں ہوتے تھے اس رات نماز عشا بھی دیر سے پڑھتے۔

حضرت امیر شریعت (رحمۃ اللہ علیہ) کا دل نرجانے خالق کائنات نے کس مٹی سے بنایا تھا کہ اس کے کسی گوشے میں نفرت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر جاندار سے محبت کرتے۔ خصوصاً خوبصورت انسان ہو کہ حیوان ان کی نگاہ کرم کا مرکز ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کسی گاؤں سے تانگے پر ریلوے اسٹیشن تک آنا تھا اس کے گھوڑے پر جو نظر پڑی کہ گردن لائبی اچوڑے سم افر بکن ادم زمین تک ایس پھر کیا تھا، تمام راستہ کو چوان سلس گھوڑے کی نسل پر گفتگو کرتے رہے۔ چھ میل کا فاصلہ طے کر کے منزل پر پہنچے تو گھوڑے کا منہ چوا تھسکی لگائی، اور کو چوان کو کرائے کے علاوہ پانچ روپے نامہ دیے کہ گھوڑے کو ڈانکھلا دیے۔ ایک زمانہ میں کبوتروں سے بھی عشق ہوا، لیکن اس کی عمر مختصر رہی۔ اس دور میں تکمیل شوق کے لیے افغانستان سے لاس کمار ہی تک اچھی نسل کے کبوتر حضرت امیر شریعت کو تحفہ میں ملے۔ لیکن جب ان سے تائب ہوئے تو نشان تک مٹا دیا۔

عمر کے آخری حصے میں گھر میں مرغیاں بھی رکھیں۔ اچھے شعر کی داد دینے میں سخیل نہیں تھے۔ حالانکہ خود اردو اور فارسی کے بہترین شاعر تھے، اندیمہ تخلص کرنے تھے، اشعار عموماً دوہرے شاعر کے کلام پر داد دینے میں فراخ دل نہیں ہوتا، لیکن حضرت امیر شریعت کی عالی



حوصلگی پر متحدہ ہندوستان کے اکثر محووف شعرا انہیں اپنا کلام سنانے میں فخر محسوس کرتے اور جس شعر پر امیر شریعت داودیتے وہ اردو ادب میں سندن جاتا تھا۔ زندگی بھر انگریز اور مرزائی کے علاوہ کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھا، اور اگر اصولی طور پر کسی سے لگاڑ ہو گیا تو پھر اس میں منافقت نہیں ہوتی تھی۔ دشمن دشمن ہے اور دوست دوست۔ دوست کے عیب کی پردہ وری گناہ سمجھتے۔ آنکھوں دیکھتے اور کانوں سن کر بھی سکا دیتے، ہزار اختلاف کے باوجود اگر کوئی گھر آجاتا تو ایسا بڑا ذکر تے کہ اس پر اختلاف کا گمان تک نہ گزرتا۔

تصویر اور آواز | ۱۹۳۰ء میں پہلی مرتبہ حضرت امیر شریعت کی تصویر اخبارات میں شائع ہوئی۔ بمبئی کانگریس میں اس مرحوم جینی نائیڈو کی تقریر سن رہے تھے کہ کیر سے کی

آنکھ نے انہیں غافل پا کر چوری کر لیا۔ اور پھر ہی تصویر متحدہ ہندوستان کے ہفتہ وار انگیزی اخبار ”بمبئی کرائسکل“ اور روزنامہ ”امرت بازار تریکا“ میں شائع ہوئی۔ دوسری تصویر ”ڈڈم“ کے جبل خانہ میں کشمیر کے کیپٹن عبدالرشید کے ساتھ ان کے اصرار پر بنگالی نوجوانوں نے اتاری، جو ملاقات کے لیے آئے تھے۔

امیر شریعت بذات خود تصویر کے خلاف تھے، اس کے باوجود ان کی تصویریں لگا، لگا ہے دیکھنے میں آئیں۔ مگر یہ واقعہ ہے کہ ان میں ان کی رضا شامل نہ تھی۔ ۱۹۳۵ء میں ملتان کے مشہور عکاس چودھری بشیر احمد نے چوک حسین آگاہی میں جب اپنا نگار خانہ ترتیب دیا تو کسی بہانے حضرت امیر شریعت کو وہاں لے گیا۔ چودھری بشیر احمد کے والد ڈاکٹر رحیم بخش مرحوم کی تصویر وہاں آدیناں تھی۔ مرحوم اگرچہ حضرت امیر شریعت کے مرید نہیں تھے، پھر بھی انہیں حضرت امیر شریعت سے بڑی عقیدت تھی، حضرت امیر شریعت کی نظر بے اختیار ان پر جا پڑی، اور دیر تک تصویر کو دیکھتے رہے۔ اس موقع پر کمرہ بین نے بڑی حکمت سے کمرہ کو تصویر کی پناہ میں رکھ کر وقت کا نعتین کر دیا تھا۔ اچانک تمک کی آواز پر امیر شریعت چونک پڑے، اور بڑی حیرت سے پوچھا، ”یک کیا،“ آخر انہیں پتہ

چل گیا کہ میری تصویر تیار لی گئی ہے۔ اس پر سخت ناراض ہوئے، اور فوٹو گرافر سے وعدہ لیا، یا تو اسے ضائع کر دینا، یا عام نہ کرنا۔ لیکن اس کے باوجود یہ تصویر راقم کے ہاتھ آگئی، اور یہ وہی تصویر ہے جو اخبارات میں عام شائع ہوتی رہتی ہے۔ اس پر حضرت امیر شریعت جب کبھی فوٹو گرافر سے ملتے تو اسے ”میرے آؤر“ کہہ کر پکارتے۔

۱۹۵۷ء میں راقم نے روزنامہ ”آزاد“ کے لیے حضرت امیر شریعت کی تصویر بنانا چاہی، لیکن انہیں تہہ چل گیا اور اس قدر بگڑے کہ دو سال تک راقم سے بات نہیں کی۔

۱۹۴۲ء یا ۱۹۴۳ء میں منظر گڑھ کے ڈپٹی کمشنر مسعود موجودہ ایڈمنسٹریٹو حکمہ اوقاف کی خواہش پر مولانا مجاہد الحسنی نے ایک اجنبی میں ٹیپ ریکارڈ لگا دیا، تاکہ امیر شریعت کی تقریر ریکارڈ کی جاسکے۔ اس جلسے کی صدارت بھی ڈپٹی کمشنر ہی کر رہے تھے اور ٹیپ ریکارڈ بھی انہی کا تھا۔ ان دنوں مسعود شاید واحد آدمی تھے جن کے پاس یہ آلہ تھا۔ مسعود باوجود سرکاری گزٹیڈ آفیسر ہونے کے ہمیشہ کھدر پوش رہے اور ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امیر شریعت نے ہمیشہ ان سے محبت کی۔

تقریر کے دوسرے دن انہوں نے امیر شریعت کو چائے پر بلایا، اور دوسرے کمرے میں تقریر کا ریکارڈ لگا دیا۔ امیر شریعت نے اپنی آواز پہچان لی اور بڑے حیران ہوئے، جب انہیں اس نئی ایجاد کا علم ہوا تو اسے بڑا پسند کیا۔ اس پر گھر میں آکر کہا:

”آج میں نے اپنی تقریر سنی ہے، میں بہت اچھا بول لیتا ہوں“

یہ کہہ کر استغفر اللہ پڑھا اور رونے لگ گئے۔

سیاسی اختلاف کے علاوہ مذہبی عقائد میں بھی امیر شریعت سے اختلاف کیا گیا عقیدہ ان کے جذبہ توحید کے پیش نظر ان پر غیر مقلد ہونے کا الزام بھی لگایا گیا۔ مگر اس میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ ابتدا میں حضرت امام علیؑ کا گولہ وی درجۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ ان کے انتقال پر

حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری (رحمۃ اللہ علیہ) کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور تادم  
 واپس حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہے۔

اس واضح حقیقت کے باوجود برصغیر کے مخصوص عوام نے انہیں ایک طرف  
 اگر اپنا سیاسی حلیف خیال کیا، تو دوسری طرف صحیح عقیدے پر بھی یقین نہیں کیا۔ عوام  
 کی انہی باتوں پر حضرت امیر شریعت نے فرمایا تھا۔

”ایک وقت آئے گا کہ تم ہماری قبروں پر آکر روڈ گے  
 اور کہو گے کہ تمہیں لوگ پیچھے تھے۔“

★★★★★

★★★

## سوزِ زمینِ مُلکانِ تیرے!

اے شہنشاہوں کی بستی اولیادوں کے پیار  
 ہر خزاں کے دود میں قائم رہی تیری بہار  
 تو شہیدوں کی ہے مٹی تو امانت دار ہے  
 آج پھر پہلو میں تیرے ہے عطاء اللہ شاہ  
 ہاں کہ وہ باغی رہا برطانوی سرکار کا  
 ہے یہی دار و رسن نے آزیایا تھا جسے  
 یہ خزانہ دفن کرتے ہیں تمہاری خاک میں  
 یہ امانت قوم کی اور سید اجراء ہے  
 دیکھنا ضائع نہ ہو جائے وطن کا بانگین  
 قبر کی مٹی سے کہ دو، لحد کو آواز دو  
 ذرت سے ذرت سے پر ہے تیرے رحمت پروردگار  
 تیرے دامن میں ہیں اب بھی نیک بندوں کے مزار  
 تیری اک تاریخ ہے اور تیرا اک کردار ہے  
 جو ا میرِ وقت تھا ڈرتے تھے جس سے کجگلاہ  
 وہ محافظ تھا وقارِ احمدِ مخنار کا  
 آئینِ افرنگ نے باغی بنایا تھا جسے  
 تاکہ یہ محفوظ رہ جائے زمینِ پاک میں  
 حشر تک ہے تجھ میں یہ تو اس کی چوکیدار ہے  
 داغِ تباہ آنے نہ پائے اور نہ ہو میلا کفن  
 با ادب آئیں فرشتے روک دیں حشرات کو

پاک رہنا چاہیے محشرِ ملک تیرا ضمیر  
 سورا ہے تیرے دامن میں شہریت کا ایمر

(د جانا باز مرزا)